

# صانش

۲۳

پاییز ۱۳۶۹

فصلنامه رازی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران - اسلام آباد

## فارسی

سهم عرفه در گسترش آداب اجتماعی اسلام

مولانا عبدالرحمن خلدی

استاد غلام رضا قدسی

بیدایش و گسترش سلسله چشی در دکن

نشاط عشق در کلام حافظ

میرانس

در پیرامون کتاب سری

تقدیر رساله حکمت‌نامه

شعر فارسی و اردو

## اردو

صحیح نظام الدین تھائیسری

چشمہائیں میری نگاہوں میں

فارسی میں نثر اخلاقی تھا صریح کا مقام



## قابل توجه نویسنده‌گان و خواننده‌گان **دانشن**

- ✿ مجله سه ماهه «دانشن» مشتمل بر مقالاتی پیرامون زبان و ادب فارسی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و شبه قاره می باشد.
- ✿ بخشی از مجله به مقالات فارسی و بخش دیگر به مقالات اردو اختصاص می یابد.
- ✿ مقالات ارسالی جهت «دانشن» نباید قبل از منتشر شده باشد.
- ✿ به نویسنده‌گانی که مقاله آنها جهت درج در «دانشن» انتخاب می شود، حق التحریر مناسب پرداخت می شود.
- ✿ مقاله‌ها باید تایپ شده باشد. پاورقی‌ها و توضیحات و فهرست منابع در پایان مقاله نوشته شود.
- ✿ «دانشن» کتابهای را در زمینه‌های زبان و ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و ایران‌شناسی معرفی می کند. جهت معرفی کتاب دو نسخه از آن به دفتر «دانشن» ارسال شود.
- ✿ آراء و نظرهای مندرج در مقاله‌ها، نقدها و نامه‌ها ضرورتاً مبین رای و نظر مستول رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیست.
- ✿ هر گونه پیشنهاد و راهنمایی خود را به آدرس زیر ارسال فرمائید.

مدیر مسئول **دانشن**

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران  
خانه ۲۵ - کوچه ۲۴ - ایف ۲۶ - اسلام آباد - پاکستان

تلفن: ۸۱۸۲۰۳ - ۸۱۸۱۲۹

كاش

۲۳

۱۳۶۹ یا

فصلنامه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران - اسلام آباد

مدیر مسئول


رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

مدیر مجله

دکتر سید سبط حسن رضوی

مساور المغاربي

دکتر سید علی رضا نقوی



۷۶

۱۳۴۱ نیول

# شناخت

علاء وکلسا - نایدا روحگا روحگاه تلف روحگاه روحگاه نیول مملکتی

روحگاه نیول

نایدا روحگا روحگاه تلف روحگاه نیول

روحگاه نیول

روحگاه نیول

روحگاه نیول

روحگاه نیول

مدیر مساز **دانلش**

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران  
خانه ۲۵ - کوچه ۲۰ - ایف ۲/۶ - اسلام آباد - پاکستان

تلفن: ۸۱۸۱۲۹ - ۸۱۸۲۰۲

بسم الله الرحمن الرحيم  
حَمْدُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَامٌ وَسَلَامٌ دَانش

ت لیف

۶۳۱

لیف مارکس نیشنی لیف

## فوست مطالب

لیشنی لیف دانش

دانش شماره ۲۳

نیشنی لیف

لیشنی لیف ۲۳ مجله دانش دوستان از علم و ادب تقدیم

لیشنی لیف سلامه به عنوان مجله ای که خود را در برای خواهان گذاشت

۳

لیشنی لیف سلامه نیز چکیده های پژوهش را برای مطالعه ارائه داد

۴

لیشنی لیف و متری امداده کرده است که برای آرامش فردان شفافیت

لیشنی لیف بخش فارسی سهم عرفانی اسلام

لیشنی لیف سهم عرفانی اسلام

لیشنی لیف اجتماعی اسلام

لیشنی لیف مولانا عبدالرحمن خلدی

لیشنی لیف استاد غلام رضا قدسی

لیشنی لیف پیدایش و گسترش سلسه

لیشنی لیف چشتی در دکن

لیشنی لیف نوشته: محمد سلیمان صدیقی

لیشنی لیف ترجمه: محسن مدیر شانه چی

لیشنی لیف نشاط عشق در کلام حافظ

لیشنی لیف ۶۱ خانم دکتر نسرین اختر ارشاد

لیشنی لیف میر انس

لیشنی لیف ۹۵ دکتر احمد قیم داری

لیشنی لیف ۱۲۱ دکتر قاسم صافی

لیشنی لیف ۱۲۷ دکتر ساجد الله تفهیمی

لیشنی لیف ۱۴۹ معرفی کتاب

لیشنی لیف ۱- واژه نامه مازندرانی ۲- غالب اور انقلاب ستاون

لیشنی لیف ۳- نکات فن از آغا صادق ۴- شبکه اطلاع رسانی در کشور های اسلامی

لیشنی لیف ۵- کتابشناسی و راهنمای صنایع دستی ایران

لیشنی لیف ۶- افکار اقبال از دکتر محمد ریاض

## اخبار فرهنگی

۱۵۹

۱- جلسه گشایش کلاس فارسی

۲- جلسه معارفه خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، کویت

۱۶۳

## وفیات

میان سید رسول رسا سید ناصر جهان

سراج منیر

استاد دکتر محمد حسین مشایخ فردوسی استاد حسین لسان

محمد عبدالرشید فاضل

صادق گنجی شهید

۱۸۱

رام لعل نابهی

استدران

۱۸۵

شعر فارسی و اردو

## بخش اردو

۲۰۱ ذاکر محمد اختر چیمہ

شیخ نظام الدین تھانیسری

۲۲۲ سیدہ بلقیس فاطمہ

چشمهاش میری نگاہوں میں

۲۴۵ ذاکر سید معین الرحمن

دستنبو کا ایک منفرد قیمتی ابتدیشن

۲۵۹ سید امداد علی شاہ صدر

فارسی میں نثر اخلاق ناصری کا مقام

۲۷۳

مقالاتیکہ برای دانش دریافت شد

۲۷۵

کتابهاتیکہ برای معرفی دریافت شد

۲۷۷

درست نامہ دانش شماره ۲۲

## بخش انگلیسی

1- The efforts of Iranian Muslims to preach Islam in Sindh.

1

By Prof M. H. Faridani

2- Review on Tales from Iran.

7

By Dr. Syed Sibte Hasan Rizvi

11

3- A Farewell.

By Jalal Aal-e-Ahmad

17

4- Tales of Revolutionary Iran.

Retold By Syed Akhtar Husain



## سخن دانش

اینک شماره ۲۳ مجله دانش به دوستداران علم و ادب تقدیم می‌شود. این فصلنامه به عنوان مجله‌ای که خود را در برابر خوشنودگان مسُول می‌داند، این مرتبه نیز چکیده‌های پژوهش را برای مطالعه ارائه داده است و مواد و متنوی آماده کرده است که برای آرامش فکر و صلح جهانی مفید باشند و جوامع بشری که از چهار سو در مورد خطر قرار گرفته است، لااقل از یک روزن غذای ساده و سالم برای پرورش روح بدست او برسد و این فصلنامه نشانگر همین عزم صمیم است.

بحran خلیج فارس و افزایش سرسام آور بهای اشیای موره احتیاج مردم را تکان داده است که درباره آتبه جهان جدی بیندیشند و جهان مارا از زد و خورد و حرب و ضرب نجات بدھند تا نسل تو پز و هشتهای نوین خود را از دو طرف طبیعی و روحی انجام دهند. اینجا فقط مسئله آلدگی محیط نیست بلکه مسئله آلدگی فکر بشر است که دو چهره داردیکی برای خود و دیگری برای دیگران شیخ سعدی گفته است "هرچه برخود مپسندی بر دیگران هم مپسند". ولی حالا در صحنه سیاست بین المللی امروز بر عکس این رفتار می‌شود و در نتیجه این همه ناراحتیها و بدیختیها بوجود د می‌آیند که باعث انحطاط جامعه و انحراف مردم می‌شوند. ای مختلف خدمات

مراکز پژوهشی مختلفی در جهان به تحقیق درباره نحوه بهره برداری از انرژیهای تومشغول اند. اکنون دانشمندان تلاش می‌کنند انرژی خورشید را مهار کنند. ماباید بکوشیم انرژیهای فکری تازه خودمان را هم دریابیم و آنها را مهار کنیم ویسوی کانالهای سالم و مفیدی سوق دهیم

جهت رفع سوی تفاهم و ایجاد حسن تفاهم بین همایانان و همایگان و همکران تابوسیله این ارزیهای نو اخوت و وحدت و محبت بین قشرهای مختلف جامعه و جهان ایجاد گردد.

جهانی امروز جهانی کاملاً جدید است که با جهان گذشته تفاوت بارزی دارد. همگامی با آن یا کوشش تغییر خط مسیر آن نیز روش تازه ای رامتناظر است و زبان جدیدی می خواهد. بنا برین لازم است برای حل و فصل مسائل بفرنگی که امروز جهان را در رقابت‌های مناقصه و زد و خورد یا دشمنانه و تجاوز کاریهای شاطرانه انداخته است، مقاهم اصیل اخلاقی و انسانی و اسلامی را به کار بیندازند و امیدبای نو در قلوب مردم ستمدیده ایجاد کنند. مطالعه شاهکار یا گذشتگان و چکیده های متفکران دلسوز بادم مسیحی خود در کالبد افسرده روح تازه می دهد تا صاحبان نظر امروز هم بدانند که "توانا بود هر که دانابود" نه اینکه توانا بود هر که دارای نیروی تعدی و ستمگری باشد.

مدیر دانش

- شماره ۲۳ - هفدهم مهر ۱۳۶۹ ش

مهر-آذر ۱۳۶۹ ش

جمادی الاول ۱۳۱۱ ه ق

دسامبر ۱۹۹۰ م

\*\*\*\*\*

دکتر محمد کلیم سهرامی

استاد بخش زبانها

دانشگاه راجشاہی، بنگلادش

لیسانس ادبیات فارسی و ادب ایرانی، کارشناسی ارشد ادب ایرانی

و کارشناسی ارشد ادب ایرانی، کارشناسی ارشد ادب ایرانی

و کارشناسی ارشد ادب ایرانی، کارشناسی ارشد ادب ایرانی

و کارشناسی ارشد ادب ایرانی، کارشناسی ارشد ادب ایرانی

و کارشناسی ارشد ادب ایرانی، کارشناسی ارشد ادب ایرانی

و کارشناسی ارشد ادب ایرانی، کارشناسی ارشد ادب ایرانی

و کارشناسی ارشد ادب ایرانی، کارشناسی ارشد ادب ایرانی

## سهم عرفاء در گسترش آداب

### اجتماعی اسلام در بنگال

در مناطق مختلف شبه قاره هند متصوفینی میزیسته اند که فعالیتهای معنوی و روحانی آنها در این مناطق گسترش یافته است، و آثار اخلاقی و معنوی از آنها در این مناطق بجای مانده است. همچنین در بنگال گروه زیادی متصرفین زندگی میکرده اند وابعین منطقه از وجود معنوی آنها برخوردار بوده است و نفوذ شان در بنگال بیش از مناطق دیگر بوده است بطوریکه کثرت مسلمانان وطبع صوفیانه مردم آن منطقه گواه این مطلب است.

عرفای بنگال به اسلام و جامعه خود از راههای مختلف خدمات زیادی می‌نمودند، صدهانه افزای مریدان و پیروانشان طی ادوار مختلف وارد بنگال گردیدند و به شهرها و روستاها و حتی بدوز ترین نقاط این منطقه راه یافتند، و روز بروز به تعداد آنها افزوده میگشت و آنان در ترویج دین و حمایت از آن میکوشیدند و مردم را به تصوف و روحانیت تشویق

میکردنند.

مت sofین هر کجا که وارد می شدند بواسطه حُسن اخلاق و قدرت فوق العاده روحانی و همچنین رفتار شایسته شان نسبت بعواطف و انسان دوستی و فرهنگ اسلامی باعث برآن میشد که توده های غیر مسلمان شیفته آنان گردند. بعلت فعالیتهای مبلغان دینی، احکام و دستورات پسندیده اسلام چنان پیشرفت نمود که توده های غیر مسلمان مانند بودانهایها و هندوها بسوی اسلام روی میآوردند، در حوالی مالده و دیناج پور، واقع در شمال بنگال، در نتیجه فعالیتهای شیخ جلال الدین تبریزی و پیروان او، اسلام توسعه و ترویج یافت

گفته اند که وقتی شیخ جلال الدین تبریزی به پندره وارد شد، مردم دسته دسته بسوی او می آمدند و در حضورش اسلام می آوردند. همچنین صوفی بزرگ شیخ سراج الدین اخی و شیخ نور قطب عالم، در شمال بنگال، عده بسیاری را در حلقة اسلام در آوردند. طبق روایت ابن بطوطه اهالی سلیمان در نتیجه تبلیغات دینی شاه جلال الدین مجرد مسلمان شدند. ادبیات محلی، روایت ابن بطوطه را تصدیق می نماید، ترانه محلی حکایت میکند که در سلیمان صد هانفر هندو بودند لیکن حتی یک نفر مسلمان هم دیده نمیشد و این شاه جلال مجرد بود که در آغاز مردم را به ناز خواندن دعوت کرد. (۱)

توسعه اسلام در کھولنا و جسور بواسطه فعالیتهای خان جهان علی (متوفی ۸۶۳ هـ) انجام گرفت. مناطق چاتگام و نواکھالی در اواسط قرن بیستم پجری قمری بدست مسلمانان فتح شد که هنوز هم کثرت مسلمانان در این منطقه بخوبی پیداست. عرفای اسلام به مناطق غیر اسلامی نفوذ پیدا کردند و به آرامی و بطور نا محسوسی دین اسلام را بین مردم ترویج دادند.

از ادبیات بنگالی چنین بر می‌آید که در سال ۱۷۸ (پجری قمری ۱۲۸۰ میلادی) شیخ شرف الدین ابو توامه (ابو توامان) خانقاہ مرکز تربیتی سنارگاؤ را تأسیس نمود. این مرکز تربیتی برای پیشرفت علوم اسلامی این، امررا با ثبات میرساند که قبل از ورود شیخ ابو توامه عده‌ای از مسلمانان در آنجا میزیسته‌اند.

گذشته از توسعه دین اسلام، روحانیون دینی نقش برجسته‌ای در گسترش و تحکیم حکومت اسلامی در بنگال ایفا نمودند، که این نقش با بدست خود متصوفین و یا از طریق همکاری با سرداران اسلامی انجام می‌شد، تا اینکه متصرفات اسلامی بدور ترین مناطق کشیده شد. روایات محلی راجع به متصوفین مانند بابا آدم شهید، شاه سلطان ماهی سوار و مخدوم شاه دوله شهید وغیره که بخاطر دین اسلام، علیه را جگان هندو بپاخته استند، چنین وا نمود می‌کنند که عده‌ای از روحانیون بحکمرانان و سرداران اسلامی ملحق شدند، تا مملکت اسلامی را توسعه دهند. بعضی از ناروانیها و اجحافاتی که بندو‌ها بر اتباع مسلمان در بنگال روا میداشتند، جلوگیری بعمل آوردند.

شرکت متصوفین در ارتقای اسلام، باعث تهییج روحی و اخلاقی سر بازان می‌گردید، در نتیجه قوای اسلامی بر توده‌های غیر مسلم پیروزی گردیدند. ظفر خان غازی (۱) و شاه صفی الدین (۲) بر علیه راجای بندو سرتگاؤں قیام کردند و آن منطقه را جزو قلمرو اسلامی بنگال در آوردند. شاه جلال مجرد سلیمانی و یارانش با قوای سکندر غازی همکاری کردند و بر علیه راجای سلیمانی بپاخته و سلطنت اسلامی را در آنجا بنیاد نهادند. اگرچه بنا بر روایات این موضوع حقیقت دارد که خان جهان علی "روحانی شجاع" یک مبارزه اصولی را بمنظور دستیابی بقلمرو کهولنا و چیسور آغاز نمود و آن منطقه را تحت نفوذ اسلام در آورد، کمک و مساعی شاه

اسماعیل<sup>(۴)</sup> غازی نیز در توسعه پادشاهی سلطان باریک کاملاً روشن است. این شخص با موققیت باراجای اریسه جنگ کرد و مندران حیطه پادشاهی او را بتصرف درآورد. همچنین در جنگ علیه راجای کامروپ (آسام) بفتحات بزرگی نایل آمد.

همچنین در دورانهای فترت، روحانیون بحکومت و جامعه اسلامی خدمات زیادی نمودند. در روایات آمده است که چگونه متصوفین در مقابل مصیبیت و بد بختیها قد علم میکردند، و با نیروی معنوی و اخلاقی خود اعمال ستمگرانه رؤسای پندو را دفع می کردند. شیخ نور قطب عالم دولت بنگال را از یک مصیبیت بزرگ نجات داد. راجاکنس (گنیش) علماء و شیوخ را آزار میرسانید، و سرانجام مسلمانان بنگال با مصیبیتی بزرگ رو برو گردیدند، و در این ایام فترت جامعه بنگال بوسیله شیخ نور قطب عالم از بد بختی نجات یافت. شیخ نامبرده به اختلافی که بین مسلمانان بود خانه داد و ایشان را برای یک بدف مشترک متعدد ساخت. او از ابراهیم شرقی<sup>(۵)</sup> سلطان جونپور برای حفظ مسلمانان بنگال کمک خواست، و میتوان گفت که در آن دوره تاریک توسط شیخ نور قطب عالم حکومت و زندگی اجتماعی مردم نگهداری شد و خدمات و مساعی وی در جامعه مسلمانان روح تازه ای بخشد. حقیقتاً سهم او در پیشرفت سیاسی مسلمانان وزیان فارسی بنگال ابیت فراوانی دارد.

متصوفین همواره صرفاً تبلیغات دینی را در نظر داشتند، و در کارهای اداری و سیاسی دولت مزاحم نمی شدند، اما هنگامیکه جامعه را در خطر میدیدند برای رفع آن، بلاfacسله اقدام می کردند. شیخ علام الحق نخستین کسی بود که سلطان سکندر شاه را از خطرات "ملت" آگاه کرد، ولی سلطان نامبرده توجهی نکرد، و از ترس شیخ علام الحق که نفوذ و تأثیر بیشتری در جامعه پندوا داشت، سکندر شاه (۷۵۸-۷۹۲ هـ / ۱۳۵۷-۱۳۸۹ م) وی را به سنارگاآن تبعید کرد، واقعات بعدی نشان

میدهد که حق با شیخ علام الحق بود.

مولانا مظفر شمس بلخی، خلیفه روحانی مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد ابن یحییٰ منیری در مکتوبی که به سلطان غیاث الدین اعظم شاه (۸۱۲-۷۹۱ هـ / ۱۴۰۹-۱۳۸۹ م) پسر و جانشین سلطان سکندر شاه نوشته است، باگواه، آوردن چند آیه از قرآن مجید و احادیث، او را از دوستی با اشخاص که بخدا ایمان ندارند بر حذر داشته، و از بکار گماردن چندین اشخاص بمقامهای حساس دولتی باز میدارد. وی از قول مشایخ و صوفیه تیز دلایلی آورده است که منکرین خدا را نمیتوان بمقام وزارت گمارد، یا معتمد علیه خود دانست.

چنانکه از شرح احوال و انکار صوفیه در بنگال برمیآید، بیشتر ایشان در علوم اسلامی دارای درجه متازی بودند، و برای مریدان و جانشینان روحانی پیش از بیعت تحصیلات علوم اسلامی را لازم میدانستند، بطوريکه از شرح زندگانی حضرت اخی سراج الدین عثمان ظاهر میشود<sup>(۶)</sup>. پیش از بیعت بدست شیخ نظام الدین اولیاً در دهلی تصمیم گرفت که به تکمیل علوم اسلامی بپردازد، تا منازل روحانی را زودتر بپیماید. در زمان قدیم در سراسر شبه قاره، اکتساب علوم اسلامی برای صوفیه اجباری بود. میتوان گفت که خانقاھهای متصرفین مهمترین مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی بود که در آنجا شاگردان در دروس علوم دینی و روحانی حضور می یافتدند.

در سطور زیر چند مرکز علمی اسلامی را شرح میدهم که دور و بر آنها خانقاھهای صوفیه بوجود آمد، و از سرچشمه علم و تصرف بنگال و شمال هند را مستفيد نمود.

بنا بنوشه شاه شعیب<sup>(۷)</sup>، شیخ یحییٰ منیری پدر مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد در "ماهیسون" تحصیلات خود را در محضر مولانا

تقی الدین عربی به پایان رسانید، باحتمال قوی ماهیسون اسم قدیم "ماهی سنتوش" است که اکنون در شهرستان راجشاهی میباشد، و پیش از ۱۹۴۷ میلادی به شهرستان دیناچبور ملحق بود<sup>(۸)</sup> و بطرور یقین نمیتوان گفت آیا مولانا تقی الدین عربی در آنجا مدرسه‌ای بنا کرد یا خیر، ولی بدون شک وی بتدریس علوم دینی مشغول بود و دانشجویان از خارج بنگال مثل شیخ نامبرده برای کسب علم بدانجا روی میآوردند.

مولانا شیخ شرف الدین ابوتوامه (توامان) که در ربع آخر قرن هفتم پجری قمری (سیزدهم میلادی) یکی از علماء و مشایخ متبحر بنگال بشمار میرفت، در سنارگاؤ، مرکز تربیتی خود را تأسیس نمود، که از هر گوشه و کنار حتی از شمال هند، عده کثیری از دانش آموزان، بدانجا روی آورده مشغول تحصیلات علوم دینی شدند. علاوه براین، شیخ ابر توامه کتابی در موضوع تصوف بنام "مناقمات" به فارسی برشته تحریر درآورد که بین علماء و مشایخ شبهه قاره معروفیت چشم گیری داشت. مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد ابن یحیی منیری یکی از شاگردان برجسته شیخ نامبرده می‌باشد، و کتب بسیاری از نوع مکتوبات و ملفوظات و تألیفات و رسائل به فارسی، در موضوع تصوف و علوم اسلامی دارد، که در نشر متصرفانه شبهه قاره پاکستان و هند تاکنون هم دارای مرتبه بلندی میباشد. یکی دیگر از شاگردان مولانا ابر توامه که اسمش معلوم نیست راجع موضوع فقه اسلامی کتاب مختصری بنام "نام حق" به فارسی ترتیب داده که مبتنی بر تعلیمات شیخ نامبرده میباشد.

دسته دیگری از متصرفین که در پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی سهم بسزائی داشتند، و شخصیت‌های ایشان در پندوا سرچشمه علوم دینی و روحانی گردید، عبارت انداز شیخ علام الحق و شیخ نور قطب عالم که در قرن هشتم و نهم پجری قمری (۱۵/۱۴ میلادی) میزیستند. شهرت صوفیان

نامبرده توجه دانش آموزان و طالبان علوم اسلامی و تشنگان تصوف را از شمال هند و اطراف و اکناف مملکت بنگال به سوی "پندوا" جلب کرد. بعنوان مثال میتران گفت که میر سید اشرف جهانگیر سمنانی، شیخ ناصرالدین مانکپوری، شیخ حسین دهگر پوش از شمال هند در مدرسه پندوا نه فقط علوم اسلامی را آموختند، بلکه علم تصوف را نیز فراگرفتند. شیخ نور قطب عالم نیز در پندوا مدرسه‌ای بنا کرد که در آنجا متتصوفین معروفی مثل حسام الدین مانکپوری و شیخ کاکو در تصوف و علوم اسلامی مدتی مشغول تحصیل بودند. مدرسه مزبور سپس از طرف سلطان علام الدین حسین شاه (۹۲۵-۸۹۹ هـ / ۱۴۹۳-۱۵۱۹ م) مورد توجه قرار گرفت، و سلطان مزبور املاکی برای آن مدرسه وقف کرد. علاوه بر این مکتوب نور قطب عالم که بنام بعضی از علماء و شیوخ و مریدان نوشته شده دارای ابیت فراوانی است که از آن تبحیر و ذکارت شیخ نامبرده در تصوف اسلامی و علوم دینی بعد کافی روشن میگردد.

خانقاہ شیخ حامد دانشمند معروف به "هودامیان" در باگها ناحیه ای در شهرستان راجشاہی بصورت یک دستگاه علمی و روحانی توسعه یافت که ذکرش را شخصی بنام عبداللطیف در دوره شاهنشاه جهانگیر در خاطرات خود آورده است.

خلاصه اینکه خانقاھهای متتصوفین بنگال بدون پیچ شک و تردیدی مرکز علوم دینی و فرهنگی و فارسی بوده است که در آنجا نه فقط در حدود بنگال بلکه در سراسر شبه قاره هند و پاکستان صوفیه و علماء کسب فیض نمودند و مشعل روحانیت و اسلام را درخشناد و تابان نگاه داشتند، و حقیقت آنست که متتصوفین در پیشرفت آداب اجتماعی مردم بنگال از نظر فرهنگ و زبان فارسی و تقدیم اسلامی سهم بزرای دارند.

در خانقاھهای صوفیه خدمات بشری نیز انجام می‌شد و مردم خدا

ترس و پرهیزگاراز آن سکون و اطمینان ذهنی و روحانی می‌یافتدند. خانقاہ صوفیه در آن دوره جنبه دیگری نیز داشت که عبارت بود از بیمارستان و دارالمساکین که در آن مراکز بوسیله شیوخ و مریدانشان مردم مريض و ضعیف نگهداری میشدند. در هر خانقاہ "لنگر خانه ای" وجود داشت که در آنجا برای مساکین غذای رایگان فراهم میشد. پر"لنگر خانه" برای تأمین خرج خود موقوفاتی داشت که دارای درآمدی وافر بود، مثل لنگر خانه شیخ جلال الدین تبریز آباد و لنگر خانه شیخ نور قطب عالم در پنداشت، بنا بر این میتوان گفت خانقاہ و لنگر خانه صوفیه برای مردم مفلوک الحال وسیله اطمینان بخش بود و بدینواسطه صوفیه به اجتماع مردم نزد پکتر و باروجه شان نیز آشنا میشدند.

در زمان سلاطین مسلمان فعالیتهای متصرفین در بنگال رویه افزایش نهاد. بنا براین مردم بنگال مستقیماً تحت تاثیر صوفیه قرار گرفتند. شکی نیست که زندگانی صوفیه داری جنبه روحانی و معنوی بوده است و بادنیای مادی علاقه ای نداشتند، و دین حنیف اسلام را یک دین ساده و مسلک صلح و دوستی میدانستند. در نتیجه بین فعالیتهای مسلمانان بنگالیان به تصوف و عدم مقابله به دنیای مادی علاقه پیدا کردند.

در خانقاها مسلمانان و هندوان با هم گرد می‌آمدند و آزادانه بصحبت میپرداختند. بدین ترتیب در میان هر دو فرقه‌لتی بعمل آمده هندوها و مسلمانها با یکدیگر در رشته اخوت پیوستند. بعلت همین آزادی عمل، دسته تازه ای بنام "ستیاپیر" بوجود آمد که داری میراث و فرهنگ مشترک است و نهضت دیگری بنام مذهب و شنو در جامعه هندوان بنگال توسط "چیتنا" (۱۰) آغاز گردید.

محبت و همدردی و خدمات بشری، توجه هندوان را بطرف صوفیه

جلب نمود و عده کثیری از آنا بدست متصوفین، اسلام را قبول کردند و دیگران اگرچه بر دین خویش باقی ماندند، اما بحلقه ارادات صوفیه درآمدند، تا اینکه در مزارت صوفیه هندوها نیز حضور یافتند و به توسط ایشان برای تحصیل آرزوهای خود دست بدعا بر میداشتند. "هلا یاد می‌سرا: در کتابی بنام "شیخ شیهدیا" مینویسد (۱۱) که غیر مسلمان به شیخ جلال الدین تبریزی احترام فراوان می‌گذاشتند و در زمان آلام و مصائب از ایشان کمک می‌خواستند در پیان؛ زیان این صوفیان بیشتر فارسی بود.

## مأخذ و منابع

۱- بانگی مسلم پر بھارا ص ۹۸ از دکتر محمد انعام الحق ، کلکته ۱۹۲۵ میلادی.

۲- ظفر خان غازی یکی از مبلغان اسلامی و فاتح سنتگاؤن می‌باشد. او در زمان سلطان رکن الدین کیکاووس و شمس الدین فیروز شاه (۱۲۹۸-۱۳۱۳ق) استانداری سنتگاؤن را بعده داشت. تاریخ فرهنگی بنگال مجلد اول ص ۱۲۰ و آب کوثر از (شیخ محمد اکرام) ص ۳۲۱

۳- شاه صفی (قرن هفتم هجری) از صوفیان سلسه قلندریه بنگال است که بر علیه ستمکار یهای حاکم سنتگاؤن قیام کرد و بنابر استند عای او سلطان بنگال شمس الدین فیروز شاه لشکر هایش را یانجا فرستاد راجای تامیرده با شکست روپرورد (رک.. تاریخ فرهنگی بنگال، مجلد اول ص ۱۲۱-۱۲۰)

- ۴- شاه اسماعیل غازی در مکه چشم بجهان گشود و برای اشاعه دین حنفیه اسلام پنهان سلطان بنگالی رکن الدین باریک شاه (۸۶۴-۸۷۹ق) (۱۴۵۹-۱۴۷۴م) وارد لکهنوی (پایی تخت بنگال) شد. او بفتح آن مرزهای راجگان هندو اوریس و کامروپ نایل آمد و از طرف سلطان باریک شاه لقب غازی یافت. وی بسال (۸۷۸ق/۱۴۷۴م) بحکم سلطان ناصرده بقتل رسید. پیر محمد شطاری کتابچه‌ای بنام "رسالت الشهداء" تالیف نموده است که حاوی شرح زندگانی شاه اسماعیل غازی می‌باشد (رک تاریخ فرهنگ بنگال مجلد اول ص ۱۲۴ و آب کوثر تالیف شیخ محمد اکرام، ص ۳۲۱)
- ۵- یکی از سلاطین شرقیه است که بسال (۸۰۳ق/۱۴۰۰م) ایسلطفت رسید و بسال (۸۴۴ق/۱۴۴۰م) درگذشت. (بزم صوفیه تالیف صباح الدین عبدالرحمان، ص ۴۵۹)
- ۶- مجله المجمن تحقیقات بهار پتنه (انگلیسی) ۱۹۵۶ میلادی، (ص ۱۱-۱)
- ۷- مناقب الاولیاء (مراجعه به مکتبات صدی) از شیخ شرف الدین احمد منیری (پتنه) ۱۲۸۶ق (ص ۳۲۹)
- ۸- تاریخ بنگال (مجلد دوم) مرتبه جادومنات سرکار، دانشگاه داکا ۱۹۴۸میلادی
- ۹- تاریخ فرهنگ بنگال (مجلد اول) از دکتر محمد عبدالرحیم، کراچی ۱۹۶۳م ص ۱۴۸
- ۱۰- درنتیجه و اثر نفوذ مسلمانان در جامعه هندوان فرقه "ستبایر" بوجود آمد، هندوان این فرقه به متصرفین مسلمان احترام فراوان می‌گذاشتند و نه تنها معتقد قوای روحانی ایشان بودند بلکه از آنها خواستار دعا نیز می‌شدند.
- ۱۱- تاریخ فرهنگ بنگال (مجلد اول) از دکتر محمد عبدالرحیم، کراچی ۱۹۶۳میلادی ص ۱۴۹

مولانا عبد الرحمن خلدي

مولانا عبدالرحمن خلدی یکی از سخنوران پارسی گوی پنجاب بود و در آغاز سده سیزدهم هجری قمری (هیجدهم میلادی) در روستایی بنام وداله بخش سیالکوت ایالت پنجاب (پاکستان) دیده به جهان گشود و همانجا دیوان قضا بر ورق حباتش خط نهاد کشید. متاسفانه سال و فاتح در پرده خفا مستور است. از مطالعه آثار او که در دسترس ما است چیزی درباره احوال و آثارش بدست غمی آید. از عده تالیفات او هم آگاه نیستیم و غمی دانیم که آیا جمله ای از آثارش از مرور زمان و تحولات دوران محفوظ مانده است یا خیر؟ ازین رو از خوانندگان گرامی چشم داریم که اگر از احوال و آثار آن شاد روان اطلاعات بیشتری دارند از اظهار آن خود داری ننمایند.

مانی دانیم چند اثر ارزشمند خلدي بجا مانده است البته دست کوتاه ما تاکنون به دو اثرش رسیده است. یکی فرهنگ خوش رنگ یا فارسی نامه و دیگری خلدي نامه است. مطالعه این آثارش برما آشکارمی کند که او علاقه مفرطی به زبان و ادب فارسی داشت و بعد از تحصیل علوم متده اوله آن زمان، مانل بس و دن شعر شد و در زمینه دالله او

یکی از شمع فروزان شبستان شعر و ادب بود و بقولش قریه و داله از اشعارش پر نغمه شد. فقید سعید آقای محمودشیرانی غزلی بزیان اردو که زاده طبع این شاعر تو انا است در تألیف لطیف بنام "پنجاب میں اردو" (اردو در پنجاب) نقل کرده است. ازین می توان استنباط کرد که طبع موزونش، او را وادر بسروden شعر کرد و او نه تنها به زبان فارسی بلکه به زبان اردو نیز شعر میسرود.

از قرائن معلوم می شود که خلدی در دبستانی درس می داد و بویژه زبان فارسی می آموزاند و برای شاگردان خویش فرهنگ خوش رنگ (معروف به فارسی نامه) را در حیطه تحریر در آورده. این فارسی نامه مشتمل بر مصادر فارسی و ترجمه آنها بزیان پنجابی است. او فقط ترجمه یک ضمیر شخصی یعنی سوم شخص مفرد، هشت فعل یعنی فعل ماضی، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر، فعل نهی و فعل مضارع را از مصدر آمدن بطور نمونه آورده است ازین رومی توان حدس زد که در آن زمان زبانهای خارجی را بوسیله زبان مادری می آموخته اند.

خلدی درباره سبب تألیف "فرهنگ خوش رنگ" می گرید که روزی در دبستان نشسته بودم، کودکی فارسی نامه ای، که مشتمل بر هفت هشت ورق بود به پیش نهاد.

چون نگه کردم اندر آن دفتر  
نسخه بر جسته آمدم بنظر  
نامه فارسی عجب دیدم  
بهر تعلیم خوش سبب دیدم  
پس دریغ آمدم که این نامه  
سر و پای ندارد و جامه

اندر اين عرصه فراز و نشيب

بى سرو پاي کس ندارد زيب

چه عجب گر قلم بر افرازم

چند بيتي بر او رقم سازم

لا جرم بر فراختم نامه

خلعتش ساختم زيادامه

تاكه با لفظهاي رنگا رنگ

از سر نو توشتمن اين فرهنگ (۲)

طبق بيانش وي فارسي نامه را در سه روز بسال ۱۲۳۰ هجرى

قمرى (۱۸۱۵-۱۸۱۴ م) ترتيب داد:

روز شنبه غودم آغازش

تا دوشنبه رسيد پر داشش

روز سه شنبه چونکه صبح دمید

این خجسته سخن به ختم رسيد

گرز تاريخ او سخن رانى

دو صد و يك هزار و سی دانى (۳)

(۱۲۴۰)

خلدي اصلاح شعر از شاعري بنام متخلص به خادم مى گرفت.

هويت اين سخنور عالي قدر بربما مجھول است شايد اين شاعر نظام الدین

باشد که خادم تخلص مى کرد و انشاي خادمى که در ۱۲۲۶ هجرى قمرى

(۱۸۱۱ ميلادي) پپايه تكميل رسيد، يكى از تاليفات اوست. غزلی از

خلدي نامه اين حقيقت را چنین اظهار مى خايد

چراغ خانه شعر است خادم

كه پيشش ديگر اند اين زمان هيج

چو نورانی ست ازوی باغ پنجاب  
 خدا نرساندش باد خزان هیج  
 چو در پیش برم اشعار خود را  
 نه بگذارد غلط را درمیان هیج  
 چو تیر از خود کجا پرواز دارم  
 اگر یاری نبایم زان کمان هیج  
 چسان و صفحش کنم اظهار خلدى  
 که شایانش غنی بین زبان هیج

درین غزل او پایه خود را کمتر از محمد لاهوری نشان می دهد و  
 از راه عجز و انکسار می گوید:

چسان هصر شود شعرم به محمود  
 که او شمس سخن من ذره سان هیج (۵)

باید یاد آور شویم که مابوسیله مجله جلیله "پاکستان مصور" قبل از رساله بیت بازی که به تقلید محمد نامه محمد لاهوری متوفی بعداز (۱۵۰۱ هجری قمری) (۱۶۰۲ میلادی) در حیز تحریر آمده بود معرفی نموده ایم، لذا چون خلدى نامه عبدالرحمن خلدى که در موزه ملی کراچی (پاکستان) محفوظ است و به تقلید محمد نامه نگارش یافته بود مطالعه نمودیم نخواستیم که این اثر گرانقدر در پرده استخار پاند و لذا معرفی این رساله بیت بازی رابه علاقمندان زبان شیرین فارسی برخود لازم شمردیم امیدواریم که ابیاتش موجب تنشیط و خوشحالی ارباب فضل و صاحبان ذوق سلیم باشد.

مولانا خلدى در همه غزلیات خلدى نامه بحور غزلیات محمد نامه را بکار برده است ولی این رساله نیز مثل رسائل دیگر بیت بازی از چند حیث تفاوت دارد.

۱- محمود در محمود نامه همه حروف تهجی را ردیف قرارداده يك  
غزل که دارای هفت بیت می باشد در هر ردیف آورده است ولي خلدي دو  
غزل در هر ردیف سروده است اما بطوری که غزل اول هفت بیت و غزل  
دوم فقط پنج بیت دارد. بطور مثال غزل ردیف الف این دو شاعر را  
درینجا نقل میکنیم. محمود لاھوری می سراید

ای داغ بردل از غم حال تو لاله را  
شمنده ساخت آھوی چشم غزاله را  
از انفعال لعل لبت لاله درچمن  
دیگر بدست خویش نگیرد پیاله را  
آگه نگشت شاهد گل گرچه صد هزار  
بلبل ز روی درد کشید آه و ناله را  
آمد برون بگرد رخت خط عنبرین  
کس گردمه ندید بدین گونه هاله را  
آسان زخوان وصل تو کس بهره ای نیافت  
مشکل توان گرفت بدست این نواله را  
اوصاد گل ز بلبل بیدل توان شنید  
چون مثل او نخواند کس این رساله را  
آزده کی کند دل محمود را ایاز  
نیکو کند مطالعه گر این قباله را (۶)

خلدي در جواب این غزل چنین نغمه سرامی شود:

ای غیرت عذار تو خون کرد لاله را  
وی خبره کرد چشم تو مشکین غزاله را  
ای از هراس لشکر حسن تو مهر و ماه  
سازند قلعه راست بخود دور هاله را

ازان بها شماره و صد جان به قیمتش /  
 از دست تو هر آنکه ستاند پیاله را شنیده  
 افتاده ام چو روز نخستین بقید عشق  
 نتوان کنون گسیخت ز پا این حباله را  
 اوراق کهنه گشت ز محمود و هم ایاز  
 خواهم که باز تازه کنم این رساله را  
 اوصاف دلبر از توبیان کی شود ولی  
 پر نفمه کرد شعر تو خلدی "وداله" را (۷)

غزل دوم از خلدی که هم درین ردیف است و فقط پنج بیت دارد  
 نیز اینجا نقل می شود:

اول بنای راست کن آهنگ ناله را  
 آنگاه در ترانه بیاور مقاله را  
 از دوده چراغ، منور دلان عشق  
 بر لوح سینه صاف نویس این رساله را  
 اکسیر زندگیست مس جسم را الم  
 در دل نگاه دار غم دیر ساله را  
 احوال دل اگر تو بپرسی، زاشک پرس  
 طفلان بخوب وجه شناسند واله را  
 این خلدی از گروه جگر خوار تست هم  
 ای داغ بر دل از غم خال تو لاله را (۸)

ازین غزلیات خود پیدا است که چهار از هفت بیت غزل محمود از  
 الف مددوه شروع می شود لاین خلدی دریازده بیت دو غزل خود یک بار هم  
 الف مددوه را بکار نبرده است. همچنین شش قافیه که محمود در غزل  
 خوش بکار برده است هم در غزلیات خلدی دیده می شود و این روش در

ديگر غزليات هم ادامه دارد يعني بعضی از قوافی که در غزليات محمود  
بكاري رفته است در غزليات خلدي نيز آمده است اما توارد مضمون کمتر  
بنظرمی آيد:

- ۲- محمود غزلى در ردیف لانسروده است لاتن خلدي درین  
ردیف نیز دو غزل دارد که تنها به نقل مطلع آنها اکتفامی کنم. مطلع غزل  
اول بدین قرار است:

لام بزلفت اسیر هست چولام بلا  
پای دل افتاد زان درخم دام بلا (۹)

مطلع غزل دوم چنین است:  
لاتق تکيه کجا باشد این بام بلا  
ترك کن ای دل ازین طرفه مقام بلا (۱۰)

ازین آشكارمي گردد که خلدي درسي و سه ردیف دو غزل سروده  
است وچون غزل اول هفت بيت و غزل دوم پنج بيت دارد ازین رواین رساله  
جعماً شصت و شش غزل و سیصدونود وشش بيت دارد.

این شاعر خوش گو غير از هنده غزل در همه غزليات يکی از  
صراع های مطلع غزل محمود را در مقطع غزل خوش آورده است يعني  
گاهی صراع اول و گاهی صراع ثانی می آرد. بطور مثال غزلى که  
محمود در ردیف میم سردوه است دارای مطلع زیر است:

مرا هست آن پری پیکر دلارام  
که بی رویش غمی گبرد دل آرام"

خلدي در غزل اول صراع ثانی و در غزل دوم صراع اول را در  
مقاطع آورده است:

مرا پرمی شد از خون جگر جام  
زیاد آن لب نوشین گلفام

مهیا گر نباشد خوان وصلش بود شهدو شکر چون زهر در کام  
مه از تاب رخش بیتاب گردد  
بر آید گرشبی آن شوخ بر بام  
میسر کی شود زفسون و نیرنگ  
وصال آن پری روی گل اندام  
مقید گشت دل از خال در زلف  
بلی مرغ او قتداز دانه در دام  
مکن دلبر جدا یارب ز خلدی  
"که بی رویش نمی گیرد دل آرام" (۱۲)

غزل دو مش درین بعرو ردیف چنین است:

من آنم رشته بر پا، مرغ ناکام  
که هر شاخ گل است از بهر من دام  
مرادم بوسه از لعل لب اوست  
ولی آمیخته با چند دشنام  
مبارک بادا آبی تشنه جانان  
که امروز آن صنم بگرفته صصم  
مکن از حور خلدی عرض بر من  
مرا هست آن پری پیکر دلام" (۱۳)

خلدی در بعضی از غزلیات یک مصraig را در هر دو غزل آورده است. مطلع غزل محمود اینست:

ظلم کردی پیشه خود از تو یاران راچه حظ  
گر نباشد عدل از تو دوستداران راچه حظ (۱۴)

خلدی مصraig اول را در غزلیات زیر آورده است:

ظلم پیشه گرنیاشی جان سپاران راچه حظ  
 مرهم رحم ار نداری دلگاران راچه حظ  
 ظل دامانت نیفتاده است بر فرق کسی  
 برسر راهت نشستن خاکساران راچه حظ  
 ظلمت شام جدائی را هلال عید وصل  
 گر زا بر ویت نباشد روزه داران راچه حظ  
 ظهر دیگر شام بنماید مرابی روی تو  
 غیر یاد طره ات شب زنده داران راچه حظ  
 ظرف خاموشی شدن خون دل خرد خورد نست  
 غنچه دار از لا جوابی گلزاران راچه حظ  
 ظل کجا باشد که مرغ وصل توافت بدام  
 روز و شب از دانه ریزی سجده داران راچه حظ  
 ظالما خلدی نگوید آنچه گرید غزنوی  
 "ظلم کردی پیشه خود، از تو باران راچه حظ" (۱۵)

غزل دو مش به این قرار است:

ظلما جز گرد کویت خاکساران راچه حظ  
 غیر بوس آستانت تاجداران راچه حظ  
 ظلمت زلف و ضیای عارضت گر یاد نیست  
 روزه داران راوهٔم شب زنده داران راچه حظ  
 ظهر و پادر راه کام دل نداند ماندگی  
 ورنه از جولان و پویه نی سواران راچه حظ  
 ظاهر آید صد ملال از دیدن مزرع مرا  
 یارب از فصل بهاران لاله کاران راچه حظ  
 ظل عدل از سرو قدت خواستی خلدی ولی  
 "ظلم کردی پیشه خود از تو باران راچه حظ" (۱۶)

درین غزل نیز چنانکه گفتم خلدی مصراج اول مطلع غزل محمود را در مقطع آورده است. این نکته هم جالب توجه است که خلدی در مقطوعهای بعضی از غزلیات محمود را شاه غزنه یا غزنوی می‌گوید مثلًا.

پیروی شاه غزنه زان کنم خلدی که گفت

"پُردهٔ ساقی پیاله گاه راس و گاه چپ" (۱۷)

گوش تا کردم حدیث شاه غزنه خلد با

گرم گرم از چشم من می‌بارد از هجران تگرگ (۱۸)

شوکت آن مه شنو خلدي که گويد غزنوي

پادشاه مستند حسن است خوبان لشکرش (۱۹)

نمی‌دانیم که او محمود نامه را از محمود غزنوی فاتح شبه قاره پاک و هند می‌پنداشت؟

غزل از جمله اصناف سخن بیشتر مورد پستند هر که و مه است زیرا این عواطف و احساسات و جذبات و تمایلات انسانی را پنحو احسن ابراز می‌نماید و مطالب گونا گونی که در ماجراهی عشق و محبت روی می‌دهد بیان می‌کند بدین علت سخنوران. ذی شان که بر آسمان ادب مثل آفتاب و ماهتاب درخشیده اند و از مدت مدیدی اشعار شان زیان زد خاص و عام است شعراً بوده اند که در غزل سرایی ید طولی می‌داشته (۸) اند. ابیات غزلیات چنانکه می‌دانیم دارای موضوعاتی مانند حسن و جمال محبوب یعنی توصیف خال و خط و لب و رخسار و قد و زلف و دندان و امثال آن، و ربا جور و ستم و بیوفایی و تند خوبی و کج ادایی دلستان می‌باشد و یا وعده وصل و انتظار و حسرت و آرزوی بوس و کنار، و چشم تر و دیده خونبار عاشق زار، و یا کرب شبهای هجر و فراق، و ترس رسایی و بدنامی و یا خاکساری و بیقراری دل با ختگان و نظائر آن بیان می‌شود. خلدی نیز در غزلیات شرح چنین کیفیات را داده است. غزلیاتی که پیشتر

ازین نقل کرده ایم گفته مارا بائبات می رساند. به جهت آنکه خوانندگان گرامی از صنایع لفظی و معنوی که همواره مورد پسند خاطر اریاب ذوق یوده است، لطف اندوز بشوند دو غزل را اینجا نقل کرده این مقاله را بپایان می رسانیم ولی قبیل ازین لازم بیاد آوری است که این شاعر عالی قدر در ستایش روی و قد و لب و دندان و غیر هم تشبيهات و استعارات قدیم و کهن را بکار برده است یعنی روی بار را به یاسمن و قد را به سرو چمن و لب را به یا قوت یعنی مشابه قرار داده است . اما باین همه توجه خوانندگان باذوق را بخود جلب می کند:

تازه روی تو رشک یاسمن است  
وزقدت سرو خبره در چمن است  
تازه رخسار و طره و ذفت  
حالت چاه و یوسف و رسن است  
تنگ در غم گرفت عشق مرا  
مردن از جور او رها شدن است  
ترک وصفت نیاید از خلدي  
تاز بانش به نطق در دهن است (۲۰)

اینک غزل دیگر از خلد یست که احوال و اطوار دلدادگان را تجسم

می کند:

خورم خون جگر از هجرآن شوخ  
گهی یادم نکرد آن دلستان شوخ  
خدا را ای صبا خط نیازم  
رسان در حضرت نا مهر بان شوخ  
خراش سینه و درد درونم  
عيان کن پیش آن داروی جان شوخ

خوش آن رخساره کافور فرسا  
زهی آن طره عنبر نشان شوخ  
خرو شیدم برش هر چند خلدي  
خبر از حال من نگرفت آن شوخ (۲۱)

\* \* \* \*

**یادداشتها**

- ۱- محمود شیرانی. حافظ. پنجاب میں اردو. ص ۲۹۴
- ۲- خلدی. عبدالرحمن. مولانا. فارسی نامہ. مرتبہ دکتر محمد باقر.  
اوریتسل کالج میکرین. نومبر ۱۹۶۷- ص ۴
- ۳- همان مجلہ. ص ۹۷
- ۴، ۵- خلدی. عبدالرحمن. مولانا. خلدی نامہ مخزونہ موزہ ملی. کراچی.  
ورق ۲۹ - ب
- ۶- محمود لاہوری. محمود عالم. محمود نامہ. مطبوعہ کانپور.  
ادب مثل ۱۲۶۶، ق - ص ۲
- ۷- خلدی. عبدالرحمن. مولانا. خلدی نامہ. نسخہ خطی مخزونہ موزہ ملی  
کراچی. ورق ۲۶- ب
- ۸- ایضاً. ورق ۲۶- ب ۱۲۷
- ۹- ایضاً ورق ۱۴۲
- ۱۰- محمود لاہوری. محمود عالم. محمود نامہ. مطبوعہ کانپور- ۱۲۶۶  
ق - ص ۱۴
- ۱۱- خلدی. عبدالرحمن. مولانا خلدی نامہ نسخہ خطی. مخزونہ موزہ ملی  
کراچی. ورق ۱۴.

- ۱۳- همان کتاب. ورق ۴ ب

۱۴- محمد لاهور. محمود عالم. محمود نامه. ص ۱۱

۱۵- خلدی. عبدالرحمن. مولانا. خلدی نامه. نسخه خطی مخزونه موزه  
ملی کراچی. ورق ۱۳۶

۱۶- ایضاً. ورق ۳۶ ب

۱۷- ایضاً. ورق ۲۷ ب

۱۸- ایضاً ورق ۳۹ ب

۱۹- ایضاً. ورق ۳۴ ب

۲۰- ایضاً. ورق ۲۸ ب

۲۱- ایضاً ورق ۲۱ ب

۲۲- خط = نامه

• • • •



نرگس قدسی دختر مرحوم استاد قدسی شلود که در سال ۱۳۰۷ خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش استاد غلام رضا قدسی از ادبیات عرب و فارسی و ادب اسلامی و ادب ایرانی بحث و تحقیق نموده بود. نرگس در سال ۱۳۲۵ خورشیدی با اتمام تحصیلات ابتدائی از مدرسه عالی زبان‌آموزی تهران فارغ‌التحصیل شد. در سال ۱۳۴۶ خورشیدی با اتمام تحصیلات ارشد از دانشگاه تهران با امتیاز نایاب از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. در سال ۱۳۴۸ خورشیدی با اتمام تحصیلات ارشد از دانشگاه تهران با امتیاز نایاب از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. نرگس در سال ۱۳۵۰ خورشیدی با اتمام تحصیلات ارشد از دانشگاه تهران با امتیاز نایاب از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. نرگس در سال ۱۳۵۲ خورشیدی با اتمام تحصیلات ارشد از دانشگاه تهران با امتیاز نایاب از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد.

## استاد غلام رضا قدسی

### شوح حال:

شاعر آزاده و ادیب بلند آوازه شاد روان استاد غلام رضا قدسی در سال ۱۳۰۴ شمسی در مشهد مقدس چشم بجهان گشود. جد اعلای وی حاجی محمد جان قدسی مشهدی از شعرای بزرگ دوره صفویه است که خزانه داری آستان قدس رضوی را بعهده داشت و در زمان سلطنت شاه صفی از ایران به هند رفت. در دربار شاه جهان از مقام ارجمندی برخوردار بوده است تا اینکه در سال ۱۰۵۶ در سن ۶۴ سالگی در لاھور دار فانی را وداع گفت و جسد او را به کشمیر برده و در مزار الشعرا کشمیر بخاک سپردند. کلیم همدانی (کاشانی) در رثاء قدسی ترکیب بنده مشتمل بر بیکصد و بیست سروده و ماده تاریخ فوت او را چنین یافته است: "دوراز آن ببلل قدسی چمنم زندان شد" (۱۰۵۶).

استاد قدسی پس از اتمام تحصیلات ابتدائی به تحصیل علوم قدیم پرداخت و ادبیات عرب و فقه و اصول و منطق و معانی و بیان و بدیع را از محضر اساتید مختلف فرا گرفت. بعد از آن به تحصیلات علوم جدید پرداخته ولی به دلیل فعالیت‌های سیاسی درس را رها کرد. در سال ۱۳۲۵

شمی به تهران و اصفهان مسافت کرده و در این سفر باعده ای از شاعران آشنا شد. در اصفهان ضمن ملاقات با شادروان صغير اصفهاني خواستار خواندن اشعاری از وی شد که باخواندن غزل و مخمس که در ثنای امام یازدهم حضرت امام حسن عسکري عليه السلام سروده شده بود بسيار هورده تشویق قرار گرفت. پس از بازگشت حدود سال ۱۳۲۵ با عده ای از شاعران خراسان تصميم گرفت الجمن ادبی تشکيل دهد. وی از بنيانگذاران الجمن ادبی خراسان بوده که با همكاری عده ای از شاعران هر هفته تشکيل ميشدو اين الجمن بنام استاد طوس فردوسی نامگذاري شده بود.

درمورد سبک شعر، وی در انواع شعر سروده هایی داشته، اما به غزل بیش از انواع دیگر علاقه داشت که در قالب سبک هندی سروده میشد، درمورد آثارش با توجه به فعالیت های سیاسی کلیه اشعار و سروده ها، مقالات متعدد، در خلال دستگیری ازین رفت. مصدق آن این بیت است:

بسا مضمون رنگینی که پروردم به خون دل  
ستمگر کرد پریر همچو گل اوراق دیوانم

تنها آثار باقیمانده، قطعات پراکنده ای است که در برخی از جراید و مطبوعات و کتب و یا نزد بعضی دوستان او است و همچنین آنچه که پس از رهانی از زندان در اواخر سال ۱۳۵۵ به بعد سروده شده و در اختیار می باشد. از آثار دیگر تدرین دیوان شعر جد اعلای وی حاج میرزا محمد جان قدسی است که با توجه به سفری که به هندوستان داشت جمع آوری و تصحیح شد که اجل مهلت نداد که به دست خود چاپ کند.

وی ضمن برخورداری از ذوق شعری و ادبی، از لحاظ خصوصیات اخلاقی و عاطفی و انسانی سرآمد بود و روحیه ای مردمی و انسان دوستی داشت. بسیار متواضع بود و سراسر عمرش را در خدمت به مردم گذراند.

از تواضع شاخه پرمیوه سر آرد فرود

این هنر را آشکارا در جهان کردیم ما

حاصلم از زندگی جز خدمت مردم نبود

عمر خود را وقف کار دیگران کردیم ما

فردی متعمد و وطن پرست بود و همواره سعی میکرد به نحوی  
میراث های مذهبی، فرهنگی و ادبی و هنری ایران را پاس دارد.

ضمناً وی به تدریس ادبیات فارسی در دانشکده های مشهد

اشتغال داشت:

عقیده و نظر وی درمورد شعر و شاعری چنین بوده است که یک شاعر قبل از هر چیز باید انسان باشد و به اصول انسانی و اخلاقی و اسلامی پایبند، و پس از آن، بدیهی است که هرچه شاعر در کسب علم و معرفت و خود سازی بکوشد و متفکر و اندیشمند باشد آثارش جلوه و تبلور خاصی خواهد داشت و چون شاعر آئینه زمان خود می باشد یعنی منعکس کننده آنچه در جامعه می گذرد و می بیند لذا باید مسائل روز بیشتر در اشعارش نقش بسزا داشته باشد. وی در غالب کنگره ها و مجامع فرهنگی و ادبی و هنری و بزرگداشت چهره های مؤثر در فرهنگ و هنر ایران شرکت می کرد، و عقیده داشت که برگزاری این مجامع بسیار ضروری و مفید است، زیرا علاوه برآشنائی هنرمندان و اندیشمندان با یکدیگر و تأثیر و تأثیری که از نشست ها حاصل میشود و صرفنظر از مطرح شدن مسائل کلی هنری و بالا بردن سطح فرهنگ و جامعه با توجه به گفتگو حضرت آیت الله خامنه ای در ۱۸/۸/۶۲ "هنر بایستی در اولویت قرار گیرد." عقیده داشتند که پیامی که آمیخته با هنر نیست و در رساندن آن از ابزار غیر هنری استفاده میشود، نه در دلها باقی خواهد ماند و نه اثری خواهد داشت. هنر بهترین تأثیر را بر روی اندیشه ها و اذهان دارد.

آخرین محفل ادبی که شادروان قدسی در آن شعر خواند مجلس  
بزرگداشت علامه اقبال لاهوری دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر  
علی شریعتی مشهد بود.

استاد قدسی در روز ۲۱ آذر ۱۳۶۸ مطابق ۱۲ دسامبر ۱۹۸۹  
میلادی درسن شصت و چهارسالگی برایر سکته قلبی در مشهد دار فانی را  
وداع گفت و اینک چند شعر از استاد فقید غلامرضا قدسی:

(شعر در بزرگداشت علامه اقبال لاهوری که به خط  
مرحوم قدسی است).

ای جویانی چون بسا قدسی ثنا خوان شما  
جان هر آزاده بادا برخی جان شما  
آنچه را اقبال روشندل به چشم راز دید  
شد عیان از جنبش پیدا و پنهان شما  
نیست گر اقبال فرزندان فکرش دیده اند  
عزم و رزم و مردی و فتح نمایان شما  
راست گفت اقبال، زنجیر غلامان را شکست  
دست مرد پاکبازی از نیاکان شما  
اهر من گر خاتم عزت از این ملت رربود  
عقابت بگرفت خاتم را سلیمان شما  
گفت کو آزاده مردی تا یدبیضا کند  
بس ید بیضا که سر زد از گریبان شما  
شوردرسر، عشق در دل، جان به کف بگرفته اید  
من توان خواند از خط آغاز، پایان شما  
دل چو بر "قالوابلی" بستید از روز است  
هست محکم با خدای خویش پیمان شما

شب زشوق پاد حق افتاده در محراب عشق  
روز شیران را تباشد تاب میدان شما  
نقش باشد بر جیب آب و خاک این وطن  
گرد ذلت ره نمی یابد به دامان شما  
روز باشد نعرا تکبیرتان دشمن شکار  
شب بود روشن سپهر از نور عرفان شما  
هم شهامت هم شهادت هم گذشت وهم ادب  
مطلع بر جسته ای باشد ز دیوان شما  
با دلی آکنده از عشق شا اقبال گفت  
ای جوانان عجم جان من و جان شما

\*\*\* \*

### غزل

هر دل که ندارد شر افروختنش به  
تخلی که تیاورد شمر سوختنش به  
رو شنگر کانون جهان پر تو عشق است  
این آتش بزم ازل افروختنش به  
آید ز دل خاک بگوش از لب قارون  
انداختن گنج زاندوختنش به  
کالای و فا گرچه عزیز است و لیکن  
گر رنگ ریا یافته بفروختنش به  
درسی که در آن زمزمه‌ی عشق نیاشد  
در مکتب آزاده نیاموختنش به

قدسی به لب اهل سخن گر ز حقیقت  
نقش سخن حق نبود دو ختنش به  
علی شخص مشهود و ممتاز بآینه و شکر بشق

\*\*\*\*\*

استاد تالیف مولوی در هزاره هفتم هجری قمری ۱۹۸۹

میلادی در سن تعدادیتی هفتاد و پانز دار قایم را

روایت و اینکه هفتاد و پانز هزار بیت

آنان که پاک در دل خاک آرمیده اند

طی طریق کرده به منزل رسیده اند

آرام چون نسیم سبکبار رفته اند

چون بُوی گل زیاغ جهان پر کشیده اند

از گلشن زمانه در این چند روز عمر

غیر از گل وفا و محبت نجیده اند

آرامشی نداشته از بام تا به شام

خورشیدوار خدمت مردم گزیده اند

بستند چون صدف، لب خود را واکرده اند

آویز گوش گر سخن حق شنیده اند

از دل زدوده نقش تعلق درین جهان

تا نقش روی دوست در آئینه دیده اند

تا مرغ جان به باع جنان آشیان کند

بکشوده بال و از قفس تن پریده اند

قدسی زمرگ بیم ندارند و خوشدلند

وارستگان که دل زعلاتق بریده اند

\*\*\*\*\*

لویسته مسید سلیمان صدیقی  
لویسته محسن سراجی لر پیشنهاد تقدیم  
ز کندی بالطف ، تسبیح ریس ، آیینه

ز دل و میله ایلیه ز دل و میله ز دل

ز دل و میله ز دل و میله ز دل

ز دل و میله ز دل و میله ز دل

ز دل و میله ز دل و میله ز دل

ز دل و میله ز دل و میله ز دل

ز دل و میله ز دل و میله ز دل

ز دل و میله ز دل و میله ز دل

ز دل و میله ز دل و میله ز دل

## الفقر فخری


بارب از وصفت تهی اوراق دیوانم مکن  
جز شراب عشق خود در ساغر جانم مکن  
بس نیازم کن زلطف خویشتن از عالمی  
کم زمورم ، لیک محتاج سلیمانم مکن  
حرف حق بگذار دائم بربزان خامه ام  
در دو عالم بی اثر، چون خط بطلاتم مکن  
پیش روی من دری بگشای، از کشف و شهود  
بیشتر از این اسیر بتد برهانم مکن  
دیده ام را روشنی از جلوه عرفان بد  
حالی از لطف سر شک شوق ، دامانم مکن  
از دل سر گشته من نقش خود خواهی زدای  
در جهان، چون اهر من با خاک یکسانم مکن

از سر من سایه "الفقر فخری" وا مگیر  
 در خور آزاده، پستی نیست ، سلطانم مکن  
 طور سینا گُن دلم را ای خداباجلوه ای  
 همچو موسی جز به روی خویش حیرانم مکن  
 وارهان مرغ دلم را از کمند رنگ و بوی  
 نیستم ببلل ، گرفتار گلستانم مکن  
 تاچو اهل دل شرم آگاه از اسرار جهان  
 گردگارا بی نصیب از راز قرآنم مکن  
 جُز ثنایت بر زبان خامه قدسی مبار  
 زین هنر بی بهره طبع گوهر افشارم مکن

\* \* \* \*



نوشته: محمد سلیمان صدیقی  
ترجمه: محسن مدیر شانه چی



## پیدایش و گسترش سلسه چشتی در دکن

(۱۳۰۰ تا ۱۵۳۸ میلادی)

### پیشینه تاریخی

بر مبنای منابع متعدد قابل اعتماد، (در زبانهای عربی و فارسی ، با اطمینان می توان به این نتیجه رسید که نخستین بر خورد ها و قاسهای اعراب با هند در مالabar، کیرالا، سرندب (سیلان یا سریلانکای کنونی) "کلام (ترانکور)، تهانا، کهانبایت حوالی بین کنونی و منگلور در سواحل عربی و کاروماندال ، در شرق صورت گرفت ۱ اما درباره حضور مسلمین در دکن. بویژه طی دوره پیش از انتقال پانیخت از دهلی به دیوگری در سال ۷۲۷ هجری / ۱۳۲۷ میلادی توسط محمد بن تغلق، شواهد چندانی

در دست نیست زیارتگاههای صوفیه خاصه در دولت آباد، گلبرگه، بیجاپور، گلکنده، پنوجنا پالی به دوره ای قبل از ۱۳۲۷/۷۲۷ تعلق دارد و شانگر وجود تعداد قابل توجهی سکونتگاه اسلامی در این منطقه است. منابع موجود به تشخیص آغاز ورود مسلمانان طی این دوره در این منطقه کمک نمی کند. به هر صورت، تجارت مسلمانی که در جنوب سکونت گزیدند<sup>(۲)</sup>، و به صورت مبلغان دین خود نیز فعالیت می کردند، به قلب شبه قاره هند یعنی دکن نیز رهسپار شدند.

تاریخ اولیه پیدایش و گسترش تصوف در جنوب هند نامعلوم است. در پرتو منابع متعدد آن روزگار پس از آن، به زیانهای گونا گون، می‌توان فرض کرد که صوفیه در جنوب هندو سیلان پیش از ورود مسلمین از شمال فعال بودند. این بطوره می‌نویسد که در دیدارش از سیلان به مقابر تعدادی از اولیا نظری شیخ عبدالله حنیف، شیخ عثمان، بابا طاهر و نیز یک سکونتگاه اسلامی همراه با مسجدی در تراوانکور و مالابار برخورده کرد<sup>(۲)</sup>. مطالعه و بررسی منابع گونا گون تاریخ عصر میانه د肯 این حقیقت را روشن می‌کند که تعداد زیادی از اکابر صوفیه در نواحی مختلف د肯 فعالیت داشتند، نام برخی از آنان به ترتیب تاریخی در ذیل می‌آید.

میران سید حسینی

1188/EAS

سید شاہ مرمن

120-1097

سید علاء الدین

١٢٥٣/٦٥١

شیخ شہید

ו/ר/ב ۱۲۷۲

سید حسام الدین

١٢٨٦ / ٦٨ -

بیر مقصود

۱۳۰۰/۷۰۰

پیر جمونه

۱۳۰۳/۷۰۳

۱۳۰۵/۷۰۵

سید علی شهید

۱۳۳۱/۷۲۲

تاج الدین منور


شیخ شهاب الدین سهروردی (وفات به سال ۱۲۳۴ میلادی) نویسنده کتاب معروف عوارف المعارف ظاهر<sup>۱</sup> ذکری از وجود تعدادی از شاگردان و پیروانش در هند کرده است.<sup>(۵)</sup> گفته می‌شود که بابا شرف الدین و بابا شهاب الدین که در چند کیلومتری جنوب حیدر آباد برروی تپه کوچکی مدفونند، از شاگردان او بودند که پیش از انتقال پا بخت از دهلی، به دکن مهاجرت کردند.<sup>(۶)</sup>

هیچ اطلاع موقتی درباره سلسله‌ها، اعتقادات، شیوه‌های عمل و تشکیلات آنان، در صورت وجود، در دست نیست. اما شواهدی هست که نشان می‌دهد، اولیای تصوف درست از زمانهای نخست، در دکن فعال بودند، آنان از شمال یا از ایران و عراق مهاجرت کرده بودند.<sup>(۷)</sup> و نقش آنها در تاریخ اولیه دکن نمی‌توان نادیده گرفت.

### فعالیتهاي اوليه صوفيه در شمال:

در قرون بعدی، گذرگاه خبیر به صورت دروازه ورودی اصلی درآمد و به احتمال قوی انبوه صوفیه و دراویش از طریق ابن گذرگاه به شمال هند وارد شدند.<sup>(۸)</sup> از قرن بازدهم بود که هند صوفیها را که معمولاً به درویشهای بخارا، سمرقند، ایران، خراسان، ترکستان احتمالاً عربستان و سوریه معروف بودند، به خود جذب کرد.<sup>(۹)</sup> فعالیت تبلیغی صوفیه با ورود مخدوم سید علی الجلائی الهجویری (وفات به سال

(۱۰۷۲/۴۶۵) مزلف کتاب معروف "کشف المحبوب" به زبان فارسی، به



لاهور، که در آنجا مدفون است، تحرک بیشتری گرفت.<sup>۱۰</sup> این نه بالغ  
ابوالفضل<sup>(۱۱)</sup> فهرستی از چهارده سلسله صوفیه در هند تا زمان  
اکبر (۱۵۶۵ - ۱۶۰۵) ارائه می‌دهد. این چهارده سلسله در اصطلاح  
عوام به نام "چوده خاندان" معروفند و نسب معنوی خود را به حسن بصری  
می‌رسانند.<sup>(۱۲)</sup> از این چهارده سلسله ذکر شده توسط ابوالفضل، سلسله

های چشتی و سهروردی نقش بسیار مهمی در دوره پادشاهی به عهدہ داشتند.<sup>(۱۳)</sup> علاوه بر سلسله های که ابوالفضل ذکر کرده است، بعضی سلسله های دیگر بودند که از قرن شانزدهم به بعد به همان میزان اهمیت داشتند.<sup>(۱۴)</sup> این سلسله ها عبارتند از:

شطاری: عبدالله شطار (۱۲۰۰-۱۳۰۰)

قادری: عبدالقادر گیلاتی (۱۱۶۶-۱۰۷۸)

قلندری: قلندر یوسف الأندلسی

اویسی: اویس القرنی

**سلسله چشتی در شمال:**

بذر سلسله چشتی را در خاک هند خواجه معین الدین چشتی (۶۳۳)

- ۵۱۵ / ۱۲۳۶ - ۱۱۲۱) به سال ۵۹۰ / ۱۱۹۳ در اجمیر

کاشت.<sup>(۱۵)</sup> در آغاز، چشتیها خانقاھهای خود را عمدۀ در راجپوتانا و

اوترپردیش، پنجاب، هانسی و اجودهن تأسیس کردند. جانشین شیخ قطب

الدین در نواحی روستایی به فعالیت پرداخت.<sup>(۱۶)</sup> تانیمة قرن چهاردهم،

سلسله چشتی بیشتر در شمال هند مرکز یافت. نفوذ این سلسله تحت رهبری

شیخ فرید الدین گنج شکر (وفات به سال ۶۴۴-۱۲۶۵) و شیخ نظام

الدین اولیا (وفات به سال ۷۲۵-۱۳۲۵) در سرتاسر هند گسترش

یافت.<sup>(۱۷)</sup>

**سلسله چشتی در دندان:**

(خواجه احمد) نظامی<sup>(۱۸)</sup> بر این اعتقاد است که سلسله چشتی

توسط شیخ برهان الدین غریب نواز (وفات به سال ۷۳۹/۱۳۳۸) مرید و

"خلیفه" شیخ نظام الدین اولیا که بعداً در دولت آباد سکونت گزید، وارد

دکن شد. اما شواهدی مبنی بر تأیید این عقیده در دست است که حتی پیش

از ورود شیخ برهان الدین غریب به دولت آباد، شیوخ چشتی در دکن فعالیت می کردند. به نظر می رسد که سلسله چشتی دو مرحله را در دکن گذرانده باشند. مرحله نخست رامی توان پی ریزی این سلسله و دومنی را بسط و توسعه آن نامید.

حاجی رومی (وفات به سال ۱۱۶۰/۵۵۵)، شاگرد مرید عثمان هارونی و مصاحب شیخ معین الدین اجمیری در بیجا پور اقامت گزید. ظاهر<sup>۱</sup> او با گروهی از یاران و مصحابان وارد شده بود (۱۹). بنظر می رسد که شیخ صوفی سر مست (وفات به سال ۱۲۹۰/۶۸۹) با تعداد زیادی از همراهان با پانصد تخت روان در پایان قرن هفتم هجری به دکن رسیده بود. وی در محلی به نام سکردر شاهپورسکونت اختیار کرد.<sup>(۲۰)</sup> اگرچه اسناد و مدارک کافی درباره آنان دردست نیست، اما ظاهر<sup>۲</sup> آنها به تعلیم اعتقادات چشتی اشتغال داشتند.

امیر خرد می گوید که شیخ نظام الدین اولیا دوتن از مریدان جوان خود، خواجه عزیز الدین و شیخ زاده کمال الدین، نوه شیخ فرید الدین را به ترتیب برای دیوگیری و مالوا، پیش از فتح دکن از سوی محمد بن تغلق به نیابت خود تعیین کرد، هردوی آنان در کار تبلیغ اعتقادات عرفانی چشتی موفق بودند (۲۱). بجز شیوخ مذکور، منتجب الدین فرزروی زد بخش (۲۲). (۱۲۷۶-۱۳۰۹/۶۷۵-۷۰۹) برادر کوچکتر شیخ برهان الدین غریب نیز پیش از ورود برادر بزرگترش در خلد آباد ساکن بود. محمد قاسم فرشته (۲۳). نقل می کند که شیوخ منتجب الدین با گروه کثیری متشكل از هفتصد نفر که شامل مردمی از خانواده های ثرومند نیز بودند، وارد خلد آباد شد. هر چند تاریخ دقیق ورود او معلوم نیست، می توان باقطعیت گفت که وی قبل از شیخ برهان الدین غریب به خلد آباد رسید رونق علی (۲۴). به "فتح الاولیا" استناد می کند و به نقل

رویدادی می پردازد که نشان می دهد او بیش از برادرش وارد دکن شد. شیخ نظام الدین اولیا در آخرین روزهای عمر خود هنگامی که وضوی گرفت از برهان الدین غریب پرسید که "آیا برادرت منتجب الدین از تو بزرگتر بود یا کو چکتر؟" برهان الدین بی درنگ دریافت که برادرش دیگر زنده نیست. چند روزیس از این واقعه شیخ نظام الدین اولیا در حضور برهان الدین غریب دریکی از "مجالس" خود اظهار داشت: "من تورابه جای برادرت تعیین کرده ام و این وظیفه توست که به دولت آباد بروی" (۲۵) رونق علی سپس بیان می کند که برهان الدین غریب از ترک مصاحبیت "پیر" خود اکراه داشت. برهان الدین راجع به پرسش پیشوای خویش در مورد تاخیرش در رفت به دولت آباد، پاسخ داد که او از "مجلس" پیشوایش فراموش کرده است. شیخ نظام الدین اولیا گفت: "من همه این مریدان و "خلفاً" را که اکنون در این "مجلس" حضور دارند، به توانی دهم. تو می توانی همه آنان را با خود ببری". از میان آنان که در آن "مجلس" حاضر بودند. امیر حسن علاسجزی (۱) وفات به سال ۷۳۶/۱۳۳۵ مولف "فوائد الفوائد"، شیخ کمال خجندی، شیخ جام، شیخ فخر الدین و بسیاری دیگر را می توان نام برد. (۲۶)

تاریخ صحیح ورود شیخ برهان الدین غریب به دکن از منابع موجود روشن نمی شود. هنوز جای بحث است که آیا او بلا فاصله پس از مرگ برادرش منتجب الدین که در سال ۱۳۰۹/۷۰۹ رخ داد، طبق دستور "پیر" خود از دهلی به دکن رفت وبا این که این سفر بعد از وفات پیشوایش که در سال ۱۳۲۵/۷۲۵ واقع شد، انجام گرفت. (۲۷) در همین حال، رویداد مهم دیگری در تاریخ عصر میانه هند تحقیق یافت و آن انتقال پایتخت از دهلی به دیو گیری در سال ۱۳۲۷/۷۲۷ بود.

امیر خرد (۲۸) می گوید که شیخ نظام الدین اولیا یک بار در

برابر برهان الدین غریب که در آن زمان هفتاد سال از عمرش می گذشت، به علت عدم رعایت انضباط دقیق در "خانقاہ"، واکنش سختی نشان داد.<sup>(۲۹)</sup> این واقعه باید در سال ۱۳۲۴/۷۲۴ رخ داده باشد. سال بعد شیخ نظام الدین اولیا درگذشت. به این ترتیب عزیمت شیخ برهان الدین غریب بلا فاصله پس از مرگ برادرش منتجب الدین، منتفي شد. با اطمینان می توان پذیرفت که وی بین سالهای ۱۳۲۵/۷۲۵ و ۱۳۲۷/۷۲۷ به دکن رفت. رونق علی.<sup>(۳۰)</sup> فهرست بلند بالای از اشخاصی که شیخ برهان الدین غریب را در سفر به دولت آباد همراهی می کردند، ارائه می دهد. بر جستگان این جمع عبارت بودند از امیر حسن علاسجی، پیر مبارک کاروان (وفات به سال ۱۳۲۲/۷۲۴)، خواجه حسن، خواجه عمر (وفات به سال ۱۳۴۹ / ۷۵۰) و کمال الدین سامانه که همکی آنان مریدان شیخ نظام الدین اولیا بودند. برخی از مریدان خود او نیز وی را در راه دولت آباد همراهی می کردند که اشخاص برجسته ای در میان آنان بودند. که نام آنها از این قرار است: کاکا سعد بخش، رکن الدین بن عمال الدین رهبر کاشانی مؤلف "شانل الاماتقیا"، "نفاس الانفاس"، "اذکار المذکور"، "تفسیر رموز"، "رموز الوالهی" و "رساله غریب".<sup>(۳۱)</sup> فرید الدین ادیب (وفات به سال ۱۳۳۷ / ۷۲۸). شیخ فخر الدین و سید نصیر الدین پاون یک. نظامی می نویسد که تنها شیخ حماد یکی از مریدان شیخ بربان الدین غریب هزار مرید را به حلقة چشتی راه داد.<sup>(۳۲)</sup> سید ابو الفیض من الله حسینی<sup>(۳۳)</sup> در احوال سید یوسف حسینی معروف به سید راجه، صاحب "مشنی راجه"<sup>(۳۴)</sup> و پدر سید محمد حسینی گیسوردراز بیان می کند که وی بیشتر اوقات خود را به مصاحبت شیخ برهان الدین غریب در دولت آباد می گذراند.

بر مبنای موارد فوق الذکر مشکل است که شخصیت صوفی واحدی را در نظر گرفت و او را به عنوان عامل ورود سلسله چشتی به

دکن تعیین کرد. در عین حال، شیخ برهان الدین غریب، یاران او و سایر شیوخ معاصر در دولت آباد قطعاً باید نقش بسیار بر جسته ای در استقرار سلسله چشتی به طور اساسی در دولت آباد و خلد آباد داشته باشند؛ اگرچه در گسترش این سلسله در سایر نواحی دکن چنین نقش نداشته باشد. این شیوخ بی شک نفوذ فراوانی بر توده های مردم و حیات اجتماعی و فرهنگی دکن در دوره پیش از سلطنت بهمنی داشته اند.

با مرگ شیخ برهان الدین غریب، سید یوسف یا به نام دیگر شیخ سید راجه، پیر مبارک کاروان و امیر حسن علاسجزی که همکی در فاصله چهار سال یعنی بین سالهای ۱۳۲۴/۷۲۴ و ۱۳۲۳/۷۲۳ رخ داد، نخستین مرحله فعالیت چشتیها که می توان آن را مرحله پیش از سلطنت بهمنی نامید، پایان یافت. دومن فعالیت چشتیه با کوشش های سید زین الدین شیرازی (۳۵) (وفات به سال ۱۳۶۹/۷۷۱) مرید و خلیفه شیخ برهان الدین غریب در دولت آباد آغاز شد. سید زین الدین دولت آبادی نخستین قطب چشتی در دوره بهمنی است. او معاصر دو پادشاه نخست بهمنی، علاء الدین حسن بهمنی شاه، بنیانگذار سلسله بهمنی و جانشین وی، محمد شاه اول بهمنی بود. سید زین الدین نفوذ عظیمی بر جامعه اولیه بهمنی از یک سو و بر شخص محمد شاه اول بهمنی و حکام پادشاهی فاروقی از سوی دیگر داشت (۳۶). سید یعقوب (۳۷) (وفات به سال ۱۳۹۷/۸۰۰) "خلیفه" سید زین الدین در نهر واله گجرات یک خانقاہ چشتی بنانهاد. از میان مریدان او، سید زین یوسف و خواجه شمس الدین، که به شمعه میران شهرت داشت (۳۸). (وفات به سال ۱۳۹۸/۷۹۱)، خانقاہی در مرتاضن آباد در بخش میراج تاسیس کردند. قاضی کمال الدین، خلیفه سید یعقوب بنایه دستور پیر خود خانقاہی در نهرواله در پتان گجرات ایجاد کرد که در همان جامدفون است (۳۹).

باورود سید محمد حسینی گیسو در (۴۰) از ۷۲۱-۸۲۵ / ۱۴۲۲-۱۳۲۱)، مرید و "خلیفه" شیخ نصیر الدین چراغ دهلی در سال ۱۴۰۰/۸۰۳ ، سلسله چشتی در دکن نیروی تازه ای گرفت. او با اقدامات خوب نه تنها سلسله چشتی را قوام و دوام بیشتری بخشید، بلکه در سازماندهی صحیح این فرقه در دکن و گجرات نیز موفق شد. گیسو در از قطبی بود با بهره عرفانی فراوان، فاضلی ژرف اندیش با اشتهر و اعتبار زیاد، صاحب چند اثر (۴۱) و دارای شهرت و وجهه بسیار در میان عامه مردم. او مسلمانی سنی و پیر و مكتب فقیه حنفی (۴۲) بود. راجع به او گفته اند که خصوصیات وی به عنوان یک فقیه، سید و سنی در کمتر کسی از مردم دیده شده است. ۴۳.

گیسو دراز پس از گذراندن بیست و یک سال (۷۳۶-۷۵۷ / ۱۳۳۵-۱۳۵۶) در خدمت پیر خود، گذراندن "سجادگی" به مدت چهل و چهار سال (۷۵۷-۸۰۱ / ۱۳۹۸-۱۳۵۶). (۴۴) دهلی را به قصد دولت آباد ترک گفت و سر الجام به سال ۱۴۰۰/۸۰۳ در گلبرگه پا بخت بهمنی اقامت گردید. (۴۵) اقبال همکانی نسبت به او را از این مسئله می توان دریافت که از آغاز سفرش از دهلی تا ورودش به گلبرگه جمعیت عظیمی در اطرافش جمع شدند و با او "بیعت" کردند. (۴۶) در مدت زمان کوتاهی، شخصیت معنوی و مقامات علمی او در سرتا سر دکن شناخته شد. گیسو دراز مدرسه ای باسطح بالای آموزش تأسیس کرد که در آن برای نخبگان گلبرگه که از سایر نواحی پادشاهی بهمنی و از همه جای هند می آمد، تعالیمی در شاخه های مختلف علوم اسلامی ارائه می شد. سید محمد حسینی خود به فرزندانش درس "تفیسر" حدیث و "سلوک" می داد. گاهی به تدریس "کلام" و "فقه" نیز می پرداخت. او همچیزین پس از غاز ظهر سخنانی ایراد می کرد. قاضی راجه با گیسو دراز "ملتقط" می خواند و شهاب الدین درسها بی در "قوت القلوب" می گرفت. مولانا ابوالفتح همراه

با سید اصغر و سید احمد راجع به تفاسیری که گیسو دراز در مقامات مختلف صوفیه نوشته بود، درس می دادند. در سال ۱۴۰۳/۸۰۶ مولانا علام الدین گوالیاری در "تمهیدات عین القضا" و "قصوص الحکم" درس گرفت و همراه با این دروس همواره مشغول خلق آثار عرفانی عظیمی به نظم و نثر بود (۴۷). وی با پذیرش افراد در سلسله چشتی و اعطای "خلافت" به مریدانی با بهره اخلاقی و معنوی والا، این سلسله "تقویت" کرد. "خلافت" به چهل و دو نفر واگذارشد و دو تقریباً همه آنها از موقعیت ممتازی برخوردار بودند. نیمی از آنان در گلبرگه بودند و بقیه در نواحی مختلف پادشاهی بهمنی فعالیت داشتند (۴۸). شخصیت سید محمد حسینی گیسو در از در رأس این تشکیلات قرار داشت و همه مریدان و "خلفای" او از درجات و مقامات مختلف به وی به عنوان مرشد معنوی و روحانی و نیز علمی خود می نگریستند (۴۹).

"خلفایی" که در گلبرگه رحل اقامت افکندند، عبارت بودند از دو فرزند گیسو دراز یعنی سید اکبر حسینی (۵۰) (وفات به سال ۱۴۰۹/۸۱۲) تریستنده تبصرة الاصطلاحات صوفیه و "رساله اباحت السماء" و سید اصغرالله حسینی (وفات به سال ۱۴۴۸/۸۵۲) مولف "محبت نامه" (۵۱). علاوه بر اعضای خانواده گیسو دراز، شاه راجه و خواجه احمد دبیر که ظاهرآ از دربار فیروز شاه بهمنی کناره گیری کرده بودند در ابلاغ نظریات عرفانی چشتی به مردم پائیخته بهمنی که در اجتماعات عظیم خانقاہ گرد می آمد، سهیم بودند.

از میان خلفای گیسو دراز که در سایر نواحی دکن و خارج از آن فعالیت می کردند، چهره های برجسته عبارت بودند از مولانا علام الدین گوالیاری که در گوالیار سکونت اختیار کرد و نخستین کسی بود که در سال ۱۳۹۸/۸۰۱ از طرف قطب خود به "خلافت" رسید (۵۲) شیخ

صدرالدین خوندمیری که در سال ۱۴۰۷/۸۱۰ به خلاقت منصور شد. در ایرج پور، فعالیت داشت. (۵۳) سید کمال الدین غزنوی و قاضی اسحاق که هر دو از دودمان گیسو دراز بودند. در باروج (بهروج) و چهاترا به فعالیت پرداختند. قاضی اسحاق که از شایستگی علمی بالایی برخوردار بود، به خاندانی از اهل فضل تعلق داشت و "فتوى نویس" ناحیه چهاترا برد (۵۴).

علام الدین انصاری علندی (وفات به سال ۱۲۷۵/۷۷۱) که مشخصاً از مریدان شیخ نصیر الدین چراغ دهلي و شاگرد سید محمد حسینی گیسو دراز بود، خانقاہی چشتی در علند تأسیس کرد. ۵۵

سعد محمد حسینی گیسو دراز بیست و دو سال از عمر خود را در گلبرگه سپری کرد (۱۴۰۰-۱۴۲۱/۸۰۳-۸۲۵). او در این مقطع زمانی کوتاه نه تنها تأثیر ماندگاری بر جامعه بهمنی، پادشاه بهمنی فیروز شاه و برادرش احمد شاه بر جای گذاشت، بلکه در تبدیل گلبرگه به مرکز فعالیتهای چشتی نیز موفق بود. وی تنها قطب چشتی بود که موفق شد زندگی خانقاہی را تا حدودی بر مبنای الگوی اسلاف خود سازمان دهد. اما پیش از آن که سلسله چشتی بتواند کاملاً در سرزمین دکن استقرار یابد، سید محمد حسینی گسیرو دراز در گذشت. با فقدان او در رأس این تشکیلات، این سلسله بتدربیح حیات خود را از دست داد و از آن پس تا قرن هجدهم که شیخ نظام الدین اورنگ آبادی اهمیتی به آن بخشید، دیگر نتوانست موقعیت گذشته را به دست آورد. (۵۶)

پس از مرگ سید محمد حسینی گیسو دراز، سید شاه ابو الفیض من الله حسینی (وفات به سال ۱۴۷۴/۸۷۹)، نویسنده شوامل الجمل فی شمارل الکمل، پسرش شاه کلیم الله حسینی (وفات به سال ۱۴۸۷/۸۹۲) و نوه اش سید شاه ابوالحسن (وفات به سال ۱۴۹۸/۹۰۳)

به بیدر هجرت کردند. (۵۸) در بیجاپور طی قرن شانزدهم شاه میرانجی شمس العشار (وفات به سال ۱۴۹۶/۹۰۲) و اخلاقش شعله سلسله چشتی را دردکن در دوره عادل شاهی زنده نگهداشتند.

حکام بهمنی و صوفیها شیوه انعطاف و سعه صدر را اتخاذ کردند. آنان برای برپایی روابط اجتماعی مودت آمیز، همیستی مسالت آمیز و همبستگی کوشش می کردند. یکی از اهداف تصوف دردکن تلاش برای رفع همه تبعیضات و نابرابریها در جامعه زمان خود بود. با در نظر گرفتن این موضوع، صوفیهای دکن مانند اسلاف خویش در شمال، مردم را از همه طبقات اعم از فقیر و غنی بی هیچ تبلیغی در آینه یا اعتقاد می پذیرفتند. خانقاھهای آنها به مراکز جلب افرادی از مذاهب مختلف با زبانهای گوناگون تبدیل شد. (۶۰) هند و ها نیز اجازه داشتند که بی هیچ منع یا واهمه ای به خانقاھهای چشتی وارد شوند. منابعی وجود دارد که نشان می دهد یوگیهای معروف با پیران چشتیه بحثها و مناظراتی داشتند. (۶۱) از دیدارهای سید محمد حسینی گیسو دراز با یو گیها پادشه است. (۶۲) گسیو دراز از فکر باز و اندیشه روشنی بر خودار بود. دریکی از ملاقاتهایش بحثی طولانی و استادانه در اهمیت اتکابه خداوند داشت او در برا بریک یوگی بیشتر تأکید داشت که پیروی از منافع دینی به هلاکت منجر می شود، حال آن که سادگی و بی پیرایگی رستگاری می آورد (۶۳). گیسو دراز دریکی از آثار خود می گوید: من بادانایان آنان دیدار کرده ام. آنها به ستیزه و بحث و مجادله بامن برخاستند. من کتب سانسکریت آنان را خوانده ام و اساطیرشان را می شناسم. من با آنها در آن باب سخن گفتم. از اعتقاد اشان با آنان گفتگو کردم. آزادنہ پذیر فتنند. از اعتقاد دائم گفتم برایشان دلایل و برآهینی عرضه کردم (۶۴) آنان شگفت زده بودند. این جنبه مهم انعطاف پذیری و آزادگی در برخورد با صوفیها تنها مردمی با زمینه های مختلف اعتقادی و معتقد به مذاهب گرانگون را جلب کرد، بلکه

خانقاھهای آنها را به مراکز سازش فرهنگی و هماهنگی فرقه ای تبدیل کرد.

صوفیها در هند به عنوان اصلاحگران اجتماعی و مبلغان ارز شهای انسانی جهانشمول ایمان اسلامی، نقش مهمی ایفا کردند. آنان به دلیل این دو ویژگی بودند که دوره بهمنی یک نیروی سیاسی نیز به شمار می‌رفتند. به نوشته نظامی "به طور کلی جنبش صوفیه صرف نظر از تقویت اخلاقی قلمرو سلطنت بهمنی و دولتهای جانشین آن، برای ارتقاء اخلاقی و معنوی مردم تلاش می‌کرد، با پیروی از این مفهوم مبارزه می‌نمود و فضای مطلوبی برای تجدید رابطه فرهنگی بین گروههای مختلف در دکن ایجاد کرد." (۶۵)

همچنان که پیشتر ذکر شد، شیخ زین الدین دولت آبادی، "خلیفه" بر جسته شیخ برهان الدین غریب روابط خصیمانه با محمد شاه اول بهمنی را، با حمایت از دوشورشی، بهرام خان مازندرانی و خنب دیو، و بعلت شراب خوارگی سلطان و بی توجهی او به اصول اخلاقی اسلام، تشدید کرد (۶۶). سلطان از شیخ خواست که در برابر حاکمیت و اقتدار وی سر تسلیم فرود آورد و چون شیخ عدها از حضور در مراسم تاجگذاری امتناع کرده بود، به او دستور داد که شخصاً با کتابی به وی اظهار وفاداری کند شیخ زین الدین که صوفی پرهیزگاری بود و اصول سلسله خود را سخت مراعات می‌کرد، بشدت با سلطان مخالفت ورزید و سر الجام این مبارزه به تسلیم سلطان در برابر شیخ الحمامید.

این واقعه متضمن چند مفهوم عرفانی و سیاسی و اجتماعی است. از یک طرف بر تائید زین الدین در این عمل علیه دولت و از طرف دیگر بر بی اعتمای به پشتیبانی شیخ سراج الدین جنیدی (۶۷) (۱۲۷۱-۱۳۸۰/۶۸۷-۷۸۱) از دولت دلالت دارد. سلطان دستور

تعطیل میخانه هارا داد و در رعایت دقیق قوانین مذهبی کوشید که در نتیجه آن دزدی و راهرنسی از قلمرو پادشاهی وی رخت برسست. این امراز سویی غونه بارزی از نفوذ یک صوفی چشتی بر دولت و ازسری دیگر نشانه علاقه او به اصلاح اجتماعی در همه جوانب است. به درستی می‌توان دریافت که جهان صوفی در دوران پادشاهی بهمنی تنها در محدوده مقدس معابد و خانقاها خلاصه نمی‌شد. این جهان خود را توسعه و گسترش داد و با محیط سیاسی اجتماعی روزگار خود هماهنگ ساخت.



### با نوشتها:

۱- شیخ زین الدین، تحفة المجاهدين، ترجمه انگلیسی:

M.J. Rawland son, London, 1833, PP.48,58.,

همچین نگاه کنیده:

Elliot, H.M. and Dowson, J. Sir, History of India as told by its own historians, Vol. 1, London, 1867, PP.3,7,

Syed Suleman Nadvî, Indo-Arab relations, Eng. Trans., Prof. M. Salah al-Din, Hyderabad, 1962, p.4.

Maqbul Ahmad, Indo-Arab relations, Bombay, 1960, PP.6,7,

- ر.ك:

Elliot and Dowson, op.cit., Vol 1, p.69.

همچین نگاه کنیده:

Thurstan, Castes and Tribes of Southern India, Vol. 6, Madras, 1909, pp.198,455.

پیدایش و گسترش سلسله چشتی در دکن

عزیز جنگ، تاریخ نوای، حیدر آباد، ۱۳۲۲(۱۹۰۷)، صفحات ۲۵ و ۲۷.

Tarachand, Influence of Islam on Indian culture,  
Allahabad..1946,p.43

Arnold, Preachings of Islam, Lahore, 1961,p.269.  
Nilkant Shastri, A history of South India from prehistoric times to  
the fall of Vijayanagar, London, 1955,p.218.

John-A.Subhan, Sufism,its Saints. and Shrines, Lucknow.  
1938,p.120.

(۳) - ابن بطریطه، رحله، ترجمة انگلیسی:

Mehdi Hasan, Baroda, 1953,pp.180-193.  
K.A.Nizami, Sufi movements in the Deccan, History of Medieval  
Deccan,(1294-1724) Vol. 2,Edt.Prof. H. K. Sherwani and Dr.P.M.Joshi, Hy-  
derabad, 1974,p.176..

(۴) - همانجا، صفحات ۱۶۷، ۱۷۷، ۱۷۷  
همچینین نگاه کنید به: سید شاه غلام علی، مشکوہ النبوہ، نسخه  
خطی، ۱۳۲۲ هجری، مجموعه روضہ بزرگ. گلبرگه، مشکرہ-۱۵

سقاف، حدیقه رحمانی، نسخه خطی، بی تاریخ، سجاده  
نشین، لنگر هاؤس، حیدر آباد، صفحات ۴۱، ۸۲، ۸۷

محمد ابراهیم، روضتہ الارلیا، بیجا پور، رایچور، ۱۳۱۴ هجری،  
صفحات ۲۰، ۱۷

غلام محمد، سیر مخدومی، نسخه خطی، ۱۳۲۶ هجری،  
مجموعہ روضہ شیخ، گلبرگہ، صفحہ، ۶۵

۵- عبدالحق محدث دهلوی، اخبار الأخیار، دهلی، ۱۳۰۹،

هجری، صفحه ۳۶

۶- سید شاه غلام علی، در کتاب مذکور، مشکو ۱۶، ۱۷۱۰

ر.ک: ۷

T.N. Devare, A short History of Persian Literature, Poona, 1961.p.18.

ر.ک: ۸

J.A. Subhan, op.cit.

همچنین نگاه کنید به:

MirWaliuddin, "Sufi movements in India", An outline of the cultural history of India, Edt. Syed Abdul Lateef, Hyderabad, 1959,p.225.

ر.ک: ۹

In'amul haq, Arts., "Sufi movements in Bengal" . Indo- Iranica,:Vol. 3, 1948, p. 27.

همچنین نگاه کنید به:

In'amul Haq, Arts," Sufi movements In India " Indian Culture.January, 1936,p.439.

M.Mujib, The Indian Muslims, London, 1967,p.116.

Ibid, J.A. Subhan, op.cit.,p.128. ر.ک: ۱۰

۱۱- ابوالفضل، آیین اکبری، ترجمة محمد فدا علی، حیدر آباد،

۱۳۴۷ هجری صفحه ۲۰۳

ر.ک: ۱۲

جواب مذکور در اینجا مذکور نمایند و مذکور نمایند

پیدایش و گسترش سلسلہ چشتی در دکن

In'amul Haq, 'Sufi movements in India', Indian Culture, January, 1936,  
p. 439.

: رک: ۱۲

K. A. Nizami, Some Aspects of Religion and Politics in India during  
13th Century, Bombay, 1961, pp. 55, 177.

۱۴- انعام الحق، در کتاب مذکور، صفحه ۴۳۷. فرقہ قادری  
راچنان که محققان کنونی می گویند، پندگی محمد غوث در هند پایه  
گذاری کرد. اما شواهدی از حضور شیوخ قادری در دکن پیش از ورود  
پندگی محمد غوث وجود دارد. همچنین شواهدی از حضور شیوخ جنیدی  
در دکن در دست است.

: رک: ۱۵

K.A. Nizami, Sufi movements in the Deccan, History of Islam  
K.A. Nizami, Art, Chishtiyya, Encyclopaedia of Islam, Vol.2, Edt. B.  
Leuis, C.H. Pellat and J. Schacht, London, 1965, p. 49.

: رک: ۱۶

K.A. Nizami, Some aspects of Religion and Politics in India during  
13th Centruy, pp. 178, 185

۱۷- همانجا، صفحات ۱۸۵، ۱۹۸

J.S. Trimingham, op. cit., p. 65.

: رک: ۱۸

K.A. Nazimi, Chishtiyya. Encyclopaedia of Islam, Vol.2, p. 50

۱۹- سقاف، در کتاب مذکور، صفحات ۳۶ و ۳۷. سقاف تاریخ  
وفات وی را ۱۲۸۰/۶۸۰ می نویسد. عبد الجبار مالکاپوری، محبوب

- الذى المنان، تذكرة اولیای دکن، جلد اول، حیدر آباد، ۱۹۱۳، صفحه،  
 ۴۶ محمد ابراهیم ، درکتاب مذکور، صفحه ۱۹
- ۲۰- غلام محمد، درکتاب مذکور، نسخة خطی، صفحه ۲۶۵
- محمد بشیرالدین واقعات مملکت بیجا پود آگرا، ۱۹۱۵، صفحه  
 ۲۱۵. نویسنده بر این اعتقاد است که او مرید شیخ نظام الدین اولیا  
 دہلوی بود.
- عبدالجبار مالکاپوری، درکتاب مذکور ، جلد اول، صفحات  
 ۴۶۰ و ۴۶۱
- ۲۱- امیر خرد، سیر الأولیا، دہلی، ۱۳۰۴ هجری، صفحه ۱۹۸
- ۲۲- غلام علی آزاد بلگرامی، روضۃ الأولیا، اورنگ  
 آباد، ۱۳۱۰ هجری، صفحه ۱۴
- ۲۳- محمد قاسم فرشته ، تاریخ فرشته، ترجمة اردو، فداعلی،  
 جلد اول، حیدر آباد، ۱۹۲۸، صفحه ۸۰
- ۲۴- رونق علی، روضۃالقطاب، اورنگ آباد، ۱۳۲۶ هجری،  
 صفحه ۱۱۸
- ۲۵- همان جا، صفحه ۱۱۹
- ۲۶- همان جا، صفحه ۱۱۹
- ۲۷- انعام الحق، درکتاب مذکور، صفحه ۴۴۱
- ۲۸- امیر خرد، درکتاب مذکور، صفحات ۲۷۸ و ۲۸۲
- ۲۹- شیخ برهان الدین غریب، مرید تشخّص شیخ نظام الدین  
 اولیا و مسؤول آشیز خانه خانقاہ بود. او به علت درد پایش برپتوی تاشد، ای  
 می نشست پای خود را در مقابل دیدا رکنند گان دراز می کرد که این

پیدایش و گسترش سلسلہ چشتی در دکن

امر کا ملا برخلاف مقررات خانقاہ بود۔ بعد ہا شیخ بنا به توصیہ امیر خسرو امیر خرد را بخشید۔ همانجا، صفحہ ۲۸۰،

۳۰ - رونق علی، در کتاب مذکور، صفحات ۱۲۶ و ۱۲۰، اورنگ

آباد گازتیر (Aurangabad Gazette) ۱۸۸۴، صفحہ ۳۹۸

۳۱ - رکن الدین بن عمال الدین دبیر کاشانی شماں الاتقیا،  
حیدر آباد ۱۳۴۷، صفحات ۳۲ و ۲

۳۲ - ر.ک: کتبخانہ بیانیہ، برلن، ملکہ علیہ الامور مدد پايدہ

K.A. Nizami, Sufi movements in the Deccan, The Medieval history  
of the Deccan, Vol.2.p.181.

۳۳ - سید ابوالفيض من الله حسنی، شوامل الجمل فی شماں  
الکُمل، نسخة خطی، ۸۷۰ هجری، مجموعہ روضۃ شیخ، گلبر گہ

صفحة ۴۸

۳۴ - سید من الله تبصرہ الخوارقات، حیدر آباد ۱۹۶۶، صفحہ

۳۵ - غلام آزاد بلگرامی، در کتاب مذکور صفحہ ۴۶، اورنگ  
آباد گازتیر ۱۸۸۴ (Aurangabad Gazetteer 13th Cir ۱۸۸۴-۱۸۸۵)

۳۶ - دربارہ نفوذ او بردولت نگاہ کنید بد:

Mohd. Suleman Siddiqi's Sufis of the Deccan- 1347-1538, Ph.D. thesis,

1975.O.U.Library.

۳۷ - رک:

K.A. Nizami, Chishtiyya, Encyclopaedia of Islam, Vol.2.

- ۳۸- شجره نامه و ملحقات-نسخه خطی، ۱۲۰۹ هجری،  
مجموعه روضه شیخ، گلبرگه
- ۳۹- سقاف، در کتاب مذکور، صفحات ۱۸۰ و ۱۸۱
- ۴۰- درمورد شرح حال او نگاه کنید به. سید ابوالفیض من الله  
حسینی، در کتاب مذکور، نسخه خطی محمد علی سامانی، شیر محمدی  
الله آباد، ۱۳۴۷ هجری سید شاه غلام علی، در کتاب نسخه خطی  
عبد العزیز تاریخ جیبی، ترجمة معشوق یار جنگ، گلبرگه  
گه، ۱۳۴۷ هجری
- سید من الله، در کتاب مذکور
- عبدالحق محدث دهلوی، در کتاب مذکور
- غلام علی آزاد بلگرامی، در کتاب مذکور
- عبدالرحمن صباح الدین، بزم صوفیه، اعظم گر، ۱۹۴۹ م
- قادری ادریس حیات بندہ نواز، کراچی، ۱۹۶۵ م

K.A. Nizami, Gesudaraz, Encyclopaedia of Islam.

۴۱- نقل شده است که او مؤلف یکصد و پنج کتاب بوده است.

۴۲. عبدالعزیز، در کتاب مذکور، صفحات ۳۴ و ۳۵

۴۳- همانجا، صفحه ۳۶. همچنین نگاه کنید به:

ت لصفه، بیانکه ب لکچه، دنیالله نبله نیمه ۵-

Syed Shah Khusro Husaini, Syed Muhammad Al- Husaini Gesudaraz on Sufism. Thesis. M.A., McGill University, Montreal, Canada. 1976.

۴۴- محمد علی سامانی در کتاب مذکور، صفحه ۲۶

خبر المجالس، گرد آوری حامد قلندر شامل دو صفحه اضافی است که بیان می کند شیخ نصیر الدین اورا به عنوان جانشین خود تعیین نکرد و این موضوع با توجه به سایر منابع موجود معاصر بازمان گیسو دراز ظاهرآ نا درست به نظرمی رسد.

۴۵- بین محققان مختلف که درباره گیسو دراز تحقیق کرده اند، درمورد زمان ورود وی به دکن اختلاف است. نویسنده‌گان مختلف، تواریخ متفاوتی را ذکر کرده اند. اما اکنون ثابت شده است که گیسو دراز در سال ۱۴۰۳/۸۰۲ وارد دکن شد سید من الله می گوید:

دو سال و بیست در گلبرگه بودند  
در کشف و کرامت را گشودند

سید من الله، درکتاب مذکور، صفحه ۱۰۲

محمد علی سامانی، درکتاب مذکور، صفحات ۲۵ و ۲۶

عبد العزیز، درکتاب مذکور، صفحات ۱۹ و ۲۰ و ۱۱۶

۴۶- محمد علی سامانی، درکتاب مذکور، صفحات ۲۵ و ۲۶

سید شاه غلام علی، درکتاب مذکور، مشکوک، ۱۹

۴۷- محمد علی سامانی، درکتاب مذکور، صفحات ۷، ۵۹ و ۶۳

۴۸- محمد علی سامانی، درکتاب مذکور صفحات ۱۳۲ و ۱۴۰

۴۹- همانجا

۵۰- محمد علی سامانی، درکتاب مذکور، صفحات

۱۳۴ و ۱۴۱، بنایه روایتی او صاحب بیش ازده کتاب است سید شاه

غلام علی، در کتاب مذکور مشکوک، ۲۰

۵۲- محمد علی سامانی، درکتاب مذکور، صفحات

۱۳۳ و ۱۰۷

سید شاه غلام علی، در کتاب مذکور، مشکوٰۃ ۱۹

۵۳ - محمد علی سامانی، در کتاب مذکور، صفحه ۱۳۴

۵۴ - همانجا

۵۵ - محمد علی سامانی، در کتاب مذکور، صفحات ۱۴ و ۱۵

بر طبق اقوال بعدی به نظر می رسد که او تحت ارشادات معنوی شیخ سراج الدین جنبدی نیز که از اقطاب مشهور گلبر گه بود، قراد داشت.

۵۶ - در مورد شیخ نظام الدین و خانقاہش در اورنگ آباد نگاه کنید به (خواجہ احمد) نظامی، تاریخ مشائخ چشتی، صفحه ۴۰۰

۵۷ - ر.ک:

Yazdani, Bider, its histosry and Monuments, London, 1947.p.185

۵۸ - همانجا

۵۹ - عبدالحق، اردو کی نشوونا میں صوفیہ کرام کا کام (نقش صوفیہ کرام در تحول زبان اردو) ادھلی، ۱۹۱۹، صفحه ۴۹

۶۰ - ر.ک:

K.A. Nizami, Sufi movements in the Deccan, History of Medieval Deccan(1295-1724).p.180.

۶۱ - ر.ک:

Mohd. Mujeeb, Indian Muslims, London, 1967,p.165.

۶۲ - گیسو دراز، جوامع الكلم، ترجمہ اردو، سید رحیم الدین اول، صفحات ۲۲۵ و ۲۲۶ حسینی بخش

سی و هشتاد و هشت

**٦٥- رک:** بر متابع موجود علاوه بازماندگی در این زمانه ۴۵ نا

K.A. Nizami, op. cit., p. 182.

۶- بیو محققان سخنگو که در این رده اند:

٦٦- ر.ك: سرگشیت ایجاد ملکیت علمی پژوهش، خارجی

<sup>2</sup> Briggs, *op. cit.*, p. 323.

سازمان امنیت ملی، وزارت امنیت ملی، پیشنهاد لایحه اصلاحات امنیتی

بلگرامی در کتاب مذکور، صفحات ۵۲ تا ۵۵ رونق علی،

صفحة ٢٠٣ در كتاب مذكور

٤- تجنب إدخال الماء في المثانة (المicturition) غير ملحة

۱۱ سبع سراج الدین جنیدی جاسین سید علاء الدین جاوری

جیهیدی ا وفات به سال ۱۴۴۴/۷۲۴) بود. او همچنین در سلسله

چشتی صاحب اجازه بود. وی گذشته از علاقه زاید الو صفش به حکام، به

سلطان و اطرافیانش اجازه داد که هر ساله درناحیه کجی با او ملاقات

کنند جنیدی پرای رضایت سلطان محل، اقامت خود را به با تنخت گلش گه

انتقال داد: از همه غیر معمانه قیان‌هاک (۲۱) نیز کار

گهنازانه ترا میخواهم که باید

اگر درجه ناخواسته بود، اما با این وجود کی ملابر خلاصه شد

شماره‌ی رفت. سید علی سماواتی، فرزانه مزکور، حساباتی ۶۹۰۶۷

K-12 Mathematics Standards for the District of Columbia © 2010

لـ ۱۰۰۰ دلاری داشت که این مبلغ از اکسپریس اورجینال بود.

ل هموکل و دکتر محمد حاسم که در ترجمه این مقاله نکات

معیدان را متدکر شدند، سپا سگزاری کنم.

Digitized by srujanika@gmail.com

1995-1996 学年第一学期期中考试卷

خانم دکتر نسرین اختر ارشاد  
دانشگاه پنجاب - لاہور (پاکستان) کتابخانه ملی پنجاب  
بـ نـتـلـیـنـ ، سـالـھـلـنـهـ مـلـیـ کـلـفـاـسـلـ کـلـفـاـلـ غـلـبـنـیـ وـ هـ شـقـیـقـهـ ۱۹۷۰  
مـ تـسـاـ نـوـیـهـ رـجـلـیـ اـسـنـالـھـلـنـیـ کـوـرـهـ مـخـرـجـوـ ، بـلـکـلـلـیـهـ لـنـلـسـاـ نـسـهـ مـشـیـ  
حافظ میخواهد کـهـ مـلـکـیـتـ اـرـتـیـارـیـ اـرـتـیـارـیـ پـاـلـمـنـدـ جـمـیـعـ خـلـمـ اـوـ بـکـالـهـ  
اخـلاـقـ ، چـنـائـکـهـ مـیـکـنـدـ بـوـدـ اـمـوـءـ لـوـقـ مـلـهـ هـالـیـهـ لـهـ  
حـلـ (۱۱) لـهـ وـ لـمـنـ بـجـیـشـ تـغـلـیـقـ بـلـخـرـیـوـدـ بـلـیـنـ

بـتـ عـلـمـ لـلـفـتـ طـیـعـ دـخـلـ مـلـکـیـتـ مـلـکـیـتـ کـلـمـ

### نشاط عشق در کلام حافظ

در کلام حافظ عشق و حب رموز و  
علائم آن را در آن ایجاد کنید و بر این حقیقت درونی  
حافظ اگرچه بدون هیچ تردیدی درویش و صوفی پاک باطن بود،  
ولی قلب حساسی داشت، و از احساسات و جذبات لطیف بی بهره و  
بیگانه نبود برای اینکه میدانست که همین متاع مشترک انسانیت میباشد.  
او عاشق حسن بود و هر کجا نگاهش به حسن می افتد مدح سرانی  
میکند و حظ میرد. بلکه بعض اوقات بیخود و مست میشود. درین مستنی  
و مدهوشی بلا خوف ملامت میگوید:

من آدم بهشتیم اما درین سفر شایع لفاظه داشتم  
حالی اسیر عشق جوانان مهوش (۱۱)

در کلام حافظ عشق مجازی با عشق حلیقی چنان آمیخته شده است که نمی شود از هم جدا کرد. ولی علائم و رموز در شعرش بیشتر از کیفیات حسن و جمال انسانی و زمینی میباشند که همیشه اسباب نشاط و سرمستی مهیا میکند و شخصیت حافظ را آشکار و غایان میبازند، و تشنگی زیست را آب حیات می بخشد، و تجربه ای میباشد که توجه و تعبیرش بوسیله تعقل منطقی معال است. با احساس باطنی حسن و جمال

فرق میان شعور و لا شعور از بین میرود. حافظ بتوسط تخلی این کار را  
انجام میدهد و حقائق زندگی و کائنات را به نقاب میکند، و در مجاز  
پرتو حقیقت می بیند، در نظر حافظ حسن ازلی در کمال و زیبائی سر  
چمشه حسن انسانی میباشد، بلکه هر دو یکی اند. و برای همین است که  
حافظ در ساغر عکس رخ یار می بیند، و میگوید:

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما (۲)

جای دیگر میگردید:

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود

یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد (۳)

حافظ مثل هنر های دیگر عشق را نیز یک هنر خیال میکند که  
بدون حسن و زیبائی به مقصود خود نمی رسد، و مانند هنر های دیگر نزد  
ناقد شناسی نمیگردد:

عشق میورزم و امید که این فن شریف

چون هنر های دیگر موجب حرمان نشود (۴)

وقتی ناصح به حافظ میگوید که حاصل هنر عشق جز غم و اندوه  
نیست، حافظ جوابش میدهد که بهتر ازین هنر چیزی دیگر هم وجود

ندارد:

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق

گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر ازین (۵)

عطای کن تا دلداری عاشق کند: لذت میگیرد حسن خلق نیز

خوبی میگیرد لذت میگیرد حسن خلقی ز خدای طلبم خوی ترا لذت میگیرد تا دلتنش

مالیم رسمی رینه تا دیگر خاطر ما از تو پریشان نشود (۶)

برای آنکه حافظ میداند تا وقتی که محبوب خوبی معنوی نداشته باشد قدر شناس جذبه محبت هم نمیشود، میگوید:

بخلق و لطف توان کرد صبد اهل نظر

بدام و دانه نگیرند مرغ دانا را (۷)

حافظ میخواهد که محبوب او انسانی باشد آراسته به تمام اوصاف اخلاقی، چنانکه میگوید:

حسن مهرو یان مجلس گرچه دل مببرد و دین

بحث مادر لطف طبع و خوبی اخلاق بود (۸)

در کلام حافظ حسن و عشق فتیل زندگی اند که بوسیله رموز و علام آن رازهای سر بسته کائنات را میتواند افشاء کرد. حقیقت درونی ذات قبای صفات مهبا میکند و فقط عشق است که حسن کائنات را آشکار و کشف میکند، و شدت جذبه شوق و محبت میباشد که حاوی بر مجاز و حقیقت است، بلکه تجربات روحانی حافظ از هر دو یعنی (از مجاز و حقیقت) یک وحدت قائم کرده است. همین طور در کلام حافظ حد بندی و امتیاز مصنوعی بین جوانی و پیری نیز دیده نمی شود. حافظ هیچ وقت پیر نشده، بلکه در پیری نیز در رگ و پی خوش جوش جوانی احساس می کند، و مخاطب به محبوب میگوید:

گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر

تا سحر گه ز کنار تو جوان بر خیزم (۹)

هچنین یاد رخ زیبای حافظ را جوان تر میسازد:

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم

هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم (۱۰)

یک جای دیگر میگوید که سال و ماه یعنی طول زمان عمر مرا

پیر نکرده، بلکه بیه رخی و بیوفانی بار است که پیرم ساخته،

من پیر سال و ماه نیم بار بیوفا است  
بر من چو عمر من گذرد پیر از آن شدم (۱۱)

گاهی در حال گفتگو با خود حافظ خویش را توصیه می کند که ای  
حافظ تو پیر شده ای، به میکده رفتن و تمايل به رندی و هوسناکی در  
جوانی می سزد در پیری زبانیست:  
چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو  
رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی (۱۲)

و گاهی با صد افسوس خطاب به دل پیر خویش کرده میگوید که  
با وجود علم و زهد مرا رندی و عاشقی رها نساخته است:  
دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم  
با من چه کرد دیده معشوقه باز من (۱۳)  
گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود  
گفتا ببوسه شکرینش جوان کنند (۱۴)  
و باز میگوید که جوش عشق جوانی در عالم پیری جوانه میزد، و  
رازی که در نهان خانه دل پوشیده بود، آشکار و فاش کرده بیرون  
میاندازد:  
پیرانه سرم عشق جوانی بسر افتاد  
وان راز که در دل به نهفتم بدر افتاد (۱۵)

خلاصه حافظ نشان عشق در جوانی و پیری را همچنان با هم  
آمیخته که عشق مجازی و حقیقی را هم آمیز کرده است، و به خویش  
میگوید:

گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین  
گفتا بکوی عشق همین و همان کنند (۱۶)

حافظ در صورت معجوب جلوه گری صنعت خدا رامی بیند و

میگرید:

در خرابات مغان نور خدا می بینم  
وین عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم (۱۷)  
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال  
با که گویم که درین پرده چها می بینم

در کلام حافظ ما می بینیم که تجربه های درونی مجاز و حقیقت  
در زندگی حافظ به یک زمان مراحل طی میکنند، برای اینکه میان این هیج  
بعد و فصل زمانی بنظر نمی رسید و این امکان قوی است که حافظ بین  
لذت مجازی و لطف حقیقی یک پیوند کاری لطیف روحانی، و پر اسرار  
بعمل آورده است. و ازش حظ برده و به هستی جذب کرده است و در  
کلامش گاهی یک رنگ نمایان میشود و گاهی دیگر، و همین ابهام هنر  
حافظ است. مثلاً در اشعار زیر ملاحظه فرمائید:

درد عشقی کشیده ام که مپرس

زهر هجری چشیده ام که مپرس (۱۸)

از در خویش خدا را به بهشت مفرست

که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس (۱۹)

بود که یار نرخجد زما به خلق کریم

که از سوال ملولیم، و از جواب خجل (۲۰)

بعد ازین روی من و آئینه و صف جمال

که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند (۲۱)

سر درس عشق دارد دل درد مند حافظ

که نه خاطر نمایش نه هوای باعث دارد (۲۲)

عاشق یارم مرا با کفر و با ایمان چه کار

تشنه دردم مرا با وصل و با هجران چه کار (۲۳)

الله رشته رشته لغت رشته

در طریق عشق بازی امن و آسانش خطاست  
ریش باد آن دل که با درد تو جوید مرهمی (۲۴)

این قول اکابر و صوفیاء است که حسن و زیبائی کائنات پرتو  
حسن ازل میباشد که قلب انسان را به معرفت الهی و ادار میکند. صوفیاء  
و اهل عرفان در حسن انسان و فطرت تحجلات الهی را جلوه غایی می بینند.  
در کلام حافظ نیز عشق مجازی گویا نرد بان معرفت و عشق حقیقی  
میباشد. او از حسن و جمال لطف انداز میشود، ولی پاکبازی را از دست  
غایی دهد، و دامن خویش را آلوده غایی سازد:

آشنایان ره عشق درین بحر عمیق  
غرقه گشتند و نگشتند بآب آلوده (۲۵)

حافظ نظر باز بود، ولی بدین نبود، چنانکه خود گویا است:  
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن  
منم که دیده تبا لوده ام به بد دیدن (۲۶)

حافظ شیوه نظر خویش را اعتراف کرده، این نکته را بیان میکند  
که کمال حسن و دلبری این است که صاحب دل حسن و جمال را ببیند، و  
داد به صنعت گری حق تعالی بدهد، اگر این نباشد حسن و جمال از کمال  
محروم میگردد. حسن وقتی ممنون تخیل عاشق میشود معنی آفرینی پیدا  
میکند:

کمال دلبری و حسن در نظر بازیست  
بشهیوه نظر از نادران دوران باش (۲۷)

محور عشق حافظ انسان میباشد، ولی بعضی از شارحین عشق  
حافظ را رنگ معرفت می بخشنده بعضی دیگر لذت پرستی محض خیال  
میکنند. اما حقیقت این است که در کلام حافظ آمیزش مجاز و حقیقت  
کیفیت عجیب و پراسراری اختیار نموده است که خدا عشق و عشق خدا

شده، و حسن محسوس پر تو حسن ازل گردیده است. گویا مجاز و حقیقت در کلام حافظ بیکدیگر وابسته بلکه پیوسته است، و گاهی "ما" محتاج "آن" هستیم و گاهی "او" مشتاق "ما" میباشد، و در هر دو صورت توانانی عشق ظهور پذیر میشود:

سایه معاشر اگر افتاد بر عاشق چه شد  
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود (۲۸)

درباره عظمت عشق حافظ میگوید که سخن عشق چیزی یا جذبه ای میباشد که هیچ وقت زوال پذیر نیست، بلکه همیشه زنده و جاورد میماند:

از صدای سخن عشق ندیدم خوشت  
یادگاری که درین گندید دور باند (۲۹)

حافظ همین طور یک جای دیگر گویا میشود که محبت بنیادی باشد رخنه ناپذیر:

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی  
مگر بنای محبت که خالی از خللست (۳۰.)

باز جای دیگر میگوید که قبل از وجود عالم نقش الفت وجود

داشت:

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود  
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت (۳۱)

بعضی از تذکره نویس معاشقه های حافظ را نیز بیان کرده اند و در ضمن "شاخ نبات"، "فرخ" را نام برده اند، اسم "فرخ" در غزل در دیوان حافظ دیده میشود باین مطلع:

دل من در هوای روی فرخ  
بود آشفته هم چون موی فرخ (۳۲)

ولی از شیوه بیان غزل مذکور معلوم میگردد که در پیری حافظ خاطرات نشاط عشق و جوانی را تازه میسازد. حافظ شخصی بود دیندار پاکباز و عبادت گزار. مگر حسن پرستی یک کمی شخصیت حافظ را منقسم ساخته، البته او حافظ قرآن و مدرس تفسیر بوده، و بقول گلنadam "بیشتر وقت در مطالعه دواوین شعراء عربی و تحصیل قواعد علم بیان صرف میکرد" (۲۳).

بعضی ها خیال میکنند که یک غزل در دیوان حافظ دیده میشود که حقیقتاً مرثیه همسرش میباشد که حافظ بعد از فوتش نوشته، لهجه غزل شخصی و خودمانی است و از رمز و ایما، پیدا است که مخاطب شاعر هیچ کس جز همسر خویش نیست. طرز بیان منفرد و پراز خلوص و درد مندی است، گویا غم و اضطراب با لطافت هم آمیز شده و اظهار احساس و جذبه ضبط و تحمل کار فرما گشته است. آقای حسین پژمان نیز تصدیق میکند که این غزل نا مرثیه را حافظ بیاد همسرش بعد از مرگ او نوشته است. (۲۴) مثلاً حافظ بیاد همسرش اینطور گویا میشود:

آن یار کز و خانه ما جای پری بود  
سر تا قدمش چون پری از عیب پری بود  
دل گفت فروکش کنم این شعر ببویش  
بی چاره ندانست که یارش سفری بود  
تنها نه ز راز دل من پرده بر افتاد  
تا بود فلك شیوه او پرده دری بود  
منظور خرد مند من آن ماه که او را  
با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود  
عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را  
در مملکت حسن سر تا جوری بود

اوقات خوش آن بود که با دوست بسر رفت  
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود  
خوش بود لب آب و گل و سیزه و نسرين  
افسوس که آن گنج روان ره گزرن بود  
خود را بکش ای بلبل ازین رشك که گل را  
با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود  
هر گنج سعادت که خدا داد بحافظ

از مین دعای شب و ورد سحری بود (۳۵)

حافظ عاشق صادق بوده، همان طور که احوال و اسرار زندگیش در پرده خناه میباشد، درباره عشق او نیز چیزی بطور قطعی گفتن دشوار بلکه محال است. اکثر اوقات در کلام حافظ عشق انسان و عشق الهی هم آمیز شده، گاهی معشوقش خالصه مجازی میباشد، و گاهی درباره عرفان و معرفت سخن میگوید. میتوانیم بگوئیم که حافظ عاشق انسان و هم عاشق خدا و نیز عاشق خود عشق بوده است. بعضی اوقات حافظ محسین و مددوهین خویش یعنی سلاطین و امراء شیراز را هم مانند معشوق یاد و خطاب میکند:

آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست

هر کجا هست خدایا بسلامت دارش

دل حافظ که بدیدار تو خوگر شده بود

ناز پرورد و صالحت مجوى آزارش (۳۶)

عشق قلب و وجود حافظ را چنان احاطه کرده است که هر چه او می بیند از چشم عشق می بیند، و هر چه می شنود از گوش عشق می شنود، حافظ انسان را معروض تغزل ساخته بوسیله اش جلوه حق تعالی را نظاره میکند و به همه عالم پیام محبت میدهد، گروهی از صوفیاء خیال

میکنند که توحید اسقاط اضافات میباشد یعنی ظهور انوار حق حجاب  
بشریت را از بین میبرد، و در آن دلی که عشق الهی جا گزین میگردد  
در ش محبت هبیج کس دیگر بار آور نمیشود، مثلاً ابوسعید ابوالخیر درین  
باب میگوید:

صحراي دلم عشق تو شورستان کرد  
تا مهر کسی دگر نرويد هر گز (۳۷)

ولی بر عکس این درجه های قلب حافظ همیشه برای حسن  
زمینی و جمال انسانی باز میباشند، او عاشق کمند زلف و لب لعل محظوظ  
است و در اشعار خویش همیشه ناز و غمزه محظوظ را تعریف میکند، مثلاً  
جایی مخاطب به محظوظ شده میگوید لب لعل ترا همانند آتش سرخ رنگ و  
مثل آب شاداب و تازه اند آیا تو شعبدہ باز هستی که دو ضد یعنی آب و  
آتش را یکجا جمع ساخته ای:

آب و آتش بهم آمیخته از لب لعل  
چشم بد دور که بس شعبدہ باز آمده (۳۸)

همچنین در شعر زیر حافظ عوض جان غمزه لب شیرین محظوظ را  
خواستگار میشود، ولی محظوظ خنده کنان جواب میدهد "ترخ بالا کن که  
ارزانی هنوز":

عشوه یعنی از لب شیرین تو دل خواست بجان  
 بشکر خنده لب گفت مزادی طلبیم (۳۹)

در شعر زیر می بینیم که حافظ چه نکته آفرینی کرده است. یعنی  
لب معاشق اگرچه برای عاشق زندگی بخش میباشد، ولی چون زندگی  
دوامی ندارد، لذا لطف و نشاط عشق بازی موقتی است، مگر حکایت نا  
پائیداری و بی ثباتی عشق و محبت پیش که بیریم:

بکجا برم شکایت به که گویم این حکایت  
که لبت حیات ما بود، و نداشتی دوامی (۴۰)

جای دگر میگوید که عشه طرازی های لب محبوب قلب شاعر را  
خونین ساخته، ولی عاشق نمی تواند حرف شکایت بزیان بیاورد تا رازش  
فاش نشود:

از آن عقیق که خونین دلم ز عشه او  
اگر کنم گله راز دار من باشی (۴۱)

گاهی حافظ به خلوت خانه وجودش با کمال اطمینان بوده ولی باد  
چشم مست ساقی و لب میگون محبوب او را از این خلوت خانه بیرون  
آورده کشان کشان به کوچه می فروش می برد:  
هر دم بباد آن لب میگون و چشم مست  
از خلوتم بخانه خمار میکشی (۴۲)

و گاهی برای جان ناتوان و بد حال از لعل روح فزای محبوب  
بخشن را طلبگار میشود:

بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را  
ز لعل روح فزایش به بخش آن که تو دانی (۴۳)

حافظ مریض عشق شده، و علاجش در لب لعل معشوق نهان  
میباشد، هاتف غیب نیز احترام خواهش حافظ کرده، نسخه ای حسب  
مرادش تجویز میکند:

دوش گفتم بکند لعل لبی چاره من  
هاتف غیب نداد که آری بکند (۴۴)

غیراز ذکر لیان لعل محبوب حافظ در کلام خویش به زلف و  
گیسوی معشوق اشاره کرده و به رمز و علائق طلسماًتی زلف و گیسو  
عشق ورزیده کسب نشاط میکند و حظ میبرد. مثلاً حافظ در جایی

میگوید که زلف پریشان محبوب قلب پریشان عاشق را دل جمعی و اطمینان میبخشد. گوی خواهان علاج بالضد میشود: -  
 جمع کن باحسانی حافظ پریشان را  
 ای شکنج گپسوت مجمع پریشانی (۴۵)  
 همچنین در چندین بیت دیگر نیز حافظ رمز آفرینی‌ها و نکته سنجی‌ها نموده، کیفیات مختلف را بیان مینماید مثلاً:  
 بی گفتگوی زلف تو دل را همی کشد  
 با زلف دلکش تو کرا روی گفت و گوست (۴۶)  
 همچنان باز در مقطع همین غزل حافظ چه شاعرانه خود فریبی خورده است:  
 حافظ بداست حال پریشان تو ولی  
 بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست (۴۸)  
 گاهی بوی زلف یار شاعر را بی خود میسازد، و لاف زنی تجرد و تکبر او به نیازمندی مبدل گرداند:  
 دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل  
 بیوی زلف تو با باد صبحدم دارد (۴۹)  
 در جایی حافظ میگوید که آن دلی که با گیسوان محبوب عهد و پیمان میبندد، دیگر قرار و اطمینان در نصیبیش غمی ماند:  
 دلی که با سر زلفین او قراری داد  
 گمان میر که بدان دل قرار باز آید (۵۰)  
 چایی که نسیم بوی زلف دوست بیفشناد نانه ختن را مجالی نیست که مشام جان را معطر سازد:  
 در آن چمن که نسیمی وزد زطره دوست  
 چه جای دم زدن ناقهای تاتاریست (۵۱)

و اگر بعد از مرگ حافظ نسبم همراه با بیوی گیسوی محبوب  
برسر تربت حافظ گذر کند به تاثیر آن بیوی خوش از کالبد خاکی او صد ها  
گل لاله بروید:

نسم زلف تو چون بگزرد بتربت حافظ  
ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید (۵۲)

حافظ به حضور خداوند تعالی دعا میکند که نباید او از زلف  
تابدار محبوب رهایی یابد، برای اینکه کسانی که گرفتار کمند زلف  
هستند در اصل آزاد اند:

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

که بستگان کمند تورستگار اند (۵۳)

یکجا حافظ به زاهد خطاب نموده میگوید که تو دخالت در  
معقولات ممکن، اگر قسمت یاوری کرد روزی به مقصود خود میرسم، و آن  
وقت در یک دست من جام شراب و در دست دیگر زلف یار خواهد بود:

زاهد برو که طالع اگر طالع منست

جامم بده باشد، و زلف نگارهم (۵۴)

روزی محبوب از حافظ می پرسد که دل گشته تو کجا است؟  
حافظ چه نکته آفرینی کرده جوابش میدهد که در خم های گیسوان تو نهاده  
بودم باید همانجا باشد:

گفتی که حافظا دل سر گشته ات کجاست

در حلقه های آن خم گیسو نهاده ایم (۵۵، ۵۶)

علاوه بر لب و زلف محبوب حافظ اعضای دیگر محبوب را نیز

در شعر خود آرده و موضوع سخن ساخته است:

مثلاً درباره مژگان معشوق من گوید:

اریمه نه لغه نه شاعره و نه لق شاعه نه لغه شاعر

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه دردینم  
بیاکز چشم بیمارت هزاران درد بر چینم (۵۷)

دل که از ناونگ مژگان تو در خون میگشت  
باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود (۵۸)

دریاره عارض و رخسار من گوید:  
هر کس با شمع رخسار بوجهی عشق باخت

زان میان پروانه را در اضطراب انداختی (۵۹)

دریاره چشم محبوب نکته آفرینی میکند:  
تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز

بنیاد بر کرشه جادو نهاده ایم (۶۰)

هچنین دریاره ابروی محبوب چنین سخن می گوید:  
بعز ابروی تو معراج دل حافظ نیست

طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان گرد (۶۱)

من ترسم از خرابی ایان که من برد  
معراج ابروی تو حضور نماز من (۶۲)

باز در بیان دهن معشوق نفمه سرا میگردد:  
جان قدای دهنش باد که در باغ نظر

چمن آرای جهان خوشنتر ازین غنچه نیست (۶۳)

بعز خیال دهان تو نیست در دل تنگ  
که کس مباد چو من در پی خیال معحال (۶۴)

در اشعار مذکوره فوق حافظ حسن و خوبیهای محبوب مجازی به  
شیوه های مختلف می سراید. گویا وی واقف هر پیج و خم منزل عشق  
زمینی میباشد، خطاب به زاهد میگوید که اگر تو یکبار محبوب مرا بینی  
از خدا جز من و معشوق هیچ خواهش و تنا نمی کنی:

بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد  
از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی (۶۵)

اگرچه حافظ صوفی پاک باطن بوده، ولی بلا تردید طنز به شخص خود را نیز هدف طنز قرار می دهد و از خدا دعا گومبیاشد:  
دیده بد بین بپوشان ای کریم عیب پوش  
زین دلبرها که من در کنج خلوت میکنم  
حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی  
بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم (۶۶)

حافظ ابن هم اعتراف میکند که رندی و عشق در آغاز آسان بنظر میرسید، ولی حصول کمال و فضیلت درین هنر بسیار مشکل و دشوار می ماند:

تحصیل عشق ورندي آسان نمود اول  
جانم بسوخت آخر در کسب این فضائل (۶۷)

حافظ در غزل زیر که کاملاً رنگ مجازی دارد، تمام تمنای خویش و خواهشات قلبی خود می شمارد. ملاحظه کنید حافظ چه سحرهایی می کند:

گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس  
زین چمن سایه آن سروروان ما را بس  
من وهم صحبتی اهل ریا دورم باد  
از گرانان جهان رطل گران ما را بس  
امید و حمت و قصر فردوس بپاداش عمل می بخشنده  
ما که رندیم و گدا، دیر مغان ما را بس  
به نشین بر لب جوی و گذر عمر بین  
کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان  
 گر شمارا نه بس، این سود و زیان مارا بس  
 بار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم  
 دولت صحبت آن مونس جان ما را بس  
 از در خویش خدا را به بهشت مفرست  
 که سرکوی تواز کون و مکان ما را بس  
 حافظ از مشرب قسمت گله نا انصافی است  
 طبع چون آب و غزل های روان ما را بس (۶۸)

حافظ همان طور که در عالم بالا نشاط شراب کوثر و صحبت حور  
 را حق خود میداند، درین دنیا نیز از ساقی ماهرو و جام می دست کش  
 نمیشود:

فردا شراب کوثر و حور از برای ماست  
 و امروز نیز ساقی ماهروی و جام می (۶۹)

و بعضی وقت به دلفریبی حسن اینقدر محو میشود که عالم  
 قدس را کاملاً فراموش میکند، و به نگاهش جنت هم هیچ می ماند:  
 سایه طوبی و دلجنوئی حور و لب حوض  
 به هوای سر کوی تو برفت از یادم (۷۰)

البته حافظ پاکبازی و پاک نظری خویش را به هر حال برقرار  
 میدارد، و عشق مجازی نمیتواند به کردارش رخته اندازد و از پاک باطنی  
 باز داشته باشد:

نظر پاک تواند رخ جانان دیدن  
 که در آئینه نظر جز به صفا نتوان کرد (۷۱)  
 حافظ فطرتاً حسن پرست بوده، ولی هیچ وقت هوس پرست نیست،  
 همیشه در کوچه عشق براهنمانی اخلاص و پاکبازی میرود، چنانکه خودش

میفرماید:

عشق بازی کار بازی نیست، ای دل سر بیاز  
زان که گوی عشق نتوان زد بچوگان هوس (۷۲)

آن درویش پاکباز و پاک باطن همیشه از آسودگی های جنسی خود  
داری و پرهیز میکرده، و در آخر مجدوب گشته در حسن انسانی حسن و  
جمال ازلی را نظاره میکند که در کائنات همیشه جویای آن بوده است، و  
بتوسط عشق مجازی از دیدار جمال الهی لطف انداز میشود:

روی تو مگر آنبه لطف الهی است  
حقا که چنین است، و درین روی و ریانیست (۷۳)

دلیل دیگر پاکبازی حافظ این هم باید باشد که در کلامش  
برعکس شراء دیگر فارسی "ذکر وصل" خبیث کم بنظر می رسد، بلکه  
مشاهدات عشق حافظ بیشتر از نظر بازی محض خیالی و معصرمانه  
نیست که از آن حافظ نشاط قلبی و لطف نظر حاصل میکند و "امید  
وصل" وابسته نمی نماید، ولی هیچ وقت شکوه غافل نمی کند:

حافظ شکایت از غم هجران چه میکنی  
در هجر وصل باشد، و در ظلمتست نور (۷۴)  
فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب  
که حیف باشد ازاو غیر او قنائی (۷۵)

در کلام حافظ تصور ذات باری تعالی خالصه اسلامی می باشد، او  
همیشه شان تنزیه حق تعالی را برقرار و محکم میدارد و بنظر حافظ  
امید رحمت و عفو خداوندی و قتنی باید باشد که در انسان جذبه عبودیت و  
عبدیت موجود و موجز باشد. چنانکه میگوید:

لطف خدا بیشتر از جرم ماست  
نکته سر بسته چه دانی خموش (۷۶)

جای دیگر میفرماید:

بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب

نوید داد که عام است فیض رحمت او (۷۷)

باز در همین معنی می سراید:

ای نسیم سحری بندگی من برسان

که فراموش مکن وقت دعای سحرم (۷۸)

از روی روایات اسلامی در عشق الهی آمیزش لطیف محبت و  
بندگی میباشد، همچنانکه که در دل بنده محبت خداوندی موجزن است،  
خدا نیز بنده را دوست میدارد. در قرآن هم آمده: "يَحْبُّونَ اللَّهَ وَ يَحْبُّونَهُ" ،  
یعنی مومن آن باشد که با حق تعالی از همه بیشتر محبت می ورزد.  
صوفیا، عبادات را با جوش عشق هم آمیز ساختند، شعرای متصوفین  
موشگافی هامیان عشق مجازی و عشق حقیقی کردند، و تصوف اسلامی  
را پر اسرار ساختند، ولی صوفیای اهل دل همیشه مجاز را برای حقیقت  
پلی خیال کردند که از آن سالک میگذرد قیام نمی کند، و بتوسط مجاز به  
حقیقت می رسد. عبادت نیز در تصوف اسلامی برای محبت خدای تعالی  
میباشد نه برای حصول جنت. اوامر و تواہی شریعت قمدن خارجی زندگی را  
تشکیل میدهد ولی روح مذهب بدون عشق الهی نشوونما نمی یابد، لذا  
ظاهر و باطن هر دو بجاهای خود لازم اند، و توازن صحیح هر دو ضامن  
زندگی صالح و پاکیزه میباشد. حافظ همین اسرار و رموز عارفانه را به  
شیوه های مختلف در کلام خویش جا بجا بیان نموده است:

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است

آفرین بر نفس دل کش و لطف سخنش (۷۹)

جای دیگر چه نکته سنجی ها نموده، می سراید:

شیشه در کارهای خوبی همیزد، چنانکه خردش

هزار دشمن ار میکنند قصد هلاک  
گرم تو دوستی، از دشمنان ندارم باک  
نفس نفس اگر از باد نشوم بویش  
زمان زمان چو گل از غم کنم گربیان چاک  
ترا چنانکه توئی هر نظر کجا بیند  
بقدر دانش خود هر کسی کند ادراک (۸۰.)

حافظ همیشه حقیقت و معرفت را بر مجاز ترجیح میدهد، حسن  
انسانی و زمینی فانی و محدود و محتاج است، پر عکس حسن ازی و  
حقیقی که هیچ وقت فنا پذیر نیست و قدر و منزلت هدایة دل را میداند و  
عزت افزائی میکند:

بخط و خال گدایان مده خزینه دل (۷۸)

بدست شاه وشی ده که محترم دارد (۸۱.)

حافظ در کلام خویش بار بار به قاری تلقین میکند که عاشق و  
دلداده سلطان حسن و جمال یعنی حق تعالی باش و به او راه بباب، تا  
آگهی و خیرها ببابی، مثلاً درین غزل بلاغت سخن حافظ را ملاحظه  
فرمایید:

بعزم مرحله عشق پیش نه قد می  
که سودها کنی ار این سفر توانی کرد  
تو گز سرای طبیعت نمی روی بیرون (۷۸)  
کجا بکوی طریقت گذر توانی کرد  
جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی  
غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد  
دلی تو طالب معشوق و جام می خواهی  
طبع مدار کی کار دگر توانی کرد (۸۸)

دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی  
چو شمع خنده زنان ترک سرتوانی کرد  
گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ  
به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد (۸۲)

حافظ از راه مجاز عاقبت به حقیقت میرسد، و همیشه پُر امید  
می باشد، و یقین محکم دارد که اگر انسان بذات حق تعالی راغب و متوجه  
گردد از آلانش و آلام جهان رسته میشود، و همه اوصاف خداوندی در  
وجود خوبش احساس میکند، و آگهی ذات خود را نیز در می یابد. مثلاً  
در ابیات زیر میفرماید:

در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر  
عافیت را با نظر بازی فراق افتاده بود (۸۳)

بر آستان خانان گر سرتوان نهادن  
گلپانگ سر بلندی بر آسان توان زد (۸۴)

از پای نا سرت همه نور خدا شود  
در راه ذوالجلال چوبی پا و سر شوی (۸۵)

بعد ازین روی من و آئینه وصف جما  
که در آنجا خبر از جلوه ذات دادند (۸۶)  
گدای کوی تو از هشت خلد مستغنى است  
اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است (۸۷)

عشق الهی قلب انسان را صیقل کرده از آلودگی های عالم پاک و  
منزه میکند، و برای عاشق قرب و بعد هیچ مستله ای نمی مانده او خدا را  
می بیند و با خدا صحبت میکند:

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست  
صفای همت پاکان و پاک دینان بین (۸۸)

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست  
من بینت عیان و دعا من فرستم (۸۹)  
من که دیده بدیدار دوست گردم باز  
چه شکر گوئم، ای کار ساز بندۀ نواز (۹۰)

حافظ این هم اعتقاد دارد که روز قیامت وقتی بشر روپروری حق  
تعالی میشود سالکی که محدود به مجازمانده است شرمنده می گردد.  
انسان باید از مجاز حقیقت را مشاهده بکند:

فردا که پیش گاه حقیقت شود پدید  
شرمنده رهروی که نظر بر مجاز کرد (۹۱)  
گر نشار قدم یار گرامی نکنم  
جوهر جان پجه کار دگرم باز آید (۹۲)

جای دگر حافظ میگوید که بین خدا و انسان هیچ چیزی حابل  
نیست، فقط تزکیه نفس لازم است:  
میان عاشق و معشوق هیچ حابل نیست  
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (۹۳)

باز به طرز ناصحانه می سراید:  
جناب عشق بلندست همتی حافظ  
که عاشقان ره بی همتان بخود ندهند (۹۴)  
حافظ گاهی اینطور هم به خویش مخاطب میشود:  
خرم آن روز کزین منزل ویران بروم  
راحت جان طلبم و ز پی جانان بروم (۹۵)  
منم که بی تو نفس میزنم ز هی خجلت  
مگر تو عفو کنی ورنه چبست عذر گناه (۹۶)

حافظ "غم" را نیز موضوع سخن ساخته است. عشق مجازی پاشد

یا حقیقی و از لی غم از لوازمات عشق میباشد. غم محرك تخلیق است و برای حصول عرفان ذات ضروری است، بدون غم لذت طرب احساس خوش باشی و نشاط عشق را انسان نمیتواند حاصل و حس بکند، مثلاً ملاحظه فرمائید:

لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام

اگر از جو ر غم عشق تو دادی طلبیم

چون غمتم را نتوان یافت مگر در دل شاد

ما به آمید غم خاطر شادی طلبیم (۹۷)

بنظر حافظ عشق و غم لازم و ملزم اند. وقتی عاشق وارد میکده عشق میشود غم به خیر مقدم او جلو میآید و تبریک عرض میکند:

تا شدم حلته بگوش در میخانه عشق

هر دم آید غمی از نوبتار کبادم (۹۸)

باز جای دیگر میگوید که در نصیب اهل دنیا عیش و نشاط جهان

است، ولی دل ما غم را بخود ترجیح میدهد:

دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

دل غم دیده ما بود که هم برغم زد (۹۹)

در سراسر دیوان، حافظ نفمه سرانی عشق و مستی کرده است.

بی خودی و رندی عارفانه اش دیدنی و سازگار کیف محبت و نشاط عشق

میباشد. در مطلع یک غزل میگوید که فرشتگان گل آرم را در میکده با

شراب و مستی سر شته اند، و ازش پیکر انسان را ساخته اند، لذا عشق

و مستی در سرشت آدم میباشد و او نمی تواند ازش رو گردانی کند:

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند

گل آدم سرشتند و به پیمانه زدند (۱۰۰)

جای دیگر نیز به این معنی نفمه سرا میشود و به ملایک تلقین

می کند که بر در میکده تسبیح و تمحید کنند که اینجا خمیر آدم را به  
شراب عشق و مستی معطر و مخمور می ناند و بخيال حافظ همین مستی  
و بیخودی آدمی را انسان می سازد و مقصود عشق و محبت می باشد:

بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گویی

کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکنند (۱.۱)

بنظر حافظ عشق امانتی است که خدا به انسان و دیعت نموده است

. این موضوع را او به روش الهامی چنین اظهار می کند:

آسان بار امانت تنوانت کشید (۱.۲)

قرعه فال بتام من دیوانه زدند (۱.۲)

باز هم درین معنی حافظ می گوید:

برو ای زاهد و بر درد کشان خرده میگر

که ندارند جز این تحنه با روز است (۱.۳)

بیخودی و وجودان عشق بخيال حافظ در رگ و پی انسان دوان

می باشد همچون شراب که در بشکه بدون محرك خارجی جوش می خورد.

یعنی وجودان عشق صفت خلق و فطری بشر می باشد، نه اکتسابی:

گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم

مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم (۱.۴)

حسن اگر از عشق و عاشق بی پرواهم باشد، مضایقه ای نیست،

عشق چون در سرش آدم است نمی تواند ترکش کند:

اگرچه حسن تو از عشق غیر مستغنی است

من آن نیم که از این عشق بازی آیم باز (۱.۵)

بیخودی و مستی عشق اگرچه برباد کننده عاشق است ولی وسیله

اثبات وجودش هم هست:

اگرچه مستی عشق خراب کرد ولی  
اساس هستی من زان خراب آباد است (۱.۶)

حتی که حافظ خیال میکند که جلوه غای حسن ازل یعنی حق تعالی  
به کائنات آتش زده، مرادش تجلی نور خدای بر کوه طور میباشد:

در ازل پر تو حست ز تجلی دم زد (۱.۷)  
عشق پیدا شد، و آتش به همه عالم زد (۱.۸)  
زین آتش نهفت که در سینه منست  
خوشید شعله ایست که در آسمان گرفت (۱.۹)

گاهی این آتش آشیانه وجود را میسوزاند و گاهی به خرقه عقل و  
زهد آتش میزند:

سینه از آتش دل در غم جانا نه بسوخت  
آتش بود درین خانه که کاشانه بسوخت (۱.۱)  
خرقه زهد مرا آب خرابات ببره  
خانه عقل مرا آتش خم خانه بسوخت (۱.۹)

بناسبت عشق رسول(ص) نیز در کلام حافظ جا بجا اشاره های  
دیده میشود و اینجا هم طرز ایهام و ابهام را همراه دارد، مثلاً در بعضی  
از تشریفات صوفیانه حافظ مراد از اصطلاحات "پیر مفان" و "پیر" رسول  
اکرم(ص) میباشد و منظورش از "دعای پیر مفان" درود حضرت  
محمد(ص) است:

منم که گوشہ میخانه خانقاہ منست  
دعای پیر مفان ورد صبحگاه منست (۱۱.۱)  
پیر ماگفت خطا بر قلم صنعت نرفت (۱۱.۲)  
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد (۱۱.۳)  
علاوه ازین غزل زیر حافظ به عنوان ترانه عشق رسول(ص) به

شمار میرود:

آرق جمال عشق آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

آورد حزر جان ز خط مشکیار دوست

(۱۱۸) خوش مید هد نشان جلال و جمال یار

خوش میکند حکایت عز و وقار دوست

دل دادمش بژده و خجلت همی برم

زین نقد قلب خویش که کردم نشار دوست

سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار

در گرد شند بر حسب اختیار دوست

گر باد فتنه هر دو جهان را بهم زند

ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست

کحل الجواہری بن آرای نسیم صبح

زان خاک نیک بخت که شد رهگذار دوست

مائیم و آستانه عشق و سر نیاز

(۱۱۹) اتا خواب خوش کرا برد اندر کنار دوست

دشمن بقصد حافظ اگر دم زند چه باک

منت خدای را که نیم شرمسار دوست (۱۱۲)

حافظ باز یک غزل دیگر در همین ردیف و معنی در نعت

رسول(ص) می سراید:

مرجبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

سر ز مستی بر نگیرد تا بصبع روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

حافظا با درد او می سوز و بی درمان بساز

زانکه درمانی ندارد درد بی آرام دوست (۱۱۳)

حافظ مقصود هست که بندگی عشق انسان را از حدود زمان و  
مکان آزاد می‌سازد، مثلاً خود چنان اعتراف می‌کند:  
فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم  
بنده عشم، و از هر دو جهان آزادم (۱۱۴)

اگرچه در کلام حافظ ذکر می‌و مطرب فراوان است، اما در  
حقیقت او ازین تکلفات هم بی نیاز و آزاد بوده است. هر لفظ حافظ  
ابهامی و هر جمله وی الهامی است.

همان طور که بین عشق انسانی و عشق الهی، حافظ ما نمی‌  
توانیم امتیاز کنیم درباره شراب حافظ نیز چیزی گفتن دشوار و مشکل است  
که آیا شرابش واقعه عصاره انگور است یا شراب معرفت. ولی وقتی  
می‌گوید که در قبح لاله شراب موهم و خیالی می‌نوشم و کیف و مستنی  
من محتاج به می‌و مطرب نیست، ما به حافظ اعتماد کلی داریم:

می‌کشیم از قبح لاله شرابی موهم  
چشم بد دور که بی مطرب و می‌مد هوشیم (۱۱۵)

حافظ این نیز اعتقاد دارد که از عشق انسان هدایت و دوام  
حاصل می‌کند، عشق از دوران ماوراء و جوهر حقیقی روح می‌باشد:  
هر گز غیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  
ثبت است بر جریده عالم دوام ما (۱۱۶)

حافظ دل به حریم محبوب نثار کرده آرزو مند قرب الهی می‌باشد،  
و مقصود و منتهای عشق او "منزل کبریا" است:  
منزل حافظ کنون بارگه کبریا است  
دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد (۱۱۷)

در سراسر دیوان دیده ایم که جذبه و نشاط عشق حافظ همیشه  
روشن و تابناک است، عشق خواه مجازی باشد یا حقیقی، بوسیله آن حافظ

احوال خارجی و وجودان درونی را یک وحدت کمال بخشدیده است و مانند

ذوق جمال عشق او نیز از شرح و بیان بی نیاز میباشد: (۱۷۶)

قلم را آن زیان نبود که سر عشق گوید باز (۱۷۷)

و رای حد تقریر ست شرح آرزومندی (۱۱۸) (۱۷۸)

حافظ معتقد است که عشق محرك ارتقای وجود کائنات میباشد و

جدبه محبت سرمایه بسیار قیمتی است، و انسان امین آن است. و همین

جدبه عشق و محبت انسان را بر مخلوقات دیگر جهان فوقیت عطا کرده

است و در حیات کائنات کیف و سرور و نور شعور پیدا میکند و ذره

راهمت عالی می بخشد که با سعی و کوشش و تدبیر و تاب جاودانه به

بارگاه معشوق ازلی برسد: (۱۷۹)

ذره را تا نبود همت عالی حافظ (۱۷۷)

طالب چشمۀ خورشید درخشنان نشود (۱۱۹) (۱۷۸)

\* \* \* \*

## مأخذ و منابع

(۱)- دیوان خواجه حافظ شیرازی = ابو القاسم الخجوي ص ۴۰۲.

(۲)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، الخجوي، ص ۶ (۱۷۷)

(۳)- دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ، محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، ص ۷۶.

(۴)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، الخجوي، ص ۱۰۴.

(۵)- اینجا، ص ۲۱۷.

(۶)- دیوان خواجه شیرازی، الخجوي، ص ۱۰۶.

(۷)- اینجا، ص ۷.

(۸)- حافظ شیرازی، ابو القاسم الخجوي، ص ۱۰۰.

(۹)- دیوان خواجه شیرازی، ابو القاسم الخجوي، ص ۱۰۰.

- (۸)- ايضاً، ص- ۵۹
- (۹)- ايضاً، ص- ۲۰۳
- (۱۰)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الحبوبی، ص- (۲۰۶)
- (۱۱)- ايضاً، ص- (۲۰۶)
- (۱۲)- ايضاً، ص- (۲۰۹)
- (۱۳)- ايضاً، ص- (۱۷)
- (۱۴)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الحبوبی، ص- (۱۷)
- (۱۵)- ايضاً، ص- (۵۸)
- (۱۶)- ايضاً، ص- (۱۷)
- (۱۷)- ايضاً، ص- (۱۷۸)
- (۱۸)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الحبوبی، ص- (۱۴۱)
- (۱۹)- ايضاً، ص- (۱۴۲)
- (۲۰)- ايضاً، ص- (۱۶۲)
- (۲۱)- ايضاً، ص- (۷۹)
- (۲۲)- ايضاً، ص- (۷۵)
- (۲۳)- دیوان حافظ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ص ۲۳۲
- (۲۴)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الحبوبی، ص (۲۶.)
- (۲۵)- دیوان حافظ خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الحبوبی، ص (۲۲۹)
- (۲۶)- ايضاً، ص- (۲۱۶)
- (۲۷)- ايضاً، ص- (۱۴۳)
- (۲۸)- ايضاً، ص- (۵۹)
- (۲۹)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الحبوبی، ص- (۱۲۱)

- (۳۰)- ایضاً، ص-(۲۷) شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۴)، (گلزارا)- (۱۰)
- (۳۱)- ایضاً، ص-(۲۴) (۱۰)- نه، (گلزارا)-
- (۳۲)- ایضاً، ص-(۴۵) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۳۳)- مقدمه جامع دیوان حافظ، از گلندام، دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۱۲۷) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۳۴)- مقدمه دیوان حافظ شیرازی، حسین پرمان، ص- (۹۴) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۳۵)- دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ، محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، ص- (۱۴۶) کتاب اول جامع نسخ حافظ مسعود فرزاد، ص- (۲۳۹) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۳۶)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۱۵) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۳۷)- حافظ اور اقبال، دکتر بوسف حسین خان، ص- (۶۷) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۳۸)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۲۲۸) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۳۹)- ایضاً، ص-(۱۷۶) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۰)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۲۶۵) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۱)- ایضاً، ص-(۲۷۱) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۲)- ایضاً، ص-(۲۶۸) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۳)- ایضاً، ص-(۹۸) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۴)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۹۸) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۵)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۲۷) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۶)- ایضاً، ص-(۲) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۷)- ایضاً، ص-(۲۶) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۸)- ایضاً، ص-(۲۶) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)
- (۴۹)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۸۵) (۱۰)- نه، (گلزارا)- (۱۰)

- (۵۰)- ایضاً، ص-(۸۵) (۷۷)- نه، لکھا -
- (۵۱)- ایضاً، ص-(۱۸) (۷۸)- نه، لکھا -
- (۵۲)- دیوان شمس الدین محمد حافظ، محمد قزیوئی و دکتر قاسم غنی، ص-(۱۵۸) (۷۹)- نه، لکھا یا ملکه یا ملکه و ملکه ملکه -
- (۵۳)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجبوی، ص-(۱۰۰) (۸۰)- نه، لکھا یا ملکه یا ملکه و ملکه ملکه -
- (۵۴)- ایضاً، ص-(۱۸۲) (۸۱)- نه، لکھا یا ملکه یا ملکه ملکه -
- (۵۵)- ایضاً، ص-(۱۹) (۸۲)- نه، لکھا یا ملکه یا ملکه ملکه -
- (۵۶)- ایضاً، ص-(۱۶۹) (۸۳)- نه، لکھا یا ملکه یا ملکه ملکه -
- (۵۷)- ایضاً، ص-(۷۷) (۸۴)- نه، لکھا یا ملکه یا ملکه ملکه -
- (۵۸)- ایضاً، ص-(۷۷) (۸۵)- نه، لکھا یا ملکه یا ملکه ملکه -
- (۵۹)- ایضاً، ص-(۲۳۹) (۸۶)- نه، لکھا یا ملکه یا ملکه ملکه -
- (۶۰)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجبوی، ص-(۱۹) (۸۷)- نه، لکھا -
- (۶۱)- ایضاً، ص-(۷۶) (۸۸)- نه، لکھا -
- (۶۲)- ایضاً، ص-(۲۰۹) (۸۹)- نه، لکھا -
- (۶۳)- ایضاً، ص-(۴۳) (۹۰)- نه، لکھا -
- (۶۴)- ایضاً، ص-(۱۶۴) (۹۱)- نه، لکھا -
- (۶۵)- ایضاً، ص-(۲۴) (۹۲)- نه، لکھا -
- (۶۶)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجبوی، - (۱۸۴) (۹۳)- نه، لکھا -
- (۶۷)- ایضاً، ص-(۱۶۴) (۹۴)- نه، لکھا -
- (۶۸)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجبوی، ص-(۱۴۲) (۹۵)- نه، لکھا -
- (۶۹)- ایضاً، ص-(۲۵۴) (۹۶)- نه، لکھا -
- (۷۰)- ایضاً، ص--(۱۹۱) (۹۷)- نه، لکھا -
- (۷۱)- ایضاً، ص-(۷۲) (۹۸)- نه، لکھا یا ملکه یا ملکه -

## نشاط عشق در کلام حافظ

- (۷۲)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الخجوری، ص- (۱۴) - (۲۲) -  
(۷۳)- ایضاً، ص- (۳۸) - (۷۷) -  
(۷۴)- ایضاً، ص- (۱۲۸) -  
(۷۵)- دیوان خواجه شمس الدین حافظ شیرازی، محمد قزوینی و دکتر قاسم  
غنی، ص- (۳۵) - (۲۲) -  
(۷۶)- ایضاً، ص- (۱۹۲) -  
(۷۷)- دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، محمد قزوینی و دکتر  
قاسم غنی، ص- (۲۸) -  
(۷۸)- ایضاً، ص- (۲۲۴) -  
(۷۹)- دیوان حافظ شیرازی، ابوالقاسم الخجوری، ص- (۱۵۴) -  
(۸۰)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الخجوری، ص- (۱۶۰) -  
(۸۱)- ایضاً، ص- (۷۵) -  
(۸۲)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الخجوری، ص (۵۴) -  
(۸۳)- ایضاً، ص- (۱۲۵) -  
(۸۴)- ایضاً، ص- (۸۱) -  
(۸۵)- ایضاً، ص- (۲۳۴) -  
(۸۶)- ایضاً، ص- (۷۹) -  
(۸۷)- ایضاً، ص- (۱۷) -  
(۸۸)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الخجوری، ص- (۲۱۴) -  
(۸۹)- ایضاً، ص- (۱۴) -  
(۹۰)- ایضاً، ص- (۱۲۸) -  
(۹۱)- ایضاً، ص- (۹۷) -

- (۱۲) - ايضاً، ص- (۵) (۷۷) -  
 (۱۳) - نه، آنکه - (۷۷)
- (۱۴) - ايضاً، ص- (۹۳) (۷۷) -  
 (۱۵) - دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۱۷۴) (۷۷) -  
 (۱۶) - دیوان شمس الدین محمد حافظ شیرازی، محمد قزوینی و دکتر قاسم  
 غنی، ص- (۲۵۴) (۷۷) -  
 (۱۷) - دیوان شمس الدین محمد حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۱۷۴) (۷۷) -  
 (۱۸) - اینکه، آنکه - (۷۷)
- (۱۹) - ايضاً، ص- (۱۴) (۷۷) -  
 (۲۰) - دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۷۷) (۷۷) -  
 (۲۱) - دیوان شمس الدین محمد حافظ شیرازی، محمد قزوینی و دکتر قاسم  
 غنی، ص- (۱۲۳) (۷۷) -  
 (۲۲) - دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۳۳) (۷۸) -  
 (۲۳) - اینکه، آنکه - (۷۸)
- (۲۴) - ايضاً، ص- (۱۹۳) (۷۸) -  
 (۲۵) - دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، محمد قزوینی و دکتر قاسم  
 غنی، ص- (۱۷۵) (۷۸) -  
 (۲۶) - دیوان حافظ شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۱۷) (۷۸) -  
 (۲۷) - ايضاً، ص- (۶۹) (۷۸) -  
 (۲۸) - اینکه، آنکه - (۷۸)
- (۲۹) - دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ، محمد قزوینی و دکتر قاسم  
 غنی، ص- (۳۵) (۷۸) -  
 (۳۰) - دیوان خواجه شیرازی، ابوالقاسم الجوی، ص- (۴۳) (۷۸) -

## نشاط عشق در کلام حافظ

دکتر (۱۱۱)- ایضاً، ص- (۴۶)

دکتر (۱۱۲)- ایضاً، ص- (۹)

(۱۱۳)- دیوان خواجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الحجری، ص- (۴۱)- (۴۲)

(۱۱۴)- ایضاً، ص- (۱۹۱)- (۱۱۵)- (۱۸۰)

(۱۱۶)- ایضاً، ص- (۶)

(۱۱۷)- ایضاً، ص- (۶۴)

(۱۱۸)- ایضاً، ص- (۲۵۶)

(۱۱۹)- ایضاً، ص- (۱۰۴).



لیاکان ائمہ هسته لر بزرگان و دانشمندان بودند. کلام پدران میر  
مستحسن خلیل بود که در آغاز و پایان عالم خس نداشت و در دوران  
بزرگسالی به رهبری روشنان نائل گردید و خدمت و خشم به داشت آورده.  
دیگر از احتجاد او میر امامی مرسوی هرودی بود که هرات و اسلام کرد. و به  
شاهجهان آباد آمد و علت آن به درستی دانسته بیست. او مردی عالم  
بود و به شعر و سخنوری علاقه تراویان داشت. میر علام حسن بیک دیگر  
از تباکان ائمہ است که سخنوری بود و اینجا همچنان میگوییم که راز دهلن  
به قصص آنرا همراه کرد و آن را در برابر شجاع الدینه پیغمبر که باشد و آن  
سرایندگان داریار گردید. میرزا میرزا بیکی از شعرانی بزرگ دربار توپخانه بود  
که با میر سلام حسن بسیار رفاقت داشت. و گاهی بیکدیگر را همراه می  
گفتند.

## زندگانی میر ائمہ

از میر مستحسن لر زندگی به جای ماند که همچون شاهزاد بیک

- (۱۱۱)-ایضاً، من-(۲۰۷)، سنه، لکنوا-(۱۱۱)
- (۲)-منه، لکنوا-(۲۱۱)
- (۳)-منه، لکنوا-(۲۱۲)
- (۴)-منه، لکنوا-(۲۱۳) بـلـقـاـنـدـاـرـاـ، دـنـلـجـهـ لـکـلـهـ نـوـلـهـ نـادـهـ-
- (۵)-دیوان خوارجه معاشر، (۲۱۴) بـلـقـاـنـدـاـرـاـ، دـنـلـجـهـ لـکـلـهـ نـوـلـهـ نـادـهـ-
- (۶)-ایضاً، من-(۲۱۵)
- (۷)-منه، لکنوا-(۲۱۶)
- (۸)-دیوان شمس الدین محمد حافظ شیرازی (کـلـمـاتـنـوـلـهـ اـنـجـارـاـ) (۲۱۷) کـامـ
- لـکـنـوـ، من-(۲۱۸) بـلـقـاـنـدـاـرـاـ، دـنـلـجـهـ لـکـلـهـ نـوـلـهـ نـادـهـ-
- (۹)-ایضاً، من-(۲۱۹)
- (۱۰)-ایضاً، من-(۲۲۰)
- (۱۱)-دیوان خوارجه حافظ شیرازی، ابوالقاسم الکبری، من-(۲۲۱)
- (۱۲)-ایضاً، من-(۲۲۲)
- (۱۳)-دیوان شمس الدین محمد حافظ شیرازی، محمد قریش و دکتر کاسم  
لـکـنـوـ، من-(۲۲۳)
- (۱۴)-دیوان شمس الدین محمد حافظ شیرازی، ابوالقاسم الکبری، من-(۲۲۴)
- (۱۵)-ایضاً، من-(۲۲۵)
- (۱۶)-دیوان شمس الدین محمد حافظ، محمد قریش و دکتر کاسم  
لـکـنـوـ، من-(۲۲۶)
- (۱۷)-دیوان حافظ شیرازی، ابوالقاسم الکبری، من-(۲۲۷)
- (۱۸)-ایضاً، من-(۲۲۸)
- (۱۹)-ایضاً، من-(۲۲۹)
- (۲۰)-دیوان خوارجه شیرازی، ابوالقاسم الکبری، من-(۲۳۰)

دکتر احمد قیم داری

مدیر مرکز تحقیقات فارسی، اسلام آباد



## میر انس

نیاکان انس همه از بزرگان و دانشوران بودند. نام پدر او "میر مستحسن خلیق" بود که در آغاز وضع مالی خوبی نداشت و در دوران بزرگسالی به رهبری روحانی نائل گردید و خدم و حشم به دست آورد. دیگر از اجداد او میر امامی موسوی هروی بود که هرات را ترک گرد، و به شاهجهان آباد آمد، و علت آن به درستی دانسته نیست. او مردی عالم بود و به شعر و سخنوری علاقه فراوان داشت. میر غلام حسین یکی دیگر از نیاکان انس است که سخنور بود و "ضاحک" تخلص می‌کرد واز دهلی به فیض آباد هجرت کرد و با دربار نواب شجاع الدّوله پیوند یافت واز سرایندگان دربار گردید. میرزا سودا یکی از شعراً بزرگ دربار نواب بود که با میر غلام حسین بسیار رقابت داشت، و گاهی یکدیگر را هجو می‌گفتند.

## زندگانی میر انس

از میر مستحسن فرزندی به جای ماند که همچون ستاره بی

در خشید و نام جدّ خود امامی موسوی هروی را زنده گردانید. چون انیس چهره بی شجاع و مردانه داشت نام او را "بیر علی" نهادند. سال تولد او به دقت آشکار نیست. در سال ۱۲۹۱ ه.ق. چشم از جهان فرویست و تقریباً هفتادو دو سال داشت. از این رو سال تولد او تقریباً باستی در حدود ۱۲۱۹ ه.ق. باشد تحقیقات مقدماتی را در فیض آباد گذرانید و سپس به لکهنو رفت و در آنجا هم تا چهل سالگی به کسب دانش پرداخت. در آغاز در لکهنو دیگران او را عالم به شمار نمی آوردند اما به اطلاعات و آگاهی‌های او اعتراف داشتند. میر انیس به معقولات بیشتر از منقولات علاقه داشت، و کتابهای نادر و اصلی را مطالعه می کرد. کتابخانه او پر از کتب در فنون مختلف بود، و خود او نیز همه آن کتابها را خوانده بود. عالمان و دانشواران به محفل او می آمدند، واو به اند ازه شان هر کس سخن می گفت. رفتار خانوادگی میر انیس بسیار پستدیده و بزرگ منشاه بود و زندگی آنان مانند افراد دربار خانه انهای هندی و ایرانی بود و این اخلاق را نسل به نسل به یکدیگر می سپردند. نه تنها مردان خانواده بلکه زنان نیز به آداب نیکو تربیت شده بودند. مادر میر انیس با مسائل مذهبی آگاهی داشت، و فارسی به آن اندازه می دانست که جامع عباسی را می خواند و تدریس می کرد، و به شدت پایبند عبادات بود. وضع زندگی و رفتار او برای دیگر زنان غونه بود. زنان خانواده امرا بسیار علاقه داشتند تا با او رفت و آمد کنند، و او جز در صورت ضرورت از خانه به دروغ آمد، از این رو بیشتر به تربیت میر انیس می پرداخت و در واقع میر انیس در مکتب مادر خود پرورش یافت، پرورشی که آن را در هیج مدرسه و دانشگاهی نمی توانست به دست آورد. میر انیس جوانی خود را در شهر لکهنو گذرانید و با علماء و ادباء آنجا همنشینی داشت، و این همنشینی‌ها در تکوین شخصیت او بسیار موثر بود.

### میر انبیس و فنون سپاهی

میر کاظم علی یکی از استادان فنون سپاهی از دهلى به لکھنؤ رفت، و در نزدیکی خانه پدر میر انبیس سکنی گزید، و چون هر دو خانواده با یکدیگر معاشرت داشتند، میر مستحسن خلیق پدر میر انبیس از میر کاظم تقاضا کرد تا فنون سپاهی را به میر انبیس بیاموزد، واو علاوه بر سوار کاری و شمشیرزنی، پرتاب وزنه و چوب بازی نیز آموخت. در بازیها و ورزش‌های گونا گون رسم برآن بود که بازیگران و ورزشکاران مقداری از بدن خود را عربان می‌کردند، اما میر انبیس به علت نجابت ذاتی که داشت هر گز عربان نمی‌شد، ولباس مخصوص برای خود ترتیب داده بود. در خانواده میر انبیس همه ورزشکار بودند و میر انبیس هم به ورزش اشتغال داشت، اما به اندازه ورزش می‌کرد نه آنچنان بود که سودای قهرمانی در سپرورد و نه آنچنان که ورزش را فراموش کند. بیشتر برای سلامتی بدن و نگهداری قوای خود ورزش می‌کرد.

### خلوت میرو انبیس

میر انبیس منش‌ها و شخصیت خود را حفظ می‌کرد و ساعتها در خلوت بسر می‌برد و در خلوت خانه را قفل و زنجیرمی‌زد تا کسی وارد نشود، در آن حالت به شاعری روی می‌آورد. در خلوت به شناهم می‌پرداخت، و پس از شکفتنه شدن قوای مغزی به سرودن مشغول می‌شد، او می‌سرود و بعضی از اعضا خانواده می‌نوشتند.

### درگاه میرو انبیس

در میان سرایندگان شیخ علی حزین، میر تقی میر، شیخ امام بخش ناسخ به ظرف اندیشی و نازک طبعی مشهور بودند، اما میر انبیس از همه آنان از این جهت برتر بود. همه کارهای میر انبیس بربایه اصول و

ضوابطی اساسی قرار داشت. نه تنها خود پایبند اخلاق بود، بلکه به دیگران نیز اجازه نمی‌داد تا از حد اخلاق فراتر نهند. دیگران برای ملاقات با او بایستی از پیش اجازه می‌گرفتند و وقت تعیین می‌کردند. در هنگام ملاقات لباس رسمی می‌پوشید و در سخنان عادی نیز فصاحت و بلاغت و ادب را رعایت می‌کرد.

### جمال پوستی میر انس

میر انس به زیبایی بسیار علاقه داشت و این علاقه برای شاعری بزرگ همچون او بایسته بود، و در اثر توجه به مناظر در هنگام سروden گویی در شعر نقاشی می‌کرد، و مانند بهزاد و مانی شده بود منتہی هنرمندی بود که با کلمات و آنهم در شعر تصویر گری می‌کرد.

### هیات ظاهوری میر انس

میر انس قدی کشیده و اندامی میانه داشت، نه چاق بود و نه لاغر، از چشمانی نافذ و درشت برخوردار بود، و جسارت و شجاعتی در چشمان او بود، سبیلهای کشیده و مردانه داشت. وقتی به لکهنه رفت لباسهای خاصی داشت، و اهالی لکهنه لباس خاصی داشتند، میر انس هم همان لباسهای لکهنه را می‌پوشید، لباسی که این روزها معمول نیست و تا آخر عمر از همان لباسهای سنتی لکهنه استفاده می‌کرد. او به زبان لکهنه‌یان سخن می‌گفت که زبانی پر تکلف و همراه با آداب بود. همیشه کلاهی بیضی بر سر می‌گذاشت، و دستمالی سفید و چوپانی کوتاه و زیبا در دست داشت.

### اولین مجلس میر انس

هنگامی که انس با خانواده اش به شهر لکهنه رفت، شعرو شاعری در آنجا بازار گرمی داشت. شاعران در آن هنگام دو دسته بودند.

یک گروه به غزل می پرداختند و گروه دیگریه مرثیه توجه داشتند. میر خلیق پدر انس که خود نیز مرثیه سرایی مشهور بود به تربیت انس و پیشرفت او بسیار توجه می کرد. میر انس بسیار با ادب بود، و سخنانی دانشمندانه می گفت، و شاعران از میر خلیق درخواست می کردند که انس را تشویق کند تا به مرثیه پردازد و یک بارهم که میر خلیق مرثیه خواند به حاضران در مجلس گفت اکنون میر انس آماده مرثیه خوانی است، و او با ادب و سنگینی خاصی به مرثیه خوانی پرداخت، و رفتار پدرش به گونه بی بود که فرزند خود را قادر و اعتبار بخشد، از اینجهت او را فرادست خود می نشاند. از آن پس به سرعت میر انس در هندوستان شهرت یافت و اهل ادب او را شناختند. در همان زمان میرزا دبیر یکی از مرثیه گویان مشهور از رقبیان سرسخت انس به شمار می رفت.

### مجلس و قابض

نقادان سخن گروهی طرفدار میرزا دبیر بودند، و گروهی هم به دفاع از انس می پرداختند. در شهر جونپور دو گروه طرفداران میرزا دبیر و میر انس با یکدیگر به مخاصمه پرداختند و به دیوان حافظ فال زدند. نخست برای میرزا دبیر و پس از آن برای میر انس.

### غزل هربوط به میرزا دبیر:

آن را که خواندی استاد ارشگری به تحقیق

صنعتگری است اما طبع روان ندارد

و شعری که بوای هیو انس آمد:

ستاره بی بد رخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده هارا انس و مونس شد

آن روزها بسیار مشکل می نمود که بتوانند هر دو شاعر را در یک

مجلس حاضر کنند تا اینکه نواب مفتاح الدوله بهادر در حضور محمد واجد علی شاه پادشاه "اود" از هر دو شاعر آن قدر توصیف کرده تا شاه آنان را به مجلس خود فراخواند. پس از ترتیب مجلس و دعوت آن دو شاعر، میرزا دبیر زود تر از میر انبیس به مجلس شاه بار یافت و میر انبیس اند کی پس از او رسید. میرزا دبیر بنا برست شاعران پیشین یک ریاعی در مدح سلطان انشاد کرد و سپس مرثیه خواند. میر مونس یکی دیگر از مرثیه خوانان حضور داشت و مرثیه بی قرانت کرد و سپس میر انبیس بی آنکه نوشته بی همراه داشته باشد و یا مدح سلطان بگوید به مدح حضرت علی علیه السلام پرداخت پس از آن درود و سلام گفت (سلام نوعی از شعر بود که در آن به پیامبر یا امامان یا اولیاء سلام و درود می‌رسانند). انبیس می‌گرید:

غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خوان ہو کر  
 مجری اپنی ہوا کھڑؤں سلیمان ہو کر

ترجمه به فارسی:

من ثناخوان شاه مردانم  
مدح بیگانگان نمی خوانم  
من سلیمان هستم و فرمانروایی  
بر ہوا را از دست نمی دهم

پس از خواندن این شعر به زیان اردو به مرثیه خوانی پرداخت و شاه دانست او بسیار با منش است و از هیچ کس جز انبیاء و اولیاء ستایش نمی کند. از آن پس میر انبیس در شهرهای گوناگون در مجالس به مرثیه خوانی پرداخت و صله های فراوان یافت و درباره عزتِ نفس و شخصیت او همین بس که وقتی به حیدر آباد رفته بود امیر نواب سر آسمان جاه بهادر از او خواست که اگر کلاه خود را بردارد و کلاه حیدر

آبادی برسرگزارد ۵۰۰۰ روپیه به او عرض دهد، ولی میر انس نپذیرفت.

آخرین مجلس او در پایان عمر در شیش محل لکهنو، (منظور از شیش، شیشه است) برگزار گردید، درباره او گفته اند: که هرچه ساخوردۀ تر می شد شعرش شادابتر می گردید، او از آغاز تا پایان عمر از احترام مردم برخوردار بود، در صدها مجلس شرکت جست و پیوسته رونق بخش محافل بود. سرانجام به بیماری سل مبتلا گشت، و پس از گذشت یک ماه از شدت بیماری، درگذشت.

### جانشین میو انس

فرزند میر انس، میر نفیس بود که گاهی نا مادری او میان پدر و پسر اختلاف پدید می آورد و روزی یکی از خیر خواهان برای آشنا پدر با پسر مرثیه بی نزد میر انس آورد و خواند و میر انس گفت کلمات این شعر به گونه بی است که تنها از سوی خانواده ما باشد سروده شده باشد، و آن شخص به میر انس گفت این شعر فرزند تو میر نفیس است پس از آن میر انس فرزند خود را در برگرفت و به تشویق و تربیت او پرداخت و جانشین خویش گرد انید.

### تعداد اشعار میو انس

تعداد مرثیه های میر انس به دقت معلوم نیست. شمس العلما مولانا محمد حسین آزاد در تذکره آب حیات نوشته است: میر انس حتیاً دست کم ده هزار بیت مرثیه سروده است سلامها و رباعیات او بی شمار است.

### سبک فکر و اشعار انس

اشعار میر انس برخلاف اشعار بسیاری از دیگر شاعران در

دوران ساخوردگی پخته تر و شادابتر گردید. اشعاری که در عشقهای مادی زودگذر سروده شود چندان دوام نمی‌آورد، اما اشعار میر انس چون از معنویت و روحانیت سرشار برخوردار بود صفت جاودانگی یافته است. فردوسی طوسی در "شاهنامه" جنگهای پهلوانان را آنجنان به تصویر کشید که در ادب فارسی و عربی بی‌نظیر است. نظامی گنجوی نیز در "اسکندر نامه" قدرت شاعری خوبش را غایبانده است. اما میر انس صحنه‌های جنگی را با توجه به ایمان و اعتقادی که به خاندان پیامبر (ص) داشته است با عشق و سوز بیشتر تصویر کرده است. میر انس برای نامیدن هریک از قهرمانان کریلا واژه بی‌خاص برگزیده بود. الفاظ دشوار به کارنامی برد و از تعقید لفظی و معنوی در سروden اشعار دوری می‌جست. تا زمانی که واژگانی فصیع و بلیغ به دست نمی‌آورد به سروden نمی‌پرداخت. کلمات را در اشعار خود مانند مروارید جای می‌داد. سخنان روزمره او با اشعارش پیوند داشت. در عین آن که ساده سخن می‌گفت از مایه‌های ادبی و معنوی نیز برخوردار بود. فردوسی در شاهنامه جنگها و صحنه‌های فراوانی را تصویر کرده است اما میر انس در حماسه‌ها و مرثیه‌های دینی تنها و تنها به واقعه جانگداز کریلا پرداخته، و درباره همه قهرمانان و وسائل جنگی آن روز به دقت سخنسرایی کرده است. وقتی اشعار میر انس را در تصویر صحنه‌های جنگ می‌خوانیم آن چنان در ما اثر می‌گذارد که گویی در واقع آن صحنه‌ها را با چشم می‌بینیم. خصوصیت بارز شعر میر انس این است که در مرثیه‌تها به ذکر اوصاف امام حسین علیه السلام و یاران او پرداخته بلکه سرداران و لشکریان بنی امیه را نیز به دقت وصف کرده است. اهالی لکهنو بسیار مغروف بودند و هر کسی خود را برتر از دیگران می‌دانست و حتی استادان راهم قبول نداشتند. اما میر انس جزو تنها کسانی بود که از آغاز تا پایان عمر از احترام همگان برخودار بود. در دهلی هم سخنوران انس را ارج می‌نهادند و میرزا غالب

دهلوی از او ستایش می کرد و می گفت هیچ کس غمی تواند مانند میر انس مرثیه بسراید. اگر کسی دربرابر انس مرثیه بگوید نه تنها به میر انس توهین کرده بلکه مرثیه را نیز به سخره گرفته است. در دهلی و لکھنؤ مرثیه گویی انس را اعجاز سخن می دانند.

بعضی از آثار اویه عربی و انگلیسی ترجمه شده است. "سرراس مسعود" چند مرثیه رابه زبان انگلیسی ترجمه کرده است. مولانا علی نقی لکھنؤ نیز پاره یی از مرثیه های میر انس رابه زبان عربی برگردانده است. غلام امام و سید غلام عباس و امیر امام حروجی الٹا و شاکر جعفری چند بین مرثیه را نیزیه انگلیسی ترجمه کرده اند.

انس از ترکیبات فارسی بسیار بہره جسته، و گاهی ترکیبات عربی هم بکار برده است.

مثال برای ترکیبات عربی:

ای مدرگار معین الضعفاء ادرکنی  
ای خداوند جهان خذ بیدی خذبیدی

مثال برای ترکیبات فارسی:

در توصیف فرزندان زینب ع چنین سروده است:

ان گیسوون میں نگہت مشک تتری ہے

سنبل کو بھی گلزار میں شوریدہ سری ہے

یعنی:

در این گیسوان فرزندان زینب نگہت مشک تتری است

سنبل ہم در گلزار شوریدہ سر شده است

پلکبن کہیں سرتیزی میں نشتر سے زیادہ

یعنی:

مژگان ایشان از نشر تیز تر است  
 درباره لباس حضرت قاسم مع سووده است:  
 تکمه تو ستاره هی گریان مه نو هی  
 یعنی:  
 دگمه همچون ستاره و گریان همچون ماه تو است.  
**مخالفان حضرت قاسم را این چنین وصف کرده:**  
 کبا سمجھیں جو وہ مست می بی خبری هیں  
 یعنی:  
 آنان که مست می بی خبری هستند چه چیز در می باشد  
 میر انس در آغاز غزل عاشقانه می سرود اما پدرش مخالف غزل  
 سرایی بود و او را منع می کرد و شاعر نوجوان هم با آمادگی که خود  
 داشت پند پدر را پذیرفت. اکنون ترجمه یکی از غزلهای اورا نقل می کنیم:

### غزل انس

شهیدِ عشق هونیه قیس نامور کی طرح  
 کئے ہیں عیب بھی ہم نی تو وہ هنر کی طرح  
 تمہارے حلقو بگوشوں میں ایک ہم بھی ہیں  
 پڑا ریس بے سخن کان میں گھر کی طرح  
 تجھی کو دیکھیں گی جب تک ہیں برقرار آنکھیں  
 مری نظر نہ پہنے گی تری نظر کی طرح  
 نحیف و زار ہیں کیا باغبان سے زور چلیے  
 جہاں بثنا دیا بس رہ گئے شجر کی طرح  
 خدا جہاں میں سلامت رکھے تجھے اے قبر  
 کہ سونیے پاؤں کو پھیلا کے اپنے گھر کی طرح

دیگر از شاعر بماری قبر کو کبا احتیاج عنبر و عود

سلگ ریا هی هرای استخوان اگر کی طرح

اینک تکارنده آن رابه شعر فارسی برگردانده است:

من هم شهید عشق و بی پا و سرشدم

مجنون چو قیس گشته ام و نامور شدم

نسبت بسی کند همه عشق من به عیوب

از عیوبهای عشق بسی با هنر شدم

من هم یکی ز حلقه به گوشان در گهم

آویز گوش گشتم و همچون گهر شدم

چشم از رخت نگیرم و پیوسته بتکرم

چشم از رخم گرفتی و من در بدر شدم

زار و نزار گشتم همچون نهال خشک

بر جای خویش مانده و همچون شجر شدم

من خود به گور رفتم و خفتم به تیر گی

گویی که صید گشتم و بی بال و پر شدم

هرگز بگور نیست نیازم به شمع و عود

عدم شد استخوان و به سر شعله ور شدم

مرثیه های انس بسیار جاندار و زیباست، و هرگز ذلت و پستی

در اشعار او راه نیافته، و در همه جا باران امام حسین (ع) را با شجاعت و

سروری و وقار توصیف کرده است. در شب عاشورا از زبان حضرت امام

حسین خطاب به یار انش چنین سروده:

جب قطع کی مسافت شب آفتاب نیم

جلوه کیا سحر کی رخ بی حجاب نیم

رسیو "بیست" عالی این شاعر ای همکار و همراه عیوب

دیکها سوئی فلک شه گردون رکاب نی  
مز کر صدا رفیقون کو دی اس جناب نی  
آخر هی رات حمد و ثنایه خدا کرو  
انهو فرضه سحری کو ادا کرو

ترجمه به فارسی از نگا رنده:

چو پیمود شام سیده آفتاد  
سحر جلوه آورد رخ بی حجاب  
نگه کرد شاه جهان بر فلک  
ندا کرد باران همه یک به یک  
به مدح و ثنا دست بر آسمان  
که پایان عمر امشب است ای مهان  
یک امشب خدا را ستایش کنید  
پگاه است و باهم نیایش کنید

میر انیس در شعر خود سبک شاعران دهلی و لکھنو را بکار برده است. در سبک شاعران لکھنو تکلف و تصنیع بسیار بکار می‌رفت، و در ضمن شاعران در شعر خود ظرافت و لطافت نیز داشتند. ناسخ و انیس هر دواز شعرای بزرگ لکھنو بشمار می‌رفتند، اما مرتبت انیس بسی برتر از ناسخ و دیگر سرایندگان بود. اگرچه عنصر مذهب در سبک همه شاعران لکھنو وجود داشت، اما انیس بگونه‌یی خاص مذهبی بود و اساساً شعر او مرثیه دینی بود. انیس هم خود مذهبی بود و هم از مقبولیت مذهب در پیشبرد هنر خود بهره جست، ناسخ شاعری فصیح زبان بود اما به اندازه انیس مذهبی نبود. انیس احساسات و اندیشه و توان هنری خود را در مرثیه بکار برده پیش از انیس در دوره شاعری "سودا" مرثیه بیشتر برای مجالس عزاداری و کسب روزی دستاوریز شعرها بود. پس از او "ضمیر" یکی

دیگر از شاعران، مکتب مرثیه سرایی را گسترش داد و خصوصیات دیگر انواع شعر و انواع ادبی رادر مرثیه بکار گردید و در توصیف شمشیر و اسب نیز خصوصیات عاطفی و خیالی و ذهنی خود را در شعر آشکار ساخت.

در تعریف اسب چنین سروده است:

خوشرو و خوش خرام و خوش اندام و خوش جام  
خوش خود و خوش جمال و ادا فهم و تیز گام

در باره شمشیر چنین سروده است:

ناز اس کی سب کو بهانی کرشمی بھلے لگے  
چھوڑے نہ بے لہو پینے جس کے گلے لگے

همه از ناز شمشیر خوششان می آید.  
گلوی هر کسی را که می گیرد تا او را نکشد رهانی کند.  
شمشیر می نگر که چسان ناز می کند  
بر هر تنی رسد سراو باز می کند

در باره سپر چنین سردوه است:

دارالامان کعبه نصرت ہے یہ سپر  
پشت و پناہ شاه ولایت ہے یہ سپر  
لاریب فیہ آیہ رحمت ہے یہ سپر  
حقاً سواد اعظم شوکت ہے یہ سپر

ترجمہ آن به شعرفارسی بقرار زیراست:

دارالامان کعبه نصرت بود سپر  
پشت و پناه شاه ولا یت بود سپر

لارب فیه آیه رحمت بود سپر  
حقاً سواد اعظم شوکت بود سپر  
انیس رزم و بزم را در شعر از یکد یگر جدا می سازد و مرثیه  
گویی را فرضه دینی می داند و سروده است:

بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان هے جدا  
یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان هے جدا

معنی:

رنگ بزم دیگر است و میدان رزم دیگر  
این چمن دیگر است و گلستان زخم دیگر

انیس هم وظیفه ادبی خویش را در شعر ادا می کرد وهم فرضه  
دینی خودرا. در مرثیه های انیس اسمهای قهرمانان همه عربی است اما  
احساساتی که از ایشان توصیف می کند احساساتی عام و انسانی است که  
ربطی به عرب و عجم ندارد، منتهی این احساسات به زبان ولجه لکھنؤی  
سروده شده است. نهایت انتقاد و ایرادی که بر انیس گرفته اند این است  
که او مؤرخ نیست بلکه مرثیه گو و داستان سراست که وقایع تاریخی رابه  
صورت داستان بیان کرده است. در مراثی میر انیس اصول دین، معرفت  
الهی، غاز و اهمیت جهاد و عشق محمد(ص) و آل محمد(ص) بسیار  
گوشزد شده است از این جهت مرثیه های او بی نظیر است.

یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر  
ای ابر کرم خشک زراعت په کرم کر

اینک ترجمه به شعر فارسی:

یارب چمن نظم مرا باع ارم کن  
بر مزرع خشکم کرم ای ابر کرم کن

در باره رسول(ص) چنین سروده است:  
فخر ملک و اشرف آدم هی محمد  
اکلیل سر عرش معظم هی محمد  
حقاً که خداوند دو عالم هی محمد  
آخر هی مگر سب سے مقدم هی محمد

ترجمہ آن به شعر فارسی به قرار زیر است:

فخر ملک و اشرف آدم است  
اکلیل سر عرش معظم محمد است  
حقاً که خداوند دو عالم محمد است  
ومن می ہم نہ اکلیل در نوبت آخر است و مقدم محمد است

**مقام انسیس در صوییہ گویان اردو**

پس از واقعه کریلا مرثیہ خوانی شروع گردید و شاعران عرب  
زبان و فارسی زبان و سپس اردو زبان به مرثیہ سایی پرداختند. مرثیہ  
گویی در زبان اردو همراه است با نخستین اشعار اردو اولین سرایندگان از  
سرزمین دکن بودند و هنگامی که زبان اردو در دربار شاهان دہلی راه یافت  
مرثیہ گویی هم به اردو در هند پرورش یافت.

پس از زوال سلطنت گورکانیان در دہلی شاعران مرثیہ گویہ دربار  
شاهان "اود" رفتند و فن مرثیہ گویی را در آن فضای آزاد گسترش دادند. از  
آن پس میر خلیق مستحسن و میان دلگیر و چندین شاعر دیگر به مرثیہ  
توجه کردند. پس از ایشان میر انسیس طلوع کرد که بسیار با هوش و دقیق  
بود. انسیس نہ تنها ادامه دهنده سنت پیشینیان و نیاکان خود در مرثیه بود  
بلکه راههای تازه و ابد اعاتی پدید آورد.

مخالفان انسیس بر او انتقاد کرده اند که واقعه کریلا رابه صورت

افسانه در آورد و تخیل و مبالغه فراوان بکار برده است. ابراد دیگری که گرفته اند این است که قهرمانان کریلا را کمی هم به رنگ خاند انهای سلطنتی هندوستان در آورده است، اما حقیقت این است که انس نه فقیه بود و نه مؤرخ، تنها شاعری معتقد بود با عشقی بی پایان که واقعه کریلا را بصورتی شاعرانه بیان کرده است. کمال انس این بود که آن واقعه را در بیان و معرفی به اوج خود رسانیده است.

انس درسیاری از اشعار خود عین واقعه کریلا را هم نقل کرده است و اینگونه تبست که پیوسته افسانه گفته باشد. در هر حال زندگی انس در محبط لکهنو و دهلی بر شعر او اثر گذاشته بود. انس ویژگیهای روایی مردم سرزمین خود را خوب می شناخت که لکهنویان از چه نوع شعری بیشتر استقبال می کنند و این مطلب همچنین منافاتی با اعتقادات انس نداشت و او صرفا به خاطر خوش آمدن مردم شعر نمی گفت بلکه نهایت باور و اعتقادات خود را در هنر خویش نشان می داد.

شبلى نعمانی مولف معروف شعرالعجم گفته است: اگر مبالغه در مضمونها به محال عقلی برسد آن را لغومی گویند. اما اگر مبالغه بر محال عقلی نرسد صفتی است عالی. اگر کود کی شیر خواره را رستم بخوانیم لغو گفته ایم اما اگر پهلوانی نامدار را رستم بنامیم مبالغه آورده ایم. در مرثیه های انس صفاتی که برای خاندان پیامبر آمده است بنا به اعتقاد مسلمانان هیچ یک لغو نمی تواند باشد، بلکه بسیاری از آنها مبالغه تواند بود که از محسنات شعر بشمار می رود...

در کلام میر انس هر گز غلو راه نیافته بلکه آنچه در سخن او می خوانیم کمال تخیل شاعرانه است. انس درباره گرمی هوا در کریلا چنین سرده است:

گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان  
ذر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگی زبان

گرمی روز جنگ چکونہ کنم بیان  
ترسم چو شمع آب شود در دهان زبان

پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی  
ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی

گرمی آب، آتش و روز حساب بود  
ماہی به سیخ موج چو آمد کباب بود

انیس فضای کریلا را خوفناک و وحشتناک معرفی نمی کرد بلکہ با تخيیل شاعرانہ واقعہ را بسیار آرام و زیبا تصویر می نمود تا دیگران رابه آرامی متاثر سازد.

### اقبال و انیس:

اقبال تحت تاثیر انیس واقع شده بود، وی شعر معروف "شکوه" و جواب "شکوه" رابه تاثیر و تقلید انیس سروده بود. در هنگام سروden "شکوه" اقبال مرثیہ میر انیس را در مقابل خوش قرار داده بود که مطلع شعر انیس این است:

آج شبیر په کیا عالم تنہائی ہے  
ظلم کی چاند په زہرا کی گھنا چھائی ہے

امروز حسین چہ عالم تنہائی دارد ابر ظلم ماہ زہرا (ع) را فرا

گرفته است.

اقبال همه مرتیه های انیس را به خاطر داشته است. در نامه بی که اقبال به عطیه فیضی نوشته، چندین بیت از مرتیه انیس را نقل کرده است.

بطور کلی اشعار انیس به سه قسم تقسیم می شود ، سلام ، ریاعیات و مراثی. ریاعیات انیس بر وزن ریاعیات خیام است، منتها انیس در ریاعیات مرتیه بکار برده است یا در قالب ریاعی مرتیه سرایی کرده و موضوعهای حکمی بکر و کوتاهی را در قالب مرتیه آورده است.

اندیشه باطل سحر و شام کیا  
عقبی کانه هائی کچه سر الخجام کیا  
نا کام چلے جهان سے افسوس انیس  
کس کام کو بہار آئی تھی کیا کام کیا

اینک ترجمه آن به نثر فارسی:

روز و شب را با اندیشه بیهوده گذراندیم  
افسوس برای عاقبت هم کاری نکردیم  
انیس، افسوس که از این جهان ناکام رفتیم  
برای چه کار آمدیم و چه کار کردیم

نگارنده آن را به شعر فارسی برگردانده است بقرار زیر:

هر روز به اندیشه باطل گذ راندیم  
بی توشه عقبی همه غافل گذ راندیم  
نا کام پرفتیم از این عالم خاکی  
بیهوده و بی حل مسائل گذ راندیم

تاریخ وفات میر ببر علی انیس دهم دسامبر ۱۸۷۱ م است:

\* \* \* \* \*

## ہاخت

- ۱- انیس، صد سال برسی مرتبہ دکتر سید سبط حسن رضوی، دستان انیس راولپنڈی، ۱۔ دسمبر ۱۹۷۴ء
- ۲- مرائی انیس، چاپ علمی لاہور، کشمیری بازار، لاہور
- ۳- میر بیر علی انیس کی صد سالہ برسی کے موقع پر، از کوثر نیازی، سند آفست پرنٹرز-کراچی ۱۹۷۵ء
- ۴- مجلہ دانش، سال دوم-شماره سوم-زانیہ ۱۹۵۱ء-تهران  
امیر عباس خبیری-انیس بزرگترین مرتبہ گو.
- ۵- مرائی انیس مرتبہ نائب حسین نقی امروہی-ناشر شیخ غلام علی اپنڈ سنز-لاہور-۱۹۶۷ء.
- ۶- مرائی انیس مرتبہ مرزا احمد عباس-ناشر-بک لینڈ-کراچی-۱۹۶۱ء.
- ۷- مرتبہ میر انیس-طبع منشی نولکشور-کانپور.
- ۸- میر انیس کی مرتبی-نظمی پرس بک ایجنسی-کراچی.
- ۹- موازنہ انیس و دبیر از شبی نعمانی- مجلس ترقی ادب-لاہور-۱۹۶۴ء.
- ۱۰- تاریخ مرتبہ گوی از پروفیسر حامد حسن قادری - اردو اکادمی- سندھ کراچی.
- ۱۱- انیس اور مرتبہ- زندگی اور پیام- سید مرتضیٰ حسین فاضل- ۱۹۷۴ء- فیاض پرس لاهور.
- ۱۲-Anis and Shakespeare- A Comparison by Syed Ghulam Imam Advocate Lucknow 1950.
- ۱۳- شاگردان میر انیس از دکتر سید قعیم حسین جعفری سند آفست پرس کراچی ۱۹۷۹ء

### قطعه درثای میر امیس

این قطعه را میر نفیس پسر میر امیس بصورت تخيیس  
يعنى مخمن در تقلید قطعه شیخ حزین سروده است

از باغ جهان بلبل بستان سخن رفت  
در زیر لحد نیر تابان سخن رفت  
پیهات که سر دفتر ایوان سخن رفت  
افسوس که شایسته ایوان سخن رفت  
ویرانی نظم است که سلطان سخن رفت  
فریاد بر آمد زلب هر گل گلشن  
بلبل زغمش کرد پا ناله و شیون  
بوده است از و راه سخن وادی این  
شد تیرگی روز سخن بر پمه روشن  
کان شمع فروزان زشبستان سخن رفت  
سر دفتر اهل پنر و اهل زبان بود  
روشن قمر برج معانی و بیان بود  
در نظم سخن افصح استاد زمان بود  
سرمایه ده نکته فروشان جهان بود  
او رفت ز عالم سروسامان سخن رفت  
رفت آنکه سرافرازی مجلس زدمش بود  
تازه گل مضمون زنسیم رقمش بود  
سیر ابی بزم سخن از جام جمش بود  
شاد ابی معنی زصحاب قلمش بود  
از رفت او فیض گلستان سخن رفت  
در مجلس او بود زیس جوش ملاٹک

برخاست و گردید به آغوش ملاتک  
بوده ست بر آواز خوش گوش ملاتک  
می برد سخن سازی او بوش ملاتک  
هر کس سخن خواند بقربان سخن رفت  
پهان شده خورشید سپهر بهم دانی  
جان دادشِ کشور اعجاز بیانی  
تاریک شده الجمن مرثیه خوانی  
ماتم کده شد خطه الفاظ و معانی  
سلطان سخن شان سخن جان سخن رفت  
هر چند بظاہر بدنش زیر زمین است  
روحش بفلک پمنس روح زمین است  
یاد آور او مرثیه سرور دین است  
خاموش نفیس از المش طبع حزین است  
کان شهر سخن بحر سخن کان سخن رفت

\* \* \* \*

### ترجمه منظوم دعاہ میر انس

از: آقای حسین عاطف تهرانی  
یا رب چمن نظم کو گلزارِ ارم کر  
ای ابرِ کرم خشک زراعت په کرم کر  
تو فیض کا مبدأ ہے توجہ کوئی دم کر  
گنام کو اعجاز بیانون میں رقم کر  
جب تک بہ چمک مهر کی پر تو سے نہ جائے  
اقليم سخن میرے قلمرو سے نہ جائے

\* \* \* \*

یا رب چمن نظم مرا باع ارم کن  
 بر مزرع خشکم کرم ای ابر کرم کن  
 تو مبداء فیضی به توجه نگهم کن  
 گمنام درنا دره گویانم علم کن  
 تا نور زخورشید جدائی نپذیرد  
 اقلیم سخن فاصله از بندۀ نگیرد

\* \* \* \*

### بیاد میو انبیس

زیحر فیض حسین(ع) است یک جهان سیراب  
 حسین(ع) بر لب دریا نیافت جرعه آب  
 حسین ماهی بعر شهادت کبری  
 امام عالم اسلام و زینت محراب  
 حسین ملت مرحوم را سبق آموخت  
 ہمین که درده حق جان بده و جنت یاب  
 هزار داغ سیاه جین ملت خود  
 بشست خون حسین شهید فیض مآب  
 انبیس درغم شبیر اشک خون می ریخت  
 زدیده شام و سحر یے به یے چو لعل مذاب  
 دگر بهمرهی اشک خون چکید برون  
 زراه دیده دلش پاره پاره پمچو عناب  
 زیسکه خورد زجام حسین باده عشق  
 بجای شعر زلب ریخت لو لو شاداب  
 فروع زد به دلش نور آفتتاب حسین  
 ازان انبیس یه سیناست ہم عدد بحساب

زیسته چشمته فیض است از حسین روان  
 ازان ز شعر انس اند تشنگان سیراب  
 چه چشممه ایست محبت که خورد برکه ازان  
 دو قطره آب روان شدز چشم او سیلاپ  
 شکایت است ز مهتاب و آفتاب مرا  
 که این خسف نگرفت سرت و آن نشد بیتاب  
 ز چشم خود نچگانید در دهان حسین  
 دو قطره اشک بیدان کر بلا، مهتاب  
 ویا ندیدستم بر حسین وال عبا  
 ویا کشیده به رُخ داشت از نظاره نقاب  
 ویا نبود به چشمنم حمیت و رحم  
 ازان نریخت به مظلوم کر بلا، مهتاب  
 نبود زار مگر درغم حسین علی  
 خسف و گرنه گرفتی به قرص خود مهتاب  
 با گشود خلا باز چرخ آخر کار  
 حقیقتی که بجز سنگ نیست این مهتاب  
 به کوفیان که نگردید خشک آب فرات  
 غلط بود که بود آفتاب آفت آب  
 گرفته کا سه بکف چون گدا بجه رجب  
 انس بردر شیبر بس غنی به نصاب  
 بس این دلیل نجابت به دودمان انس  
 حسین "وَجَدَ" انس اندهم عدد به حساب  
 میان مرثیه گو شاعران و میر انس  
 تفاوتی است عیان چون میان زمزم و آب

کسی ز مرثیه گویان پند نگشو داست  
 گشود از رخ اندیشه چون انیس نقاب  
 به بابِ مرثیه گویان، منقبت در هند  
 گشوده میرانیس است مختلف ابوابِ  
 امیرِ مرثیه گویان پند میر انیس  
 بدین مهین لقیش کرده خود دبیر خطاب  
 انیس یافت ز شبیلی لقب خدای سخن  
 بر او ستادِ سخن این لقب بس است صواب  
 انیس غوطه به بحرِ بیان زد و آورد  
 بازار لولو لالا برون و گویر ناب  
 زچوب طور قلم و زحریر قرطاسش  
 ز مشک ناب سیاپی زیست چنین آداب  
 روانی سخشن آب بُرد زآبِ روان  
 نهان به شعر معانی نهان چو بُوه گلاب  
 بیان قصه شبیر و کربلا کرد است  
 انیس عاقبت اندیش درجهار کتاب  
 چه شد به زر ننوشتم اگر کلام انیس  
 نوشته ام چویه اوراقِ دل به شکلِ کتاب  
 چه ممکن است که زاید دگر چو میرانیس  
 زیطن مادرِ ایام تابه یوم حساب  
 بعمر خود ننوشت است غیرِ چند غزل  
 هم آن که گس ننوشت سنت آنچنان به شباب  
 زیست و فای اهل جهان به آل عبا  
 کشیده داشت ز شرم و حبا به چهره نقاب

انیس دید بزیر نقاب جنگ حسین  
 بچشم معرفت خوش نی بهحال خواب  
 کشیده عکسِ مصافِ حسین در الفاظ  
 که برکه خواند به تصدیق می شدی بیتاب  
 سروده است نظامی به نظم و فردوسی  
 مگر از سکندر و دارا و رستم و سهراب  
 انیس آن صفت دوگانه راسه ضرب دهد  
 دلیل باید از این کلام او در یاب  
 به پنچگانه صفات پگانگی موصوف،  
 به پفت و پشت و شش آراسته چهار کتاب  
 به نه فلك چو کلامش رسید ابل فلك  
 برقص آمده گفتند مرحبا به جواب  
 حسین خواست مگر خود انیس را که کند  
 بیان و شرح مهمات کریلا به کتاب  
 نماند و گرنه سراید کلام خوش انیس  
 کرد که در چه شد بنوز چو گویاست از زیان کتاب  
 سالیان دراز است که قسمت هایی از این «عطاء الله عطا»

مبارک شیری در مدارس و دانشگاهها تعلیم و تدریس می کند و کیل ذیره اسماعیل خان

\* \* \* \*

مشنوی صفتی که به مانگ توحید و نفعه آسمانی و سهیل ارواح  
 توصیف شده است، حاری دلیلترین انکار عرفانی و مشتمل بر خلاصه آراء  
 عارفان و حکیمان اسلام و مخدمن عقاید فرق و طوایف بسیار از مسلم و  
 غیر مسلم است. کمتر کتابی در عصر فارسی وجود دارد که این خلاصه احتوای



دکتر قاسم صافی ب لایحه حمل شائع روزانه برای این همیشگان تکلیف این مسایل می‌پرسید،  
شیوه و مالیاتیه که اینها را در این میانه می‌گذارند و آنچه از این میانه نیز  
هر دست از کسانی است که این روزگار را با خود برآورده باشند و آنچه این میانه از آنها  
و آنها نفع است، این تأثیر است که این تجذیب و تسبیح است که از این میانه خدکش تریسه  
پاکیت است، اینها را نیز از اینها برداشتند و اینها را نیز از اینها برداشتند  
و نوشته های متغیره و متناسبه ای از اینها را نیز از اینها برداشتند و اینها را  
بتدا هنر و فن و اینها را نیز از اینها برداشتند و اینها را نیز از اینها برداشتند  
به این حال دیگر میتوان و تعلیم این کارهای به نظر راقم کتاب، آسان

## در پیرامون کتاب سرّنی (۱)

و ملیّتی که می‌تواند این را در این میانه و اینها را در این میانه  
قابلیت ایجاد کند و اینها را در این میانه و اینها را در این میانه  
مشکل و مشکل اینها بشهو این (۲) نیز چون حکایت می‌کند  
و ملکتیه بدل و بدل اینها از (۳) جدایی ها شکایت می‌کند  
مدت های مديدة است که آوازه کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بن محمد بخشی  
رومی، آویزه گوش روزگار گشته و قرن هاست که آدمیان ازین دریای پرگوهر  
تلذذ کرده، درس حیات و زندگی آموخته و می آموزند.

سالیان دراز است که قسمت هایی از این خزینه اسرار الهی و گنجینه  
معارف بشری در مدارس و دانشگاهها، تعلیم و تدریس می شود و آدمیان  
بسیاری از برکت گنجینه پریار آن متحول گردیده، روحیه جهد و ایثار و مبارزه  
و تقدیم یافته اند و غونه ای از انسان کامل و سرآمد روزگار گشته اند.

مثنوی معنوی که به بانگ توجید و نفمه آسمانی و صیقل ارواح  
توصیف شده است، حاوی دقیقتین افکار عرفانی و مشتمل بر خلاصه آراء  
عارفان و حکیمان اسلام و متضمن عقاید فرق و طوایف بسیار از مسلم و  
غیرمسلم است. کمتر کتابی در متون فارسی وجود دارد که از لحاظ احتوای

بر ابعاد مختلف معارف اسلامی مثل مثنوی باشد. این کتاب شریف، صرف نظر از جنبه عرفانی . مباحث کلامی، فقهی و موضوعات مربوط به رجال، حدیث، قرآن، قصص و همه آنچه را که هر کدام یک بعد از فرهنگ اسلامی است به صورت شاخص مطرح کرده است و بزرگترین خدمات را در توسعه دیدگاه اندیشنده و کشانیدن آنها به اعماق مطالب و اصول انسانی و ایجاد استقلال در اندیشه و هیجان روحی انسانی، ایفا کرده است و معرفت به خویشتن و هستی و خالق را در زیبا ترین و عمیق ترین وجه، مطرح ساخته است.

به قول استاد زرین کوب، مولوی در مثنوی نه ترک شریعت و تسلیم به طامات صوفیه را می طلبید و نه گرایش به فقر و عزلت و رهبانیت را تبلیغ می کند. مرد کامل کسی را می داند که جامع صورت و معنا باشد، بلکه وجود زن و فرزند را نیز حجاب راه نمی شناسد، و درست مثل یک متکلم، امایه کمک قیاسات تئیلی و تشیبهات شاعرانه در تأیید و اثبات عقاید و مبانی قرآن و اهل شریعت اهتمام می ورزد و قضایایی مانند حقیقت توحید ، واقعیت روح ، کیفیت حشر و نشر و حدود جبر و اختیار را موافق مذاق اهل شریعت تبیین می کند. با این همه لب و مغز شریعت را عبارت از عشق می داند. عشقی که به قول مولوی و به نقل استاد فروزانفر، اسطر لاب اسرار خداست. عشقی که فلك را سقف بشکافد، زمین را از گزاف بلرزاورد، کوه را مانند بید بلرزاورد، افلک را مانند ریگ بساید، دریارا مانند دیگ به جوش آورد، آفتاب را دریگی ذره نهان بیند و چون آن ذره دهان بگشاید و از کمین بجهد افلک و زمین را ذره گرداند.

دریای معانی مولوی برای دانایان بزرگی نظیر علامه محمد اقبال، چراغ راه احرار است و نماینده اسرار حیات و ممات، زیرا که نور قرآن در سینه این کتاب می تابد. زیبا ترین توصیف مولانا را در "جاوید نامه" توان یافت که اقبال یک غزل مشهور مولوی را ترجم کرده است.

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر  
کزدیو و دد ملوم و انسانم آرزوست  
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت  
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست  
گفتند یافت می نشود جسته ایم ما  
گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست

به هر حال دنیای مثنوی و تعلیم نی نامه به نظر راقم کتاب، انسان را به علم بخشی، که تقيید در چهار چوبه تفکر اهل مدرسه آن را الزام می کند، محدود نمی دارد. شريعت را هم مستند تسلیم به خوف و خشیت و محنت و ابتلاءی که نفی حیات جسمانی لازمه آنست نمی یابد، بلکه زندگی را جاده دراز آهنگ شاد مانه ای می کند که انسان در سراسر آن نفعه می خواند و عشق می ورزد. و به مثل، درخت سحر آمیزی را می ماند که هر کس از میوه آن خورد، به قول مولانا، نه شود او پیر و نه هر گز میرد.

آتش است این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

شرح و تفسیر هایی که بر مثنوی مولانا جلال الدین نوشته شده، غالباً بر حسب مشرب و سلیقه شارح، ناظر به یک جهت از جمله جهات ادبی یا فلسفی مثنوی بوده است و با توجه به عظمت و جامعیت مثنوی در حوزه بسیار گسترده ای از معارف اسلامی و ایرانی، هیچکدام از شروع، مبین کامل گسترش وسعت حوزه فرهنگی و فکری مثنوی نیست.

کتاب سُرّنی تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب که به عنوان کتاب برگزیده سال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران انتخاب شده است نخستین کتابی است که مثنوی به صورت موضوعی در آن بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و خواننده بانگرسی برآن، بر حسب استعداد خود، بر

مثنوی و مباحث متتنوع آن آگاهی و احاطه می‌یابد و زمینه‌ای برای ورود درمن مثنوی و استفاده از آن را کسب می‌کند.

کتاب سُرنی، شرح مثنوی در مفهوم عادی و بر مبنای توالی ابیات متن نیست، بلکه بخشی در مثنوی است با سعی در فهم آنچه لطایف و رموز آن محسوب است. به اضافه آن که مؤلف ضمن تقسیم و طبقه‌بندی مباحث مثنوی، اهتمام کرده است، تا آنچه را در آن کتاب از باب لفظ یا معنی، حاجت به شرح و تفسیر دارد، در ضمن آنچه طی نقد و بحث مطرح است به اجمال تقریر کند. و از آنجا که بسیاری معانی هست که در مثنوی مکرر مورد بحث و اشارت واقع شده است نویسنده گونه‌ای به شرح و تقریر پرداخته که از تکرار برخی مباحث بی نیاز، صرفنظر کرده باشد و به ترتیبی کتاب را فراهم سازد که مجموعه اقوال گوینده بیش و کم در یکجا مورد بحث و نقد واقع گردد و اندیشه و افکار گوینده، بهتر در رشته نظم و ضابطه علمی در آید.

این کتاب که به صورتی دقیق و علمی بخش بندی و بند‌ها و پاراگراف‌های آن نشانه گذاری شده است با بیان کلیاتی درباره مولانا و انگیزه‌های پدید آمدن مثنوی آغاز می‌شود. و هر چند در زمینه مولوی و مثنوی، تحقیقات بسیار زیاد انجام گرفته و کتابها و رساله‌های بسیار تصنیف شده است معهذا مطالبی که در این قسمت مورد بحث قرار گرفته، تازه و حاوی نکات عمیق و استنباطات روشنگرانه درباره مولوی و مثنوی اوست.

مؤلف دانشمند کتاب به دنبال مباحث مقدماتی، وارد درمسائل و مباحث گونا گون مثنوی می‌شود و همه مطالب را با نظم و تسلیل دقیق و منطقی به دنبال هم می‌آورد، بطوری که هر یک از بخش‌های کتاب، در موضوعات خاص خود به تنها بی جامع و شامل کلیه مباحث مربوط به

زمینه مطرح شده می باشد.

مباحث موضوعی، کتاب را به صورتی درآورده که نه تنها برای علاقمندان مثنوی سود مند است بلکه برای همه کسانی که در زمینه های مختلف عرفان و فرهنگ اسلامی به تبع می پردازند، می تواند مرجعی مفید و غنی باشد. بخصوص واژه نامه مفصلی که دربیان اصطلاحات عرفانی و ادبی و احیاناً فقهی و رجالی برای کتاب تدارک شده است، کتاب را برای متخصص و مبتدی با ارزش ساخته است.

در کتاب حاضر، حسن سلیقه و تخصص مؤلف در تقسیم بندی موضوعات مثنوی و بعث تحلیلی در باب آنها بسیار حائز اهمیت و توجه است. وسعت دامنه این تحقیقات به بررسی دقیق و عمیق علمی در عرفان تطبیقی و نقد و تحقیق مأخذ روایات و منابع افکار مولانا در قرآن و حدیث و زمینه های عرفانی و دینی و فلسفی مورد بررسی و تحقیق جامع قرار گرفته است و مطالب کتاب را در زمینه معارف اسلامی مستند به منابع مختلف قدیم و جدید به زیان های مختلف ساخته است که حاکی از تعمق نویسنده و تسلط وی بر مأخذ اسلامی و خارجی و دقت و اعتبار مطالب این کتاب است.

نویسنده، در شرح و نقد مباحث مثنوی، سعی کرده به غیر از آثار خود مولانا و باران و معاصر انش، مخصوصاً از آثار کسانی از متقدمان که به احتمال قوی مولانا با اقوال و افکار آنها آشنایی داشته است استشهاد کند و در برخی موارد به اقوال متألهان و عرفای متأخر ارجاع کند که پیوند اقوال و افکار مولانا را با اعصار تالی نیز نشان دهد.

این ارزش ها، کتاب سرّنی را به صورت مدخلی مهم برای شناخت مثنوی در آورده است، بطوری که هیچ طالب و علاقمند به مثنوی برای درک و شناخت صحیح آن بی نیاز از سرّنی نمی تواند باشد. سرّنی شرحی است با اسلوب گزاره نویسی نوین که تا کنون در شرح نگارش متون فارسی در ایران

رواج نداشته است به این جهت این شرح می‌تواند باب تازه‌ای بر روی گزاره نویسان متون فارسی بگشاید. نکات تازه‌ای که در سرنی مطرح شده است کم نیست و سوای نکات تازه، مؤلف محترم به جمیع اسناد و منابع پیش از خود توجه عمیق داشته و هر قلمی را که پیشنبیان آورده اند ارج گزارده که این خود از مزایای مسلم کارهای پژوهشی از جمله این کتاب تواند بود.

نکته شایان توجهی که در آماده سازی و تدوین این کتاب، ورای جهات و ارزش‌های علمی آن مورد توجه قرار گرفته است، فهرست‌های دقیق و سودمندی است که برای کتاب تهیه شده و بدینوسیله خواننده به سهولت و به سرعت می‌تواند مطالب مورد توجه خود را در میان مواد گوناگون کتاب باز یابد.

امیدوارم اساساً تهیه این گونه فهرست‌های لازم، مورد توجه مؤلفین قرار گیرد و در عین حال از تنظیم و افزودن فهرست‌های غیر ضروری که مایه افزایش حجم کتاب و قیمت آن خواهد شد اجتناب ورزند. و به هر حال برای هر مؤلف، این نکته باید بسیار مورد توجه باشد که هر کتاب در چه مواضعی مورد مراجعه است و فهرست راهنمای کتاب باید تأمین کننده همان مواضع باشد.

\* \* \* \*

## چاحد و منابع

۱- نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب (دو جلد در ۱۱۵۴ صفحه). تهران، انتشارات علمی، ۱۳۶۴. کتاب برگزید، سال ۱۳۶۵.

۲- هر این نسخه‌ای که مصنف آورده است.

دکتر ساجدالله تھیمی  
دانشگاه کراچی  
شیخ قطب الدین بوعلی قلندر پانی پتی زاده ۱۳۷۰  
جایزه علیاءت بیوٹ بھائیا و مولانا نواب خان ایڈیشنز  
جائزہ حضرت روزن فتحیہ نعمانیہ نوبنگہی میں  
جائزہ حضرت مولانا نبیلہ نعمانیہ نوبنگہی میں  
۳۔ سید بھری قلندر "۱۱) تساویہ تاریخی پڑھے ۱۰ آ

نیز طبق ایس افراد حالت حضرت علی (ع) استفاضہ کرد.

نیز شیخ شمس الدین بوعلی قلندر پانی پتی کا درس را  
تلریس را پذیرہ کریں اور اپنے تعلیم کا درس را پذیرہ کریں

## نقد بر (رساله حکمنامه)

منسوب به شیخ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی

رسیده و از روحانیت شیخ شمس الدین تحریری (۱۹۵۵م) و مولانا جلال

پالی، (۱۹۷۲م) مبنیۃ کتابیہ بیرونیہ میں مذکور ہے کہ شیخ شمس الدین بوعلی قلندر

رسالة "حکمنامہ" کہ در اینجا مورد بحث و انتقاد قرار می گیرد،

مختصری است منسوب به یکی از مشايخ معروف شبه قارہ پاکستان و هند

حضرت شیخ شرف الدین ابو علی قلندر پانی پتی. این رسالہ در زمرة

معتقدان شیخ بزرگوار متداول بوده است و مریدان او آن را تبرکاً و تیمناً و

به غرض حصول مرادات دنیوی و آخری بطور ورد می خواند و به عنوان

حرز با خود نگاہ می داشته اند.

"حکمنامہ" ظاهر از لحاظ موضوع محتوی برخی از احوال و وقایع

زندگانی شیخ ابو علی قلندر بزیان خود او می باشد و عده ای از تذکره

نویسان و مورخین ادوار بعدی مانند امین احمد رازی مؤلف "هفت اقلیم" و

ابوالفضل علامی مؤلف "آئین اکبری" و میر علی شیر قانع تنوی مؤلف

"تحفة الکرام" و غلام حسین خان طباطبائی مؤلف سیر المتأخرین" و بهادر

سنگ مؤلف یادگار بهادری" و دیگران در ضمن شرح احوال شیخ بزرگوار بر

محتویات این رسالہ استناد کرده اند.

دو دروان از این محتویات مذکور ہے کہ ایک اتفاقیہ بخصوص

۱۲۷

ولی شیخ عبدالحق محدث دهلوی مؤلف "اخبار الاخبار" این رساله را مجعلول قرار داده است چنانچه می نویسد: -  
رساله دیگر در علوم الناس شهرت دارد که آن را حکمت‌نامه شیخ شرف الدین می گویند. ظاهر آنست که این رساله برای ملاحظه خوانندگان محترم بیان می کنیم" آن از مختصرات عوام است (۱) " این کتاب تواند بود

اما پیش ازین که درباره اصلی یا جعلی بودن رساله حاضر بحث آغاز شود، ما برخی از احوال شیخ ابو علی قلندر را با نقل متن کامل این رساله برای ملاحظه خوانندگان محترم بیان می کنیم" این کتاب تواند به سهولت و برخی از احوال شیخ (۲)

شیخ شرف الدین ابرعلی قلندر پسر سالار فخرالدین (۳) در سال ۶۰۲ هجری در شهر پانی پت متولد شد.

او اوان کودکی را در مولد خود بسر برد و در محضر مولانا سراج الدین مکی قرآن مجید را حفظ نمود. سپس به دهلی رفته ظاهرآ در محضر استادان زیر تحصیلات متداوله را ادامه داد:  
۱-شیخ شهاب الدین

(خلیفه شیخ قطب الدین بختیار اوشی کاکی)

۲-مولانا نجم الدین دمشقی

(شاگرد امام فخرالدین رازی)

۳-مولانا رکن الدین سامانوی

او پس از پایان تحصیلات مدتی در مدرسه یک منارة دهلی بتدریس و افاده پرداخته و بروایتی در اثنای تدریس، مدت دوازده سال در مسجد قوه الاسلام دهلی به وعظ و تذکر هم مشغول بوده است.

لهم ما شیخ باشکی از مشایخ زیر ارادت رسمی داشت:

- ۱- شیخ قطب الدین بختیار اوشی کاکی
- ۲- سید خضر رومی قلندر
- ۳- سید بحری قلندر.

نیز بطريق اویسی از روحانیت حضرت علی (ع) استفاضه کرد.

شیخ در نتیجه تأثیرات و انفعالات روحانی و عرفانی کار وعظ و تدریس را بدروود گفته به سیاحت کشور های مختلف عرب و عجم پرداخت، و بروایتی در اثنای مسافت در خلال سالهای ۶۴۲ ه تا ۶۴۴ ه به قونیه رسیده و از روحانیت شیخ شمس الدین تبریزی (م ۶۴۵) و مولانا جلال الدین محمد رومی (م ۶۷۲) اکتساب فیض نموده است.

شیخ در حدود سالهای ۶۴۵ ه تا ۶۵۰ ه در عهد سلطان ناصرالدین محمود پادشاه دهلی (۶۴۴ ه - ۶۶۴ ه) به موطن خود برگشته و در پانی پت سکنی گرفته به کار ارشاد و تبلیغ دین و تصوف پرداخت و بروایتی این کار را تا مدت سی سال ادامه داد.

شیخ عثمان مرونی معروف به لعل شهباز قلندر سیوستانی (م ۶۷۲) و حضرت امیر خسرو دهلی (م ۷۲۵) و شیخ جلال الدین کبیر الاولیا پانی پتی (م ۷۶۵) و غیرهم صحبت شیخ را درک کرده، و از روحانیتش فیض ها برده، به ویژه شیخ جلال الدین کبیر الاولیا، دراوان کودکی زیر تربیت شیخ بزرگوار بوده است.

از پادشاهان معاصر سلطان غیاث الدین بیلن و سلطان جلال الدین فیروز شاه خلجی و سلطان علاء الدین محمد شاه خلجی و سلطان غیاث الدین تغلق شاه و سلطان محمد بن تغلق شاه و سلطان فیروز شاه تغلق هر دو دراوان شاهزادگی با حضرت شیخ ملاقات نموده اند.

شیخ او اخر زندگانی خود را در بوده کهیره (در مضافات کرنال فعلاً در هند) بسر برده همانجا در سال ۷۲۴ هـ وفات یافت و در شهر کرنال مدفون گردید. بعداً اخلاف شیخ بزرگوار جسد او را از کرنال به پانی پت منتقل و در جایی که فعلاً قرار دارد، دفن گردند.

آثار منسوب به شیخ ابو علی قلندر بقرار زیر است:

- ۱- مکتوبات
- ۲- رسالت اسرار العاشقین
- ۳- رسالت سر العشق
- ۴- رسالت سلوک
- ۵- رسالت عشقیه
- ۶- رسالت حقایق کلمة طبیه (مجموع)
- ۷- رسالت حکمنامه (مورد بحث)
- ۸- دیوان
- ۹- مشنوبات
- ۱۰- ریاعیات

### رسالت حکمنامه

نسخه خطی رسالت "حکمنامه" که درین مقاله مورد استفاده قرار گرفته است متعلق به مولانا الیف الله عثمانی پانی پتی (سرگودها) می باشد. اطلاعات لازم درباره این نسخه بقرار زیر است:

خط:	شکسته
اوراق:	سه (۶ صفحه)
سال تألیف:	ندارد
تاریخ کتابت:	۱۹ شعبان ۱۲۳۶ هـ
نام کاتب:	شیخ محمد عرف غلام یسین پانی پتی
اینک متى رسالت "حکمنامه"	

## حکمنامه

ندان دن افسوس نداش و بخواهی مادر عزیز خانم شهزاده سر  
دید لعلی همچنان لعل لعلی همچنان لعلی همچنان لعلی همچنان  
دادم. این دریش در علم بعثت اخیراً که ملکیون آنهاستند و بهمیش لعلی هم  
روایت دینه بعده آنکه بسم الله الرحمن الرحيم ایه که ملکیون آنهاستند  
و همان اینچه توانیم این ایه را اینجا نمایش داده باشیم که فیض ایه که ملکیون آنهاستند  
خرانه "حکمنامه" من کلام بندگی حضرت شاه شرف الدین بو علی قلندر  
پانی پتی قدس الله سرہ العزیز آنکه

چون این درویش ضعیف الضعیف فقیرالحقیر شرف الدین بو علی  
قلندر پانی پتی از خطه پانی پت در شهر دهلی رفتم در مقام خواجه قطب  
الدین بختیار کاکی اوشی قدس الله سرہ العزیز در غاز گاه دوگانه بگزاردم  
و سر یسجده بُردم و از حضرت پروردگار التماس کردم که خداوندا برما از  
فضل خود در علم بگشای. حق سبحانه تعالیٰ مر این درویش را علم روزی  
گردانید و علمی حاصل شد که در کتاب مذکور نیست وهم از کتابها بیرون  
نه. آن روز عمر این درویش چهل سال بود. در میناره دهلی سکونت کردم و  
آنچه مطلوب بود از خدای تعالیٰ خواستم، براین درویش عطا شد.

و جمیع درویشان و دانشمندان جمع شده باین درویش گفتند که  
میان ما بزرگ تونی. مولانا وجیه الدین پایلی و مولانا ظهیر الدین بخاری  
و مولانا صدر الدین و شریعت الدین و مولانا فخر الدین ناقلی و مولانا  
شریعت الدین ترکی و مولانا معین الدین دولت آبادی و مولانا نجم الدین  
سرمقدنی و مولانا قطب الدین مکنی و مولانا احمد بخاری و علمایان دیگر  
رحمه الله علیهم والغفران، هر یک به اتفاق بر این درویش آمدند و اجازت  
فتوى کردند. از ایشان قبول کردم . بیست سال فتوی دادم و سبق گفتم.  
یعنی درس دادم علمی حاصل شده علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت،  
علم معرفت بر این درویش عطاشد.

و شوق الهی در دل این درویش درآمد. جمیع دانشمندان بر این درویش گفتند که بک ماه دیگر بانید. بسیار ناله کردند تا از هر کتاب و رساله سبق بگیریم. این درویش پا در راه داشت:

اول منزل در وزیرآباد کرانه آبِ جمن فروود آمد و شب آنجا گذاردم. چون روز شد هر کتابی و رساله توحیدی که برین درویش بود، حمله در آب روان انداختم. دو هرمه:

پندهٔ لکه‌ها پانج کر پرتهٔ مامی توڑ  
سکری الخبیر میت کر من میں سائین لوز

ترک کتاب و فتوی گرفتم و مشغول بزهد و طاعت شدم.

چهاردهم ماهِ محرم بود که در حد پانی پت درآمد پانصد و هزار نفر که همراه بودند گردانیدم. بعدازان در خطهٔ پانی پت نزول خود کردم. مفتی و حاکم و هفت درویش حافظان باین درویش ملاقات کردند.

بیستم ماهِ محرم بود. وقتِ صبح روزِ جمعهٔ تکبیر گریان بانگ نماز دادند و صلوات‌ها گفتند. مولانا سراج الدین رکوعی باین درویش فرمود که صبح وقتِ سنت است. گفتم: تکبیر بگویند تا فرض اداکنم. چو گزارند جمیع درویشان و دانشمندان باین درویش رُخ آورند، گفتند که ای مخدوم! سخنی دارم که گفتن نتوانم. شما سنت صلوة الفجر چرانگردید؟ این درویش گفت که فرمان خواجه کائنات سرورِ موجودات رحمتِ عالمیان و صفاتِ آدمیان و تسمه دور زمان احمد مجتبیِ محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و آله و سلم براین درویش همچنین است که "ای شرف! سنت خود بتوبخشیدم. بعد از آن چهل سال نماز فریضه گزاردم که فرمان حضرت ذوالجلال برین درویش رسید که ای درویشا تواز آن مایی و من از آن تو، فریضهٔ خود بتوبخشیدم. درحال سر بر زمین نهادم و شکرانهٔ خدای تعالیٰ بجای آوردم.

جمعیع درویشان و دانشمندان براین درویش آمدند. چنانچه میر سید علی مفتی و امثال دیگر رحمة الله عليه. این همه کسان را جواب دادم. این درویش در علم چنان بود که هیچ دانشمندی را پیش این درویش جای دم زدن نبود. آنگاه گفتم که در زیر خرقه شاه ام و عارف ربائی گشته و زاهد حضرت عزت ام و نبیره امام اعظم ابوحنیفه کوفی ام. هزار تنکه از خزانه بیت المال کشیده در راه خدای تعالی صدقه داده ام (نا خوا نا) داخل بودند. چیزی دیگر خواهد شد. و اگر نه از پیرامون ما باز آید. آنگاه ایشان باز آمدند.

بعد، این درویش را شوق الهی زیاد شد. مریدان می گرفتم. بعضی مریدان این درویش سلاطین و خوانین بودند. چنانچه سلطان جلال الدین و سلطان علاء الدین و خضر خان و آصف خان و سیف خان. هر کس که براین درویش می آمدند بمراد خود می رسیدند. و بعضی مریدان این درویش در تور گرم غاز می گزاردند و بعضی مریدان برآب روان مصلی می انداختند، و به آب ترنی شد (ناخوانا) پادشاهان و تاجداران در آستانه این درویش آمد، آستان بوسی می کردند. از کسی دانگی و درمی قبول نمی کردم که هرا خزانه الهی موجود بود. بهر که می خواستم می دادم، و نصیب خود می بردنده، و این خزانه برابر خود می داشتم:

و در عالم طیر بودم. وقتی در مکه، وقتی در مدینة رسول عليه السلام، وقتی در پانی پت می بودم. و چند اسپان می داشتم برای کار مصالح وقتی سوار شده می رفتم. وقتی از وقتها در جنگل و بیابان بودم. در خلوت غازِ دوگانه می گزاردم. اگر از گنجشک می شنیدم غاز گزاردن می توانستم که مستی برمی گشتی.

شب جمعه بیست(و) هفتم ماه رمضان بود که شوق الهی در دل این درویش درآمد. گفتم: ای مولانا سراج الدین رکوعی گفت: کرا بیارم؟ این

درویش گفت که پسر ابراهیم زکریا نام دارد و در خانه او طرفِ روضه شهید شهیدی است. فی الحال بیار.

مولانا سراج الدین رکوعی رفت و آن پسررا بیاورد. این درویش آن پسر را گفت که ای گستاخ! در مقام دیگران غزل می خوانی ، اینجا چرانی خوانی؟ بعده باو گفته شد: بیا تا چه داری؟ ، آن پسر چهارده ساله بود. این ابیات بخواند:

### غزل

ساریان با اشتaran هم سر پسر اقطار مست  
میر مست و خواجه مست و یار مست ، اغیار مست  
آسمان تا چند گردی؟ گردش این دو بین  
خاک مست و باد مست و آب مست و نار مست  
حال صورت همچنان است حال معنی همچنین  
عقل مست و فهم مست و روح مست اسرار مست  
ساقیا باده بگردان ، چند باشی عربده؟  
مؤمنان از نور مست و کافران از نار مست  
خوش بدیدم صوفیان را صحبتِ خوارِ مست  
عاشقان در صدق مانده و عده دیدار مست (۴)

بعد گفتم: ای پسر در هرچه (ناخوانا) رابکو، چیزی یاد داری؟  
آن پسر آغاز کرد:

### غزل

با صورت آدم نبرد سجده عزازیل  
زان مدّعی آرد بتودر سجده ها قیل

عرش است در آن منظرو ایوان که تو باشی  
 انوارِ رخت بر در و دیوار چو قندیل  
 از یک نظری آدم و عالم دگر آری  
 کافی برای است مرده کند زنده بدم عیسیٰ حرقیل  
 رخسارِ تو آئینه لوح ملکوت است  
 خط چو ملایک زده در جامه خود نیل  
 زان پک خط سبزی که بروی تو نوشتند  
 مجموعه در و پنج کتابست بتفصیل  
 عارف که در و دید زهر پیچ برآمد  
 در کوی ملامت سپرد راه بتطویل  
 سبزی خطت قوتِ ارواح قلندر  
 چون داشته وحی که بودست جبرئیل  
 اسرارِ رخ پاک تو در وهم نیاید  
 کی مطلع آید عجمی ز آیتِ الحبیل  
 مرغانِ بهشتی که در جان شهید است  
 سبز است چنین گفته پیغمبر باقاویل  
 اندر خطِ سبز تو شهیدانِ محبت  
 جانها همه سر بسته حقیقت نه بتاویل  
 ما را سفر قبله ابروی تو در پیش  
 یاران زهجاً زنده سپرده بسر اندیل  
 در روی تو دیده شرف اسرارِ عجائب  
 کزوی نتوان کرد حکایات به تمثیل  
 هان بوعلی از مدعايان هیچ نرنجی  
 با صورتِ آدم نبرد سجده عزازیل (۵)

\* \* \* \*

چون آن پسر این غزل را از ابتدا تا انتها قام کرد نزدیک خود طلبیده دست برپشت او فرود آوردم و گفت: ای فرزند! تو از آن مائی و از پشت تو انبوه پسران و فرزندان خواهد شد و خیل خانه تو بزرگ خواهد شد.

بعد ازین این درویش مولانا سراج الدین رکوعی را گفت که جبهه و دستار را بیار تامن برین پسر عطا کنم. و آن پسر در حضرت صمدیت مقبول شد. هر که این "حکمنامه" را بخواند یا برخود دارد هرگز فقیر نشود، و در نظر سلاطین و امرا و ملوک عزیز باشد و سُرخ رو گردد، و هیج دشمنی بر او ظفر نیابد. و جمله حاجات او بر آورده گردد. و بسیار کس از برکت این حکمنامه، بدولت رسیده اند. هر که این حکمنامه را دوست ندارد خدای تعالی و رسول الله صلعم ازو خشنود نباشد، و آمرزیده نگردد. و اگر کسی را مهمی سخت درپیش آمده باشد و بهیج نوع برگی آید، به نیت این حکمنامه درویش یک من اخنی و همینقدر جفرات و همین قدر میده گندم را تان تنک پزیده به مستحقان و غربایان و مسکینان بخوراند. حق سجانه به کرم خود حاجت او بر آورده گرداند. و اگر حاجت او برآورده نشود فردای قیامت چنگل او بد امن این درویش باشد.

این حکمنامه مقدس مکرم حضرت قطب الاقطاب  
شاه شرف الدین بوعلی قلندر عالم پناه (بدست) اکاتب  
العاصی پر معاصی بندۀ ایزدی شیخ محمد عرف غلام  
یسین پانی پتی تبرکاً و تیعنًا برای خود بتاریخ نوزدهم  
شهر شعبان المعلم سنه ۱۲۳۶ هجری نوشته شد.

(مهر)

\*\*\*\*\*

این بود متن رساله "حکمنامه" منسوب به شیخ ابوعلی قلندر پانی پتی. اکنون مابه بحث مختصری راجع به اصلی یا جعلی بودن این رساله می‌پردازیم و درین خصوص مقدمه باید بگوییم که رساله حاضر مواد کافی برای استدلال و استشهاد در حق رأی مؤلف "اخبار الاخبار" که قبل اذکورشد، دربرمی دارد و نظر به بعضی شواهد داخلی زیر بالآخره می‌توان بدین نتیجه رسید که رساله "حکمنامه" اصلاً تألیف شیخ ابوعلی قلندر نیست و بقول شیخ عبدالحق محمدث دهلوی "از مخترعات عوام است".

۱- بنا بر سطور ابتدای رساله "حکمنامه" شیخ ابوعلی قلندر در سن چهل سالگی به دهلوی رسیده و مدت بیست سال در مدرسه یک منارة دهلوی به تدریس و افتخار اشتغال داشته است.

چون تولد شیخ در سال ۶۰۲ ه اتفاق افتاده بود لهذا بنا به بیان فوق و رود او در دهلوی در سال ۶۴۲ ه، و دوره بیست ساله اشتغال او به تدریس و افتخار در خلال سالهای ۶۴۲ ه تا ۶۶۲ ه میشود معین کرد. ولی این امر بنابر دو نکته زیر قرین به صواب نیست:  
اولاً- چنانکه قبل از آن اشاره شد- شیخ ابوعلی "قلندر در دوران

جهانگردی در سال ۶۴۲ ه به قونینه رسیده بود،

ثانیاً- شیخ ابوعلی قلندر، شیخ جلال الدین کبیر الاولیا (۶) را که در سال ۶۳۵ ه در پانی پت متولد شده و همانجا پرورش یافته و به سن پانزده سالگی یعنی در ۶۵۰ ه به غرض مسافرت طولانی ترک وطن گفته بود، در اوان کودکی به سرپرستی خود تربیت کرده است، و این امر مستلزم آنست که شیخ بزرگوار حتماً مدتها پیش از سال ۶۵۰ ه از مسافرت برگشته و به پانی پت اقامت داشته باشد والا قرینه زمانی و مکانی برای آموزش و پرورش

جلال الدین به سپرستی شیخ ابوعلی قلندر مستبعد می شاید. نظر به این دو نکته قرین به امکان نیست که شیخ ابو علی قلندر میان سالهای ۶۴۲ ه تا ۶۶۲ ه در دهلی به تدریس و افتاد اشتغال داشته باشد.

۲- مؤلف در رسالت "حکمت‌نامه" در ضمن اجازت افتاده تفریز درویشان و دانشمندان معاصر را نام برد است: متاسفانه احوال زندگانی بیشتری از آنان بجز چهار تفریز بر بدست نرسیده:  
 ۱- مولانا فخر الدین ناقله: او در عهد سلطان غیاث الدین بلبن (۶۶۴ ه- ۶۸۶ ه) و سلطان علاء الدین محمد شاه خلجنی (۶۹۵ ه- ۷۱۵ ه) در دهلی به تدریس مشغول بوده است (۷).

چون زمان تدریس و افتادی ابوعلی قلندر، چنان‌که قبل از گفته شد، میان سالهای ۶۳۰ ه تا ۶۴۱ ه بوده است، گمان غالب می‌رود که آن دوره دوره درس و اکتساب علمی مولانا فخر الدین بوده باشد. و اگر فرض هم کنیم که او کار تدریس را در دوره مزبوره آغاز کرده بود، باز هم عاده احتمال کمی دارد که او در آغاز کار اینقدر فضیلت علمی و سمت اجازه افتاد را بدست آورده که شیخ ابو علی قلندر را اجازه افتاده باشد.

ب- مولانا وجیه الدین پایلی: او در زمان سلطنت سلطان جلال الدین فیروز شاه خلجنی (۶۸۹ ه- ۶۹۵ ه) و سلطان علاء الدین محمد شاه خلجنی (۶۹۵ ه- ۷۱۵ ه) بکار تدریس مشغول بوده و در اوآخر زندگانی خود به حلقة ارادت شیخ نظام الدین اولیا بدایونی دهلوی (م ۷۲۵ ه) وارد شده و در

خلال ۷۱۵ هـ تا ۷۱۹ هـ در دهلی درگذشته است<sup>(۸)</sup>.  
چون دوره تدریس و افتادی شیخ ابوعلی قلندر تقریباً چهل و  
هشت سال پیش از عهد سلطان جلال الدین فیروز شاه خلجی  
بیایان رسیده بوده بنا براین روایت دادن اجازه افتاد از مولانا  
وجیه الدین پاییلی به شیخ ابوعلی قلندر ظاهرًا مستبعد الوقوع  
می‌نماید.

ج- مولانا معین الدین دولت آبادی<sup>(۹)</sup>: او معاصر سلطان محمد  
بن تغلق شاه (۷۲۵ هـ- ۷۵۲ هـ) بود و سلطان مذکور پس از  
وفات شیخ ابوعلی قلندر (م ۷۲۴ هـ) بر تخت سلطنت دهلی  
متحکم شد. لذا هیچ قرینهای وجود ندارد که مولانا شیخ  
ابوعلی قلندر را اجازه افتاده باشد.

نیز از نسبت مولانا به "دولت آباد" متحقق می‌گردد که بیان  
موردنظر اصلاً از شیخ ابوعلی قلندر نیست. زیرا که واقعه  
انتقال پایتخت از دهلی به "دیوگیر" و موسوم ساختن "دیوگیر"  
با اسم تازه "دولت آباد" پس از وفات شیخ ابوعلی قلندر  
(م ۷۲۴ هـ) اوایل عهد سلطان محمد بن تغلق  
شاه (۷۲۵ هـ- ۷۵۲ هـ) رُخ داده بود.

د- مولانا نجم الدین سمرقندی: او معاصر سلطان فیروز شاه تغلق  
(۷۹۰ هـ- ۷۵۲ هـ) بود و هیچ احتمالی ندارد که شیخ  
بزرگوار از او استفاده کرده و اجازه افتاده گرفته باشد.  
از شواهد فوق به اثبات می‌رسد که روایت اجازه افتاد گرفتن  
شیخ ابوعلی قلندر از معاصرین نامبرده از لحاظ تاریخی  
درست نیست.

۳- بعضی از بیانات "حکمنامه": جنبه کفر و الحاد می‌دارد  
مانند بیان زیر: "این درویش گفت که فرمان خواجه کائنات سرور موجودات

رحمت عالیان و صفات آدمیان و تتمه دور زمان احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بر این درویش همچنین است که ای شرف! سنت خود بتو بخشمیدم. بعداز آن چهل سال نماز فریضه گزاردم که فرمان حضرت ذوالجلال برین درویش رسید که ای درویش! تواز آن مایی و من از آن تو، فریضه خود بتو بخشمیدم. در حال سفر بر زمین نهادم و شکرانه خدای تعالی بجا آوردم (۱۲)."

که انتساب آن به شیخ بزرگوار بدلا بدل زیر مورد تردید است:

یکی اینکه نماز در شریعت اسلامی پس از ایمان مهمترین و مؤکدترین فرایض دینی است و در باره اهمیت و تأکید به قیام آن آیات قرآنی و احادیث نبوی فراوان وجود دارد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم برای تارک نماز بسیار زجر و تو بیخ فرموده است، مثلاً می فرماید: الصلة عباداللہ فمن اقامها فقد اقام الدین و من تركها فقد هدم الدين. نیز فرمود: بين العبد والکفر ترك الصلة. لذا نماز بالاجماع و بدون استثنای برهمة مسلمانان مکلف واجب است و هیچ کسی از برگزیده ترین بندگان خدای متعال حتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم از ادائی آن مستثنی نیست. اگر کسی عقیده در استثنای داشته باشد، البته در معرض خطر کفر والحاد و زندقه قرار می گیرد.

دوم اینکه از واقعه معروف قص شوارب شیخ ابو علی قلندر بدست مولانا ضباء الدین سنامی (۱۳) مشهود می گردد که شیخ تاچه اندازه جوش شریعت را در دل خود می داشت. و ادعای استثنای در امری مشروع از چنین شخصی محال می نماید.

دیگر درین ضمن این نکته هم باید مورد توجه باشد که چطور ممکن است که مولانا ضباء الدین سنامی که در امور شرعی و دینی ابرام و پافشاری فوق العاده را از خود نشان می داد--- چنانچه او از شیخ

نظام الدین اولیاء بدایونی درباره مساع احتساب می نمود و در تراشیدن  
موی شوارب شیخ ابو علی قلندر متجاوز حد شرعی اهتمام ورزید— از  
ترک مهمترین فریضه دینی چشم پوشیده و از شیخ درین ضمن احتساب  
نکرده باشد.

لهم اینکه شیخ ابو علی قلندر در مکتوبات خود همیشه برای  
اتباع سنت و پیروی احکام شریعت تلقین می نماید و شریعت را بگانه وسیله  
و اساس طریقت قرار می دهد چنانکه از اقتباسات زیر هویدا است:

تعریف ا---"ای برادر! نظر بر قدرت کن و شکر این نعمتها بجا آر،  
حق تعالی نعمت را بدان. عاشق (=خدای تعالی) از  
عشق ترا پیدا کرد، و از عشق تو از برای تو این نعمتها  
آفرید، و دانش ایشان ترا داد، و بر تو گفت که در  
امر من باش، اگر فرمان بجا نیاری و بقولِ معشوق (=  
حضرت رسول اکرم) نروی بی فرمان و کافر نعمت باشی،  
داخل محبان نیارند...ای برادر! در آن کوش که داخل  
محبان باشی، و فرمان بجا آری که معشوق بر تو  
رسانید(۱۴)".

ب---"ایمان آنست که عاشق را بدانی، بر فرمان عاشق و بر  
سنت معشوق مانی(۱۵)"...

ج---"ای برادر! ترا برای آن پیدا کرده اند که تابشناصی عاشق  
را، و بدانی معشوق را ، و پیدا آری در خود عشق،  
بینی حسن را، بجای آری فرمان را که معشوق بر تو  
رسانیده و برآن کار کنی، شریعت و طریقت را فهم کنی ،  
خود را در مرتبه حقیقت رسانی(۱۶)"

د---"ای برادر! تو برآن کوش که سنت و فرایض را بر پای  
داری، و اوقات از دست نگذاری ... و نماز با جماعت

رخندست آنها نهان و بگزاری، حلال را حلال دانی و حرام را حرام خوانی و گرد  
من اطیب‌ترین حرام نگردی، و از کرده‌های خود توبه کنی و باز گرد آن  
کناه نگردی (۱۷)."

فرمان---" ای برادر! بین مسلمان چونه بودند و چه کرده‌اند. ترا  
ایشان مقتدا‌اند. فرمان خدا و احادیث پیغمبر میان شما  
گذاشته‌اند، هم برآن کار کن تا ترا مسلمان  
گویند (۱۸)"

و---" ای برادر! غاز و روزه و احکام عاشق هوشیار را شریعت  
می فرماید، و عاقل از خوفِ دوزخ و آرزوی بهشت نماز و  
روزه و احکام را بپای می دارد، فرض عاشق و سنت  
معشوق را بجا می آرد (۱۹)"

ز---" ای برادر! برآن کوش و آن کن که معشوق کرد و فرمود.  
و اگر برآن کار خواهی کرد و برآن خواهی ماند و برآن  
فنا خواهی شد ترا خواهند داشت برابر معشوق و خواهی  
بود با عاشق. ای برادر! اوقات راضایع نگذار، و فرایض  
عاشق و سنت معشوق بجا آر تانشی دردو جهان خوار  
(۲۰)."

ح---" برادرم اختیار الدین بداند و کوشش بر آن کند که نفس  
خود را پاک کند. چون بر شریعت بودن و برآن کار کردن  
مستقیم ماند، هوای نفس بر وی زور نیارد. چندان مدخل  
شیطان بروی نباشد، و آن راصالح و متقد گویند ای  
برادر! چون از تقوی و عبادت قالب خود را پاک کرده  
باشی از شریعت پاک و صاف شود در آئینه شریعت  
طريقت روی نماید. چون طريقت را در آئینه شریعت بیند  
ظاهر خور را بر شریعت دارد (۲۱)"

" ای براذر ابر آن کوش که در حصارِ شرع درآیی و درونِ  
حصارِ شرع حسن طریقت بینی، و از عشقِ حسن طریقت  
با حقیقت بینی. آنگاه عاشق را با معشوق بینی (۲۲)"

" اگر خدای را شناختی و پیغامبر را دانستی و فرمان  
بجا آورده با محمد باشی میان دوستان، و اگر بر آن  
کار نکنی پس باشی میان بی فرمانان (۲۳)"

" برا درم اختیارالدین بداند که تنہ شریعت دردست گیرد،  
زیرا که تنہ شریعت کالبد است. چون کالبد را از شریعت  
پاک کنی ظاهر را آراسته باشی. و تن را راست کرده باشی  
از شرع... چون شریعت استقامت یا بد گل طریقت در دل  
تو بشکند، و بوی آن معطر گرداند تنہ شریعت را. چون  
بوی طریقت را شرع بداند و در خود بشناسد باز حقیقت  
ازین شریعت پیدا آید و روح را از نفس جدا بنماید. چون  
از حقیقت نفس ترا ظاهر غاید شناخت من عرف نفسه  
فقد عرف ریه در آئینه دل بنماید. (۲۴)"

اقتباسات مزبوره از دلایل محکمی است برای صحتِ  
اعتقاد شیخ ابوعلی قلندر و ناینده عمدۀ ایست مقایلاتِ  
دینی و شرعی آن بزرگوار را، و با داشتن این نوع نظراتِ  
سالم و معتقدات مسلم، برای او از مهمترین اصل و  
واجب دینی استثنا جُست و این نوع مزخرفات را به او  
انتساب کردن گویا جمع بین الصدین باشد که امری  
محال است.:

" قسمت آخر "حکمنامه" که در زیر تلخیص می شود،  
متضمن مختصات و تأثیرات این رساله می باشد:  
" هر که این حکمنامه را بخواند، یا بر خود دارد، هر گز

فقره، و فقیر نشود، و در نظر سلاطین و امرا و ملوك عزيز باشد و  
ستقره نمایند سرخرو گردد، و هبیج دشمنی بر و ظفر نیابد، و جمله  
حاجات او بر آورده گردد. و بسیار کسی از برکت این  
حکمنامه بدولت رسیده اند. هر که این حکمنامه را  
دوست تدارد خدای تعالی و رسول الله صلعم ازو خوشنود  
نیاشند واو آمرزیده نگردد. و اگر کسی را مهم سخت  
در پیش آمده باشد و به هبیج نوع برگنی آید (بد) نیت این  
ستقره حکمنامه درویش یک من اخنی و همینقدر جغرات و همین  
قدر میده گندم را نان تنک پزیده به مستحقان و غربایان و  
بام، ستقره رامسکیتان بخوراند. حق سبحانه تعالی بکرم خود حاجت  
او برآورده گرداند. و اگر حاجت او برآورده نشود فردای  
قیامت چنگل او بدامن این درویش باشد (۲۵).

از محتويات سطور بالا ظاهر می شود که این پاره جزو  
متن اصلی حکمنامه نیست و در آخر متون رساله اضافه شده است. نیز بیان  
فوق حاکی از آنست که حکمنامه گریا حکم ورد و حرز را می دارد و  
حالانکه در سراسر رساله چیزی به نگاه نمی خورد که جنبه حرز و ورد را  
داشته باشد.

علاوه بر نکته های مزبوره، در متون رساله حکمنامه موارد  
عديدة دیگر هم وجود دارد که بتوان آن ها را بطور دلایل محکم برای  
اثبات مجعل بودن این رساله ایراد کرد، ولی همین شواهدی چند که  
در تأیید رأی محقق محمد دهلوی که "ظاهر آنست که آن از مخترعات  
عوام است"، در اینجا آورديم، بحث راهم بدین نتيجه می رساند که رساله  
حکمنامه از تأليفات شیخ ابوعلی قلندر و اصلاً در خور استفاده و استناد  
نيست.

## یاد داشتها

۱- اخبار الاخبار تأليف شیخ عبدالحق محدث، چاپ دهلي ۱۳۳۲، ص ۱۲۹

۲- ما احوال زندگانی شیخ را با شرح و بسط در رساله دکتری یعنوان شرح احوال و آثار فارسی شیخ شرف الدین ابوعلی قلندر پانی پتی مورد بحث و بررسی انتقادی قرار داده ایم و اینجا فقط برخی از مطالب مفیده را برای خوانندگان محترم اجمالاً بیان می کنیم.

۳- غیر از شیخ فخر الدین عراقی همدانی، شاعر معروف فارسی که مرد و خلیفه شیخ بهاء الدین ذکریای ملتانی بود و در سال ۶۸۸ وفات یافت، دیوان غزلیات او معروف و متداول است.

بعضی از محققین و تذکره نویسان قدیم و جدید شیخ فخر الدین عراقی همدانی را پدر شیخ ابوعلی قلندر نگاشته اند که صریحاً اشتباه است. (برای تفصیل رجوع شود به رساله دکتری فوق، نسخه مашین شده

ص. ۱-۱۷)

۷- این ابیات باکم اختلاف از غزل معروف مولانا جلال الدین محمد رومی بطلع زیر است:

ساریانا اشتaran بین سرسر اقطار مست

میرمست و خواجه مست و یار مست اغیار مست

(رک کلیات دیوان شمس تبریزی، چاپ تهران ۱۳۴۱ش، ص ۱۸۶)

۵- دیوان حضرت شاه بو علی قلندر، نسخه خطی مملوکه مولوی البیف الله عثمانی سرگودها- برگ ۸ ب)

۶- شیخ جلال الدین محمد بن محمد معروف به کبیر الاولیا پانی پتی یکی از مشاهیر بزرگان صوفیه شبه قاره پاکستان و هند در قرن هفتم و هشتم هجری در حدود ۷۴۵ ه در شهر پانی پت متولد شد. او تحصیلات مقدماتی را در همان شهر زیر سرپرستی شیخ ابوعلی قلندر فرا گرفت. در خود سالگی در حدود ۷۵ ه، جهانگردی چهل ساله را آغاز نمود که

بر مراجعت او به پانی پت انجام گرفت.

چون شیخ شمس الدین ترک پانی پتی (یکی از مشاهیر صوفیه شبه قاره) در سال ۶۹، پیانی پت تشریف آورد، شیخ جلال الدین به اشارت شیخ ابوعلی نلندر به حلقه ارادت او وارد و بالآخره به احراز خرقه خلاقتش نایل شد، و پس از وفات مرشد در ۷۱۶، جانشین وی گردیده کار رشد و هدایت مردم را ادامه داد.

شیخ جلال الدین در سال ۷۶۵ در شهر پانی پت این جهان فانی را بدرود گفت و همانجا مدفنون گردید.

رجوع شود به (۱) سیر الاقطاب تألیف الله دیا چشتی عثمانی، چاپ لکنیز ۱۹۱۲ م، ص ۱۹۷ (۲) سنوی الاتقیا تألیف بدربالدین سرهندی، نسخه خطی مملوکه مولوی البف الله عثمانی، برگ ۱۱۶ (۳) شرف المناقب تألیف محمدبن احمد، نسخه خطی مملوکه مولوی البف الله عثمانی، برگ ۲۳ و تذکره های بعدی.

۷- (۱) تاریخ فیروز شاهی تألیف ضباء الدین برونی، چاپ کلکته ۱۸۶۲ م، ص ۲۴ و ص ۳۵۳ (۲) نزفه المخواطر تألیف سید عبدالحق حسنی ترجمه اردو چاپ لاہور ۱۹۶۵ جلد ۲- ص ۱۴۴

۸- (۱) تاریخ فیروز شاهی تألیف ضباء الدین برونی، ص ۳۵۳ (۲) اخبار الاخبار، تألیف شیخ عبدالحق محدث دھلوی، ص ۹۹ (۳) تذکرة علمای هند، تألیف رحمان علی، چاپ لکنیز ۱۹۱۴ م، ص ۲۸۸

۹- احوال زندگانی او در دست نیست. البته نسبت او به دولت آباد حاکم ای آنست که او در عهد سلطان محمد بن تغلق شاه (۷۲۵- ۷۵۲ ه) یا در عصر مابعد زندگی کرده است.

۱۰- (۱) تاریخ فیروز شاهی تألیف ضباء الدین برونی، ص ۴۷۳، ساله حکتمانی (۲) تاریخ فرشته تألیف محمد قاسم هندو شاه، چاپ لکنیز، ص ۱۳۶

۱۱- تاریخ فیروز شاهی تألیف ضیاء الدین بونی، ص ۵۶۵

۱۲- رساله حکمت‌نامه، برگ اب

۱۳- مولانا ضیاء الدین سنّامی از علمای بزرگ شبه قاره در قرن‌های هفتم و هشتم هجری بوده ولی متأسفانه احوال زندگانی او هم در دست نیست جز اینکه او معاصر شیخ ابو علی قلندر و شیخ نظام الدین اولیا بوده و پیش از شیخ نظام الدین اولیا (م ۷۲۵) وفات یافته.

مولانا در ضمن امور شریعت ابرام و سختی فوق العاده ای را از خود نشان می‌داد، چنانچه از شیخ نظام الدین اولیا در باره ساعت احتساب می‌گوید. بهمین سبب بود که شیخ نظام الدین اولیا بر وفات او فرمود "یک ذات بود حامی شریعت. حیف آن نیز نماند."

واقعه قص شوارب شیخ ابو علی قلندر بدست مولانا معروف است. ما این واقعه را از "اخبار الاحیا" عیناً نقل می‌کنیم:

"وقتی (در غلبه حال) موی شوارب او بغایت دراز شده بود. هیچ کس را مجال آن نبود که به وی امر بقص آنها کند. مولانا ضیاء الدین سنّامی رحمت الله علیه، که جوشن شریعت در برداشت مقراض بر گرفت و محاسن شریقش در دست گرفته قص شوراب کرد. گویند که بعد از آن شیخ همیشه محاسن خود را بوسیدی و گفتی که این در راه شریعت محمدی گرفته شده است." (رک اخبار الاخبار، ص ۱۲۹)

نیز رک (۱) اخبار الاخبار، ص ۹۱. ۹ (۲) سناۃ الاتقیا، برگ ۹۱ و

(الف) (۳) معارج الولایت تألیف عبد الله خویشگی، نسخه خطی

در کتابخانه دانشگاه پنجاب لاہور، برگ ۱۹۱، (۴) مرآۃ آفتاب نما

تألیف شاهنواز خان-نسخه خطی در کتابخانه دانشگاه پنجاب لاہور،

برگ ۱۱۲ الف، (۵) خزینه الاصفیا تألیف مفتی غلام سرور

لاہوری، چاپ لکھنؤ ۱۸۷۳م، جلد ۱، ص ۳۲۸ و تذکره های دیگر.

۱۴- مکتوبات شیخ ابو علی قلندر، نسخه خطی در کتابخانه دانشگاه

پنجاب لاہور، برگ ۱۹

- ١٥- ايضاً برگ ٢٤ ب

١٦- ايضاً برگ ٣١ ب

١٧- ايضاً برگ ٤ الف

١٨- ايضاً برگ ٤٦ الف

١٩- ايضاً برگ ٥٧

٢٠- ايضاً برگ ٦ الف

٢١- ايضاً برگ ٦٢ ب

٢٢- ايضاً برگ ٦٥ ب

٢٣- ايضاً برگ ٦٧ ب

٢٤- ايضاً برگ ٨١ الف

٢٥- حکیمانه برگ ٣ الف

و هنچه کاتبها لایزرنک این بیان را که میگویند: «معولی از این مکانیزم این است که ممکن شود مثلاً میتوانند خلاف  
معتقدات علمی را به اینکه جدله ایدئوگرایی را پنهان کرده باشند، استفاده نمایند. و در اینجا یعنی میتوانند مثلاً  
یکی از این ایدئوگرایی را متناسب با فلسفه غاییه ایجاد کنند که میتوانند مفهومیت آن را در  
آنها برقرار کنند تا اینکه این ایدئوگرایی را میتوانند معرفی کنند و میتوانند معرفی کنند

مختصر کتاب

- در این بخش فقط آثار مربوط به زیان و ادبیات فارسی و فرهنگ اسلام و ایرانشناسی نقد و معرفتی می شود.

- مؤلفان و ناشران از هر کتاب دو نسخه به دفتر مجله دانش ارسال  
نمایند.

از انتشارات "نشر بلخ" وابسته به بنیاد نیشا پور (ایران)  
چاپ سال ۱۳۶۸ ه.ش. ۲۷۵ ص.بها: ۱۲۰۰ ریال  
محمد باقر نجف زاده بارفروش (م - روحا)

کتاب است ارزشمند در موضوع گویش مازندرانی یا طبرستانی و در نوع خود جالب و خواندنی و مستند برای محققان گویش‌های محلی و زبان شناسان تاریخی. متن کتاب، پس از عنوان کتاب، با مقدمه ۱۳ صفحه‌ای آقای دکتر فریدون جتیندی رئیس بنیاد نیشا پور آغاز می‌گردد و سپس مقدمه مؤلف می‌آید در ۶۵ صفحه که بسیار خواندنی است و برای علاقه‌مندان به گویش‌های ایرانی مخصوصاً برای جست و جو گران گویش‌های

دامنه های فیروز کوه و دماوند و طبرستانی بسیار سود مند است. از صفحه ۸۱ متن کتاب آغاز می گردد که باشکل ها و نونه ها و تصاویر افراد محلی و مردم طبری آراسته گشته است. جمیعاً در حدود دو هزار و پانصد واژه مازندرانی در این کتاب گرد آوری شده است.

مؤلف از یازده سال پیش آنرا آماده کرده بوده است تا بالا خره باکمل استاد ایرج افشار، استاد دکتر منو چهر ستوده، و استاد دکتر فربیدون جنبیدی که الحق از مفاخر و ذخایر فرهنگ و ادبیات ایران می باشند تصحیح و چاپ نشر شده است. بنیاد نیشا پور بازهم انتشاراتی دارد حدود ۲۵ کتاب و رساله باشد که هر گاه به دست ما برسد، آنها را در مجله دانش معرفی خواهیم کرد انشا الله

### (۳) غالب اور انقلاب ستاؤن

صفحات: ۳۹۲، قیمت ۱۲۵ روپے

طبعات بہت عمدہ

ناشر: الفیصل، غزنی استریٹ، اردو بازار لاپور، ۱۹۸۹

مُبّصر: میرزا ادیب

"غالب اور انقلاب ستاؤن" ڈاکٹر سید معین الرحمن کی ایک کتابی کاوش ہے جسے ملک کی ادبی اور علمی حلقوں نے بڑا سرابا بھی ہے اور بعض گوشوں کی طرف سے اس پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ تحسین کی ساتھ اگر کسی کتاب کے متعلق کچھ تنقیدی کلمات بھی کہے جائیں تو اس سے کتاب کی اہمیت اور مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تنقیدی کلمات بھی قارئین کو کتاب کے مطالعے کی تحریک دیتے ہیں،

چنانچہ یہ کتاب بہت پڑھی گئی ہے، بڑی دل چسبی کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ نتیجتہ گذشتہ پندرہ برس میں اس کی چار ایڈیشن چھپے ہیں اور اس وقت اس کی چوتھی ایڈیشن کا نسخہ میرے پیش نظر ہے۔

غالب نے ۱۸۵۰ء کی انقلاب یا یوں کہیے کہ اس جنگ آزادی سے کیا اثرات قبول کیے تھے جو ہندوستانیوں نے غاصب قوت کے خلاف لڑی تھی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے مگر یہ سوال سب سے پہلے جس سوال کو جنم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ خود غالب کون تھا؟ جب تک کوئی شخص یہ نہ سمجھے لے کہ خود غالب کون تھا، یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اپنی زندگی کیسے سب سے بڑے ملکی اور قومی حادثے کے باعث میں فطرتاً اُس کی کیا سوچ ہو سکتی تھی اور اُس نے کس سوچ کا اظہار کیا تھا۔

غالب کون تھا؟ اس کا تفصیلی جواب پروفیسر مجانون گور کھپوری نے بھی دیا ہے، پروفیسر کرار حسین نے بھی اور سلیم احمد نے بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں ان بلندپایہ غالب شناسوں کے تجزیوں میں ہم خود بھی غالب کو سمجھ سکتے ہیں اور غالب کے دل و دماغ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ غالب ذہناً اپنے دور کے ساتھ مطابقت پیدا نہیں کر سکتا تھا اور اس کی نفسیاتی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ مغلیہ دور کے بنے سے بنے شاعر کو بھی وہ اپنا مدمقابل نہیں گردانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا ہے؟ وہ غیر شعوری طور پر نہیں، شعوری طور پر اپنی شخصی عظمت کا قابل تھا۔ اس کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے:

غالبِ نام آورم، نام و نشانِ مپرس

هم اسداللہم و هم اسداللہم

اور یہ شعر بھی دیکھیے

او جسته جسته غالب و من دسته دسته ام

عرفی کبست لیک نہ چون من دریں چہ بحث

اور اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ سفر  
کلکتہ نے غالب کے ذہنی افق کو بہت وسیع کر دیا تھا، فرنگی تہذیب نے  
اسے کافی حد تک متاثر کر دیا تھا۔

صاحبِ انگلستان را نگر  
شیوه و اندازِ اینان را نگر  
تاجہ آئین پا پدید آورہ اند  
آنچہ ہرگز کس نہ دید، آورہ اند

بے اُس تقریظ کے ابتدائی شعر ہیں جو غالب نے سرہند احمد خاں  
کی مرتبہ "آئینِ اکبری" پر لکھی تھی غالب اپنے دور سے مطابقت نہیں  
پیدا کر سکتا تھا، وہ فرسودہ جاگیردارانہ نظام حیات سے بیزار تھا اور اُس  
نظام کا خیر مقدم کرتا ہے جو پندوستان کے نئے حکمران اپنے ساتھ لاتے  
تھے۔ مگر یہاں اس نکتے کو ہرگز فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ اُسے  
اپنی قوم، اپنے ملک سے بھی ناقابلِ شکست محبت تھی، وہ شیوه و اندازِ  
اینان کی قدر و منزلت کرنے کے باوصف مغلبہ حکومت کے جلال و جمال کا  
بھی مدح خواہ ہے، اُن روایات کو بھی عزیز سمجھتا ہے جو ماضی نے  
اُسے دی تھیں، اس لیے ستاؤن کی جنگِ آزادی سے بھی اُسے دلی ہمدردی

غالب نے فرنگی آئین یا صاحبِ انگلستان کی تعریف کی ہے  
مگر صاحبِ انگلستان کے بارے میں بہی تو اُسی نے کہا ہے۔  
بس کے فعالِ مایرید ہے آج  
ہر سلحشور انگلستان کا

تو یہ تھی اُس کی ذہنی کیفیت جس نے سن ستاروں کے انقلاب  
کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جس نے اپنے شعروں میں،

اپنی نثر میں، اپنے خطوط میں ان واقعات کے متعلق اپنے رد عمل کا بھی اظہار کیا تھا۔

ذاکر سید معین الرحمن نے اس سارے مواد کو اپنی کتاب میں فراہم کر دیا ہے جو بعین غالب کی اس انقلاب یا جنگ آزادی کے بارے میں ذہنی اور قلبی واردات کی تفہیم کا موقعہ فراہم کرتا ہے ذاکر سید معین الرحمن کی اس کتاب کی اساسی خوبی اس کی جامعیت اور غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے۔ ذاکر صاحب نے وہ سب کچھ یہاں محفوظ کر دیا ہے جس کا تعلق، اس انقلاب کے حوالی سے غالب کی ذہنی اور قلبی واردات سے ہے اور پھر انہوں نے اس کا خوبی سے جائزہ لیا اور تجزیہ کیا ہے اور یہ حقیقتاً بڑا قابلِ قدر کارنامہ ہے، ذاکر صاحب پہلے محقق اور نقاد ہیں جنہوں نے عہد غالب کے اس نہایت اہم سیاسی واقعی کا معروضی انداز سے مطالعہ کیا ہے اور اس مطالعے میں تمام حاصل شدہ وسائل کو پیشِ نظر رکھ کر حقائق کے ساتھ چلنے کی کوشش کی ہے

میرزا ادیب

### (۳) نکاتِ فن از آغا صادق

کتاب نکاتِ فن تأثیف آغا صادق (مرحوم) (اردو)

۳۵۲ ص (اردو) + ۱۶ ص (انگلیسی)

چاپ اول - تعداد چاپ یک هزار ۱۹۸۹ م.

محل چاپ (انگلستان) لندن.

ناشر = موسسہ هنر و ادبیات جهان سوم، لندن.

بہا۔

کاغذ سفید زیبا با جلد گلاسہ سہ رنگ مزین ہے تصویر آغا صادق

**مقدمه کتاب نکات فن مشتمل بر سه کتاب است.**  
**۱- جواهر عروض ۲- جائزه ۳- راگ رنگ**

مقدمه کتاب نکات فن به قلم آقای دکتر نوید حسن پسر مرحوم آغا صادق است تحت عنوان "جهر کی باتین" در ۱۲ صفحه که اندکی در احوال و زندگی مؤلف گفت و گو شده است. در این مقدمه از زندگی خانوادگی، دوستان، استادان شاگردان و معاصران آغا صادق سخن به میان آمده و مخصوصاً یک بیت از قطعه ماده تاریخ مرحوم ریش امروهی را آورده است.  
**وارفته الحان انس و اقبال**  
**وابسته دامان حسین(ع) بن علی(ع)**

مقدمه دوم در ۸ صفحه تحت عنوان "سخن گسترانه بات" به قلم سید عاشور کاظمی می باشد که درباره ادب و اخلاق و طریقت آغا صادق بحث کرده است و خوشنود را همانند پسر او شمرده و گفته است.

میراث پدر خواهر علم پدر آموز" ولیکن در حقیقت از پسر مرحوم آغا صادق، آقای دکتر نوید حسن رفته و گفته که، نوید حسن فرزند استاد علامه آغا صادق مرحوم است که شاعر، ادیب، روزنامه نویس ماهر عروض و ماهر موسیقی بوده است.

پس از این دو مقدمه "پیش لفظ" آمده که به قلم مرحوم دکتر مولوی عبدالحق بابای ارود مؤسس و بنیان گذار انجمن ترقی اردو می باشد. و "جوهر عروض" را ستوده است و مرحوم آغا صادق را که در آن موقع (سال ۱۹۵۱م) زنده بود، مورد تشویق قرار داده است.

قطعه بی تحقیق تحت عنوان "جوهر عروض" سروده کبیر انور جعفری پس از "پیش لفظ" آمده با این مطلع:  
**معیار فن کمال سخن جوهر عروض**

تازه کری گئی رسم کهن جوهر عروض

کتاب جوهر عروض بر ۷۹ موضوع عروض تقسیم شده و ۱۶۶

صفحه دارد.

در آغاز آن مقدمهٔ مؤلف آمده که با عنوان "فتون لطینه" آغاز می‌گردد و سپس دربارهٔ شعر و عروض و ارکان عروض و دوائر عروض و اوزان مختلف عروض بحث می‌کند و با ترسیم جدول‌ها و دائیره‌ها و شجره‌ها، خواننده را کاملاً به دنبال خود می‌کشاند تا بالآخره او را بافن یا علم عروض آشنا می‌کند. البته کتاب جوهر عروض در زمان زندگی مؤلف چاپ شده بود و در حقیقت این چاپ دوم این کتاب است که به همراه "جايزه" و "راگ رنگ" یکجا چاپ شده است.

جاائزه = (بررسی)

این کتاب به زبان اردو می‌باشد

از صفحه ۱۷۱ تا ۲۶۵ کتاب نکات فن را در بردارد و در حقیقت ۹۴ صفحه دارد. در "جاائزه" از قواعد زبان اردو گفتوگو می‌کند که "دستور زبان اردو" اعراب (فتحه، ضمه، کسره = زیر، زیر، پیش)، املاء (دیکته) تعریفات، غلط نامه = (اغلاط نامه)، تلفظ، لغات و ترکیبات و اصطلاحات، را مورد بحث قرار داده است. در آغاز مقدمه‌ی به قلم مؤلف دارد که هدف و مقصد از تصنیف خود را بیان می‌دارد. "اصطلاحات" شجرهٔ حرکات مقهوره، شجرهٔ حرکات محدوده، مفرد کلمات کی صحت، تحقیق زبان کتاب جایزه دربارهٔ شناخت زبان اردو و قواعد دستوری و املائی و انشائی و تلفظ کلمات آن بسیار سود منداست. کتاب جایزه نیز در زمان حیات مؤلف در سال ۱۹۷۶م در ملتان چاپ شده بود و در حقیقت این چاپ دوم است.

راگ رنگ = (مقالاتی دربارهٔ موسیقی)

کتاب راگ رنگ از ص ۴۵۱ تا ۲۶۷ نکات فن را در بردارد جماعت ۸۴ صفحه دارد. کتاب راگ رنگ در باره موسیقی سنتی و نغمه های ملی سرزمین پاک گفتگو می کند. عنوان های آن عبارت است از.

"مسلمانان اور فنون لطیفه" موسیقی، مشرقی پنجاب میں دھر پد کا ایک گھرانہ، حصہ اول و دوم، شعر و موسیقی کا حسین سنگم، از امیر خسرو، فن موسیقی کا ایک نابغہ عظیم از امیر خسرو، ساز رنگ، امیر خسرو پر ایک نشری فیچر، پاک و ہند میں کلاسیکل موسیقی کی تاریخ اور فنی تجزیہ، لغات موسیقی، نقشہ اوزان موسیقی، جوی نغمہ"

در انعام کتاب نکات فن، ۱۶ صفحہ خلاصہ مقدمہ های جوہر عروض، جایزہ و راگ و رنگ بہ زبان انگلیسی بہ قلم آقای دکتر نوید حسن چاپ شده است و اینک دویست از ارشد امروہری دربارہ مرحوم آغا صادق.

### زینتِ محفل سخن دانی

مرد روشن ضمیر ہے صادق

ہے بہ تعریف بھی حقیقت بھی

شاعر بھی نظیر ہے صادق

س - ح - ر

### (۴) شبکه اطلاع رسانی در کشور های اسلامی

کتاب حاضر متن سخنرانی هایی است که از میان پنجاه سخنرانی و گزارش ارائه شده در سومین کنگره متخصصان مسلمان علوم اطلاع رسانی و کتابداری دستچین شده است به این امید که بتواند موضوع شبکه اطلاع رسانی در کشور های اسلامی را به طور مختصر و گویا و از جهت گوناگون علمی، فکری و فنی نشان دهد. کنگره متخصصان مسلمان علوم اطلاع

رسانی و کتابداری از جمله فعالیت‌های وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی است که ستاد آن در کوالالامپور در مالزی است. این کتاب مفید توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ در ۱۶۲ صفحه به قطع وزیری کوچک انتشار یافته است. (رق-ص)

#### (۵) کتابشناسی و راهنمای صنایع دستی ایران

این کتاب اثر خانمها فرزانه طاهری قندھاری و میترا طاهری لطفی است که در قطع وزیری در ۲۷۰ صفحه توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته است. این کتابشناسی در اصل برای دانشجویان سینما و سینما گران جوانی تهیه شده است. که می‌خواهند درباره صنایع دستی ایران فیلم کوتاه بلند، گزارشی، آموزشی و احیاناً مجموعه‌های تصویری دیگری تهیه کنند و هدف مؤلفان در وهله اول توجه به این بوده که منابع و سایر اطلاعات عرضه شده کار سینما گران و بویژه سینما گران جوان را عرضه بد ارند و در عین حال در کتابشناسی حاضر جنبه‌های هنری، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، صادراتی وغیره مورد نظر بوده است. بخش دوم این کتاب که عنوان "راهنمای صنایع دستی ایران" است شامل معرفی کوتاه از مراکزی است که بر کدام به نوعی در زمینهٔ صنایع دستی ایران فعالیت دارند. (رق-ص)

#### (۶) افکار اقبال ترجمه نوشته‌های انگلیسی، اقبال،

ترجمه و تعلیق: دکتر محمد ریاض، استاد اقبال شناس

سال انتشار: ۱۹۹۰ م صفحه ۱۹۲

ناشر: مکتبه تعمیر انسانیت، بازار اردو لاہور بھا: ۵۴ روپیہ

علامہ اقبال (۱۸۷۷ - ۱۹۳۸ م) علاوه بر احرار غودن مقام مشایخ

در شعر زبانهای اردو و فارسی، نویسنده ای زبردست و سحر آفرین در زبانهای اردو و انگلیسی هم بود. کتب و مقالات و مکاتیب وی در دوزبان مزبور چاپ گردیده و لو نگارش‌های نادر وی درالسنّه عربی و فارسی و آلمانی هم بدست داریم. چون اغلب آثار اوی در پاکستان شامل متون درس است، دانشجویان آنها را کراراً مطالعه می‌نمایند. البته با وجود تداول خوب زبان انگلیسی در پاکستان، نگارش اقبال برای دانشجویان صعب و دشوار است و شیوه جمل طولانی و بکار بردن تلمیحات جهانی و اسلامی برای مشکلات اضافه می‌نمایند. علاوه دانشجویان، مردم تحصیل کرده دیگر هم که با انگلیسی زیاد آشنائی ندارند می‌خواهند که با آن افکار اقبال آگاهی داشته باشند که در مقالات انگلیسی وی بیان گردیده است. نظر باین هدف استاد اقبال شناس دکتر محمد ریاض ۱۲ مقاله انگلیسی اقبال را با ارود ترجمه نموده تعلیقات و حواشی سودمند برآنها افزوده است و بعضی از امور را باستفاده و نقل نوشته‌ها و اشعار اقبال در پاور پیش رو توضیح داده است. در مقابله نهائی او نونه‌های تراجم و توضیح خود اقبال آنطور که او از عربی و فارسی و انگلیسی ترجمه نموده ارائه داده بود، نشان داده است. عنوان مقاله‌های ترجمه و توضیح داده شده به اردو بقرار زیر می‌باشد.

نظريه توحيد مطلق شیخ عبدالکریم الجبلی، مطمح نظر اخلاقی و سیاسی اسلام، مطالعه عمرانی و جامعه شناسانه ملت اسلامیه، پنج یاد داشت کوتاه، شاعر بیدل بعنوان پیش رو هنری برگسون فرانسوی، مباحثه اساسی تفکر خودی، نقوش اولیه دیباچه پیام مشرق در انگلیسی، امتزاج داخلی زندگانی، فلسفه میگتیگارت انگلیسی، کتاب جاوید نامه، اثبات حیات بعد الموت، غاز بعنوان عبادت اتحاد آموز، تباین و تضاد تفکر نیجه المانی بانویسنده (اقبال).

کتاب با کاغذ عالی و کتابت زیبنده چاپ گردیده است. بهای ۵۴ روپیه چنین کتاب مناسب تراست.

رس، تئوپلیتوسیه لیلیک دست امداد کریم مسحه ریمه لای آریا مادرتیه  
بلشنکه رویا علیله کل آسیا لیه زیرا یکه لذ کللا بیسته نیوان عوله ای کیمه  
کاران آن تشکر کردند. ایشان در اینست راهی همچنان شد. نکلاریون از نیمه آ

دیچ قوقائی زیلان باعث جیل سی شیخ آن گله بیلیه بیلیه نیله آریه  
سیکیه لایکن لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

لک لک

## خبر فرهنگی

(۱) جلسه گشايش کلاس فارسي

"آکادمی نا سیونال" اسلام آباد که یکی از دبیرستانهای نامی

پانتحت پاکستان می باشد اخیراً مبتکرانه کلاسهای آموزش فارسی دایر کرده

است. نخستین مراسم گشايش کلاس فارسی روز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه

۱۳۶۹ برگزار شد و چندتن از دانشمندان برگسته ایران و پاکستان در آن

شرکت نمودند. از ایران آقای علی اصغر شعر دوست دبیر شواری گسترش زبان

و ادبیات فارسی و دکتر رضا شعبانی استاد دانشگاه ملی و دکتر قاسم صافی

معاون رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و دکتر احمد قیم داری

مدیر مرکز تحقیقات فارسی شرکت داشتند.

در آغاز، برنامه دکتر گوهر نوشاهی رئیس هیأت امنای این آکادمی

ضمن معرفی اهداف کلاسهای فارسی و گرامی داشتن تشریف فرمای مهمانان

ارجمند ایرانی، سخنानی پیرامون لزوم تحکیم روابط همگانی در کشور برادر

پاکستان و ایران ابراه کرد. سپس خانم فهمیده میرزا که همسر دکتر نوشاهی

است و ریاست آکادمی را عهده دار است طی عرض سپاس منصلی اظهار

داشت که این آکادمی تصمیم گرفته است فارسی را در قام سطوح درسی معرفی نماید و این تصمیم کاملاً نمایا نگر آرزو ها و آرمانهای والدین دانش آموزان می باشد.

سپس آقای دکتر قاسم صافی معاون رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن اظهار خرستنی از توجه هیأت امنای آکادمی ناسیونال به تشکیل کلاس‌های فارسی اظهار داشتند که زبان و ادبیات و هنر های فارسی حدود نهصد سال در سرزمین شبه قاره هندوپاکستان رواج داشته و آثار بسیاری از آن دوران به جای مانده و باید جهت حفظ و نشر آن بسیار همت داشت. زبان فارسی، یکی از غنی ترین زبانهای ملل اسلامی در طول تاریخ اسلام است و در شبه قاره حامل پیام اسلام بوده است چنان که نزدیک به قام کتاب های دینی، ادبی، عرفانی، اخلاقی و علمی این کشور در دوران های پیش از سلطه انگلیس به زبان فارسی نگاشته می شده است به استثنای یکی دو قرن اخیر که زبان اردو به میان گذارده شده است و این توجه الهی است که نصیب این زبان شده که در طول تاریخ، همیشه پیام آور آئین مقدس اسلامی باشد.

ایشان همچنین خطاب به هیأت امنای آکادمی ناسیونال اظهار داشتند که دولت جمهوری اسلامی ایران درجهت حفظ و اشاعت زبان فارسی که زبان مردم شبه قاره و عامل مهم ایجاد تفاهم و ارتباط بین کشور هاست توجه بسیار دارد و از همکاری با مرکز آموزش فارسی دریغ نمی ورزد. خوشبختانه گشائش نخستین کلاس فارسی آکادمی ناسیونال اسلام آباد که یکی از دبیرستانهای نامی پائتخت پاکستان می باشد مصادف شده با حضور جناب آقای شعر دوست دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ایران در پاکستان و از ایشان دعوت می کنم که صحبت بفرمایند و کلاس فارسی را افتتاح کنند.

آقای شعردوست از اقدامی که آکادمی ناسیونال در مورد آموزش زبان فارسی انجام داده بسیار اظهار خرسندی کردند و صمیمانه از دست اندر کاران آن تشکر کردند. ایشان در اهمیت زبان فارسی و اینکه کمال و زیبایی و عمق این زبان باعث جهانی شدن آن گردیده سخن گفتند و آن را استوانه ای محکم برای فرهنگ و تمدن ایران و شبه قاره معرفی کردند و اعلام داشتند که علاقه مندان می توانند بر گونه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه نشر و گسترش زبان و ادبیات فارسی به دبیر خانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ایران ارسال بدارند و مطمئن باشند که این شورای از هیچ کوشش فروگذاری نخواهد کرد.

\* \* \* \*

### (۳) جلسه معارفه مسؤول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی

ایران. کویته

عصر روز پنجم شنبه ۵/۷/۶۹/برابر ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۰ به مناسبت پایان مأموریت آقای علیرضا هنر بخش مشغول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کویته و معرفی آقای محمد اسعدی در این سمت، مراسمی در محل خانه فرهنگ باشکرت علاقه مندان به ایران و اعضای انجمن فارسی کویته و استادان زبان و ادبیات فارسی و جمعی از روحانیوں این شهر و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و برخی از اعضای کنسولگری و فرهنگیان و ایرانیان مقیم این شهر برگزار گردید.

در این مراسم، پروفسور نادر قنهرانی استاد دانشگاه و رئیس انجمن فارسی بلوچستان و نیز پروفسور سلطان الطاف علی رئیس دانشکده شهر خضدار و مولانا قاری افتخار احمد کاظمی از علماء اهل سنت و چحنا اسلام توسلی امام جمعه شهر به ترتیب سخنانی پیرامون جایگاه زبان فارسی درشه

قاره و مسائل فرهنگی منطقه و خدمات آقای علیرضا هنریخش اپرداد گردند.

در پایان آقای دکتر قاسم صافی معاون رایزنی فرهنگی، طی سخنانی پیرامون اهمیت روابط مشترک فرهنگی بین ایران و پاکستان و توسعه روابط صمیمانه، به خدمات آقای علیرضا هنر بخش اشاره کردند و ضمن قدردانی از ایشان یک جلد کلام الله مجید همراه تقدیر نامه به ایشان اهدا نمودند و سپس آقای اسعدی را به عنوان مسؤول جدید خانهٔ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌به حضار معرفی کردند و برای ایشان تقدیرستی و موفقیت آرزو نمودند.

ولادت: ۱۹۱۱م = ۱۴۲۲ھ ش = ۱۴۲۲ھ ق.

وفات: ۱۴۱۱ هش = ۱۳۶۹ مهر = ۱۹۹۱م. میان سید رسول رسایکی از شاعران و ادبیان ایالت سرحد (پاکستان) شعر ادب پرور پیشاور در سن ۷۹ سالگی درگذشت- وی در سال ۱۹۱۱م برابر با ۱۴۲۲ هق و مطابق با ۱۲۹۰ هش ولادت یافت و در تاریخ پانزدهم ماه اکتبر ۱۹۹۱م برابر با بیست و چهارم ربیع الاول ۱۴۱۱ هق و مطابق با بیست و سوم ماه مهر ۱۳۶۹ هش در شهر پیشاور در رخان شخصی خود به رحمت ایزدی پیوست.

رسول رسا تحصیلات خود را در دانشکده اسلامیه پیشاور به پایان رسانید. وی اوّل بعنوان معلم علوم در دانشکده لاهور استخدام شد و سپس در اداره اطلاعات مأموریت یافت و تا مرتبه مدیر شعبه اطلاعات ترقیع یافت. آن مرحوم آثاری به زبانهای پشتو و اردو و فارسی و انگلیسی از خود

بهای گذاشته است که اکثر آن به زبان پشتو و اردو به چاپ رسیده است مانند پیریا گلونه، نوید ترنگ، باغ و داغ، و قرآن پیغام، خودکشی، دژوند دوزخ شاعر اسلام علامه اقبال و تصحیح دیوان فارسی و پشتو خوشحال خان ختن و دیوان عبدالرحمن بابا.

در ادبیات پشتو رسول رسا شاعر و ادیب سرشناس قرن بیستم محسوب می شود و در غایشنامه نویسی درمان نویسی و داستان نویسی از دیگران گوی سبقت برده است. وی از شاعران ردیف اول پشتو بشمارمی آید و چون نظرات وی بعلت مطالعه عمیق ادبیات معاصر زبانهای دیگر بسیار دقیق و وقیع بوده، سرمایه ادبیات پشتو از افکار فلسفی و جهانی و مشرقی او خیلی ثروتمند شد و بهمین سبب رسول رسا را بانی سبک جدیدمی گویند که صنف نظم جدید و نظم آزاد را در ادبیات پشتو اختراع نمود. اساس فلسفه او بر تصور جهان دیگر پس از مرگ بود.

مرحوم میان رسول رسا مدتی در ایران و افغانستان به سمت رایزنی فرهنگی از طرف دولت پاکستان انجام وظیفه می کرد و در مدت ماموریت خدمات ادبی و هنری و فرهنگی او موجب استحکام روابط و پیوستگی های تاریخی و اسلامی پاکستان و آن دو مملکت گردید. غفران و آمرزش وی را از درگاه ایزد متعال آرزو مندیم مجله دانش خدمت کلیه افراد جامعه ادبیات و خانواده محترم آن مرحوم عرض تسلیت می نماید.

**قطعه تاریخ**

رسا، سید رسول آن مرد دانا  
دریغا او برفت از مُلک دُنیا  
به شعر و شاعری مشهور و آگاه  
به افسانه هُمو دانا و پُریا

همه آثار او تحقیق و تنقید  
به پشتونی سرود اشعار زیبا  
اگر از "باغ و راغ" او بپرسی  
به قرآن داده پیغام خدا را  
دلش جوینده افکار اقبال  
کتابش "شاعر اسلام"، خوانا  
همان خان خنک خوشحال او بود  
بود احوال و اشعارش فریبا  
ولی پیر طریق او حقیقت  
حقیقت در دل رحمان بابا  
رسا، سید رسول آن ماه تابان  
دلش روشن زیانش بود گویا  
"کرم گستر میان سید رسول" است  
به نیاز هر کسی از درگاه خدا پریا و جویا  
محمد حسین مشایخ فریبا در  
درینه علیه عیا به "رسا، سید رسول اوج خوبی".  
در خاندان دین و علم را در ۱۳۶۹ هش  
میلاد نیز تبریز چوبلبل سوی جنت شد خوش آوا  
علوم دینی و مقدمات ادب و نعمت و حرف و حروف از خانه خود در پیش  
پدرش شیخ محمد باقر مشایخ دکتر محمد حسین تسبیحی ریا.  
دیارس دین از حمله مدرسه معارف باشی را پسندید از وفات داده من  
تربیت خانواده بیانیه مسجد  
\* \* \* \* \*  
علیت ایضاً عین لتساکی عین لعنه عین لمشتاء عین لکثمه عین لریان آراء  
ن لیان لتساکی عین لعنه عین لریان و عین لکثمه عین لمشتاء عین لریان آراء  
ایضاً مشایخ فریدنی گلستانه عین لمشتاء عین لریان عین لکثمه عین لعنه  
فردوسی، اللہ این سالک، نصاب ایوب نصر فراش انسان از در در غریب



### سید ناصر جهان در گذشت

ولادت: ۱۲۹۹ هش = ۱۳۲۷ هـ ق. ۱۹۲۶ م.

وفات: ۱۵ آذر ماه ۱۳۶۹ هش =

۱۷ جمادی الاول ۱۴۱۱ هـ ق = ۶ دسمبر ۱۹۹۰

یکی از بزرگترین نعمت خوانان پاکستان در گذشت. وی با صدای گرم و لطیف خود شنوندگان و بیتنندگان را در مجالس و محافل دینی و ادبی و از رادیو و تلویزیون مسحور می‌گردانید. رحمة الله عليه رحمة واسعة او سید ناصر جهان بود. آن مرحوم علاوه بر نعمت خوانی، نوحه و سلام و سوز نیز می‌خواند و در این طریق، دل و جان هر شنونده و بیتنده را جلا و صفا می‌داد.

آن شادروان نعمت‌های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از برداشت به فارسی وارد و در مجالس و محافل که فارسی زبانان بودند، به زبان فارسی نعمت می‌خواند و در مجالس اردو زبان و فارسی زبان، به این هر دو زبان نعمت و یا سوز و سلام می‌خواند.

آن مرحوم در شهر کراچی در پاکستان در گذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. خداش رحمت و مغفرت گرداناد.

رحمت و غُفران حق بر روح او شادمان بادا همیشه در جنان

### سراج منیر در گذشت

سراج منیر فرزند گرامی مولانا سید محمد متین هاشمی در گذشت وی از ادباء و فضلا و دانشمندان و خردمندان معاصر پاکستان بود. خدمات و کوشش‌های آن مرحوم برای ترویج زبان و ادب فارسی درمیان پاکستانیان خاصه اهل لاہور، قابل تمجید و ستایش است.

وی در تشکیل انجمن فارسی پاکستان، خدمت کرد و کارهای سازنده و درخشنان انجام داد و همواره از سخنران و ادبیان و شاعران در جهت توسعه و گسترش زبان فارسی تمجید و تشویق به عمل می آورد. چون خودش عضو انجمن فارسی پاکستان بود و پدرش مولانا متین هاشمی نیز رئیس مرکز تحقیقاتی و کتابخانه دیال سنگ بود، بدین جهت دوستان ادب و شاعر خود را در خدمت به زبان و ادب فارسی باری و باری می کرد. خدایش رحمت و مغفرت گرداناد. آمين،



رحمة الله عليه رحمة واسعة

### استاد دکتر محمد حسین

مشايخ فریدنی در گذشت

ادیب و سخنداو و اقبال شناس و پاکستان شناس ایران استاد دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی در گذشت. رحمة الله عليه رحمة واسعة، استاد مشایخ فریدنی در سال ۱۳۱۱ هـ/ ۱۹۱۵ م در مجله عودلا جان در تهران، در خاندان دین و علم و ادب، ولادت یافت، روز ولادت او برای اینکه روز میلاد حضرت امام حسین(ع) بود و بدین جهت نامش را "حسین" نهادند. علوم دینی و مقدمات ادب و نعت و صرف و نحو رادر خانه خود و در پیش پدرش شیخ محمد باقر مشایخ فریدنی فراگرفت و پیوسته به همراه پدرش به مدارس دینی از جمله مدرسه معمار باشی و مدرسه سپهسالار رفت و آمد می کرد. خاندان او را «مشايخ» بدان جهت می گفتند که به «شیخ علی بن عبدالعال کرکی» محقق ثانی و صاحب کتاب جامع المقاصد نسبت داشتند.

استاد مشایخ فریدنی گلستان سعدی بوستان سعدی، شاهنامة فردوسی، الفیه ابن مالک، نصاب ابونصر فراہی، ابیاتی از دره غرویه

بحرالعلوم آداب المتعلمين خواجه نصیرالدین طوسی وغیره را نزد پدرش و استادان وقت فرا گرفت. بعضی قسمت‌های حبیب السیر و ناسخ التواریخ را هم خواند و از روی آنها نوشت علاوه براینها، جامع المقدمات، کلیله و دمنه بهرام شاهی و اخلاق ناصری وغیره را خواند. پس از دوره ابتدایی در سال ۹۱۳ هش در مدرسه دارالفنون وارد گردید و دوره متوسطه را پایان داد و در سال ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ هش وارد دانشکده معقول و منقول و دانشکده ادبیات شد. استادانش عبارت بودند از، مرحوم استاد جلال همایی، استاد بدیع الزمان فروزانفر، استاد شیخ محمد حسین فاضل تونی، استاد احمد بهمنیار وغیر هم رحمة الله عليهم اجمعین.

در سال ۱۳۱۴ هش به درجه لیسانس نائل گردید و در سال ۱۳۱۵ هش دبیر ادبیات شد و در دبیرستان‌های دولتی درس ادبیات و فلسفه تدریس می‌کرد. در سال ۱۳۱۸ هش دوره دکتری ادبیات فارسی را به پایان آورد. استادانش در این دوره ملک الشعرا بهار، دکتر سعادت سید محمد تدین، دکتر محمد مقدم، و علی اصغر حکمت و دیگران بودند. رساله دکتری خود را درباره تاریخ روابط سیاسی و فرهنگی ایران و هند در عهد سلطنت شاه جهان گورکانی نوشت و گذاند.

در سال ۱۳۲۴ هش در هنگامی که مرحوم ملک الشعرا بهار وزیر فرهنگ (آموزش و پرورش) شد، او را به سمت، بازرس و سپرست فرهنگ و اوقاف قم و کاشان و ساوه و محلات و گلپایگان به قم فرستاد و مدت ۳ سال در این سمت بود. در سال ۱۳۳۸ هش به سمت رایزنی فرهنگی به کراچی (پاکستان) آمد و بالاخره سفیر ایران در پاکستان گردید و خدمت‌های بسیار ارزنده‌یی برای روابط ایران و پاکستان انجام داد و آثار گران بهای فرهنگی جالبی به یادگار گذاشت.

دکتر مشایخ فریدنی نویسنده‌یی توانا و ادبی و لاله سخنوری دانا

و سیاستمداری آگاه بود. مقالات علمی و تحقیقی نوشت. کتاب الأغانی را از عربی به فارسی ترجمه کرد و چاپ کرد. استاد دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی در راه تحقیق و تبعیج جان فشانی می کرد و جان خود را در این راه از دست داد و در تاریخ چهار شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۶۹ هشتم برابر با ۱۶ جمادی الاول ۱۴۱۱ هجری و مطابق با پنجم دسامبر ۱۹۹۰ در راه سفر به هند در کشتی در دریای عمان در اثر سکته قلبی دارفانی را وداع گفت و به سن ۷۵ سالگی روی در نقاب خاک کشید. رحمة الله عليه رحمة و آسعة از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش (محمد حسین تسبیحی)

\*\*\*\*\*

سخنرانی آقای دکتر احمد حسن دانش نماینده یونسکو (در مجلس ترحیم استاد مشایخ فریدنی که انجمن فارسی اسلام آباد و راولپنڈی ترتیب داده بود)

پیام تلفنی آقای دودیان مستول ارتباطات (هماهنگ کننده) طرح جاده ابریشم یونسکو که درباره خبر تاسف بار ارتحال آقای دکتر مشایخ فریدنی یافتم مرا خیلی تکان داد، این خبر برایم باور کردنی نبود. در تاریخ سوم این ماه من و آقای خواجه شاهد در بندر قاسم بودیم و مرحوم دکتر فریدنی بر عرشه کشتی برای ما تا ذیر وقت دستش را تکان میداد تا کشتی به حرکت در آمد. هیچگاه باور نمی کردیم که چنین کسی با آنقدر جوشش برای ما وجهت شرکت در برنامه های مختلف جاده ابریشم تنها یکروز بعد

جهان را بدرود خواهد گفت برای ما باور کردنی نبود که تنها یک روز قبل از آن تاریخ یعنی ۲ دسامبر او با ما در بامبور و تنه بود. و میخواهم فعالیتهای او را که در گذشته انجام داده بشما بگویم یک چیزی که او هنگام ورود با همکارش دکتر تکمیل همایون در ماقولی در تنه گفت این بود که بایستی اداره مطالعات ماقولی را در پاکستان تاسیس کنیم، بنده امیدوارم که آقای خواجه جهت تحقیق خواهش همکارش با همکاری دولت ایران در ایران، اساس اداره مذکور را در پاکستان بگذارد. که ایشان اسمی از آن اداره را هم خودش بعنوان "علم المزارات" پیشنهاد کرده بود و اداره مذکور مطالعات خودش را تنها به مقابر و آثار تاریخی ماقولی در تنه محدود نخواهد کرد بلکه مطالعه مقابر و مزارات در پاکستان حتی خارج از پاکستان را هدف مطالعه قرار خواهد داد همانطور که آخرین خواسته مرحوم بود.

امیدوارم که خداوند متعال ما را توانایی و دانش تاسیس موسسه مذکور و همچنین محقق نمودن آخرين خواهش مرحوم را ارزانی دارد. اطلاع دیگری که میخواهم بشما بدهم این است که بعضی از شما ها شاید از آن مطلع هم باشید: زمانی که ایشان در پاکستان سفیر بودند شاه (مخلوع) ایران با قتل فنی قاس گرفت و از ایشان نسبت به تغییر دادن تعطیل روز جمعه به یکشنبه مشورت نمود. و تعطیل روز یکشنبه را که در پاکستان در آن زمان مرسوم بود در نظر گرفت.

ایشان بصورت منفی پاسخ دادند و گفتند شاه باید تعطیل روز جمعه را تغییر ندهد و آنرا برقرار بگذارد. این دو خاطره را میخواستم برای شما نقل کنم. علاوه بر این در موقع کنفرانس در کراچی علیرغم این که ایشان مقاله کتبی داشتند از رو آنرا نخوانند بلکه بطور شفاهی، درباره گسترش اسلام در منطقه سند که در نتیجه نفوذ ایرانیان بوقوع پیوست و همچنین نسبت به روابط فنی مابین ایران و سند و این که اسلام و موسسات -

زبان شناسی ایران چه تحولاتی را در این منطقه بوجود آوردند، صحبت کرد.

اینها آخرین اظهارات اوست اما به نحو یکه ار بسوی گورستان پهناور مکلی در تنه نگرسته بود و روحیه ای که از دیدنش گرفت و آن فکر عظیمی که ذهن او را برانگیخت تا او را وادار کرد که زمان ورود در آن منطقه بگوید که: "چرا در پاکستان تاکنون چنین موسسه ای تشکیل نشده است."

این بزرگترین گورستان اسلامی در جهان است و نه تنها شاهان، اولیا و بزرگان دین، تجارت نیز در اینجا مدفون اند و اینجا مرکزیست که مردمش ادبیات عظیمی را در سند بوجود آورده اند، همچنین فن معماری سندی و هنر های گوناگون را ایجاد کردند. تنه که با سائز کشورها روابط عظیمی در زمینه تجارت و بازرگانی داشته بودند یعنی با کشور های ایران، غرب آسیا، آسیای مرکز، و هند، آسیای جنوبی، از این منطقه جامه سرخ به مناطق مختلف جهان صادر می شده. وی گفت: اما تاکنون هیچ کاری (تحقیقی) در این رابطه انجام نشده است ایشان در اتوبوس در حال سفر بازگشت به کراچی این صحبت ها را با من کرد. و بنا برخواست خوش او متعهد شد که وقتی که به ایران برگردد تلاش کند که اداره ای با همکاری دوکشور ایران، پاکستان تأسیس شود.

بنا بر این باد او از دلم و از قلوب مردم پاکستان هیچگاه زدوده نخواهد شد. و من مطمئن هستم که ما خاطرات اورا در صورت تاسیس اداره مذکور تحقیق خواهیم بخشید بنده نمیخواهم در اظهارات پر از احساسات و عواطف بیشتر وقت شما را بگیرم اما میخواهم از سوی یونسکو همانطوری که آقای دودبان من پیام داد بشما تاسف و غم و تسلیت را در مرگ (آقای مشایخ) ابراز کنم و همچنین از سوی کمیته ملی پاکستان جهت مطالعات جاده ابریشم و از سوی خودم و همسرم تسلیت جدی را ابراز میکنیم. و از شما ها سپاسگزارم.

### قطعه تاریخ وفات

**ڈاکٹر مشایخ فریدنی مرحوم**

(اردو)

بے کون تھا جو بزمِ جہاں سے چلا گیا  
محفل میں آج بیٹھئے ہیں افسرده دل سبھی<sup>۱</sup>  
دنیا کی رونقون میں نہ ڈھونڈہ ایسے دلِ حزین  
وہ آج جا چکے ہیں مشائخ فریدنی<sup>۲</sup>  
(۱۳۱۱ھ)

(فارسی)

در ملک پاک آن کہ سفیر عظیم بود  
کردار بی مثال و اخلاق دیدنی<sup>۳</sup>  
او خوش مزاج وحب وطن شخصیت بُدی<sup>۴</sup>  
رفت از جهان نیکوئی مشائخ فریدنی<sup>۵</sup>  
(۱۴۱۱ھ)

نیسان اکبر آبادی<sup>۶</sup>  
شونگ غم

هر مرغ باغ دھر چوپاشد پریدنی<sup>۷</sup>  
بدرود گفت روح بیمیشہ نماندنی<sup>۸</sup>  
واجب شده است برہمہ مخلوق، چون عسل  
وصل عروس مرگ بدنیا چشیدنی<sup>۹</sup>  
دستور ارجعی چو رسیدش میان آب  
لبیک گفت و رفت بحال دویدنی<sup>۱۰</sup>

بوده سفیر کشور گلها به گل زمین  
 آن قصه یای اوست بعیشه شنیدنی  
 دانش پژوه و عالم و اندیشمند بود  
 گلهای پوش و بنیش او بوده چیدنی  
 بودش زپاک گوهر و پسواره می فروخت  
 نیکی به ناکسان که نباشد خریدنی  
 او بوده یار و یار ایرانیان بدھر  
 جهدهش زیهر میهن خود بوده دیدنی  
 باناخن وداد و محبت بعیشه بست  
 آن رشته یای عشق که بوده بریدنی  
 کوه غم والم چوقتاده بقلب ما  
 این وقت گریه هست و گربیان دریدنی  
 در قلب من شکته هرآن میخلد  
 آن نوک خار یجر که بستش خلیدنی  
 خونا به وار مانده بقلب حزین من  
 بس قطره یای اشک که بوده چکیدنی  
 بوده بعیشه عاشق این خاک ہم زان  
 رنج فراق او شده ازس کشیدنی  
 او رفت و رفت از دل شاد آه سوز ناک  
 این غم شهر علم و ادب شد خریدنی  
 گفت ہاتقی مبن که شده "غرق زیب گل"  
 ۱۳۶۹

روح لطیف و پاک مشایخ فریدنی  
 حسین کاظمی

## استاد فاضل در گذشت

در شماره ۲۲ مجله دانش، مقاله ممتد از دکتر محمد ریاض یکی از شاگردان رشید وی درباره شعر و نوشته های استاد سید محمد عبدالرشید فاضل انتشار داده شد. غنی دانستیم که ستاره تابناک زندگانی آن استاد و شاعر فارسی در همین اوان رویه افول می باشد. این خبر با تأثیر و تالم دریافت گردید که استاد روز ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ به سن ۸۳ سال بدرود حیات گفته است. خاطرات دیرینه تازه گشت و چهره درخشنان استاد فاضل از آفاق خاطرات شیرین ماضی طلوع نمود و یکدفعه غرق شدم در یاد روز هانیکه در کراچی با او در محافل شعر و سخن شرکت می نمودم و بادوستان مشترک مثل مولانا منتخب الحق شاعر فارسی و استاد عربی دانشگاه کراچی، و بابا ذهین شاه تاجی (۱۹۷۸ - ۱۹۷۶) صوفی بزرگ و شاعر فارسی، مجالس ادبی و عرفانی را بربا می نمودیم، و بحث و استدلال و استنباط از متون تصوف و عرفان می کردیم و بسا اوقات این صحبت ها تانیمه شب طول می کشید و در پایان قولی خوش گلو اشعار فارسی دوستان را می سرود.

مرحوم فاضل در سال ۱۹۷۱ در راجپوتانه متولد شد. او دوره های امتحانات فاضل زبانهای اردو و فارسی و همچنان فوق لیسانس در دو زبان مزبور را گذرانده از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۳۱ معلم این دو زبان بوده است. در سال ۱۹۴۹ به پاکستان مهاجرت نمود و تا ۱۹۷۱ م یعنی ۲۲ سال کامل در کالج اردو واقع در کراچی استاد و رئیس بخش فارسی بوده است. او استاد صدها استاد زبان فارسی بوده و فیض و برکت دروس فارسی وی در نسلهای آتیه پاکستان جریان است و سریان خواهد داشت.

استاد فاضل فارسی سرای ممتاز بوده و دیوان، نقوش جاویدان، حاکی این است. او کلام پدرش سید نثار حسین متخلص به نثار را بعنوان،

گنج معانی، انتشار داد و کتب مهم فارسی مانند لوائج جامی و مهر نیمروزِ غالب را به اردو ترجمه و شرح کرد. اشعار وی کراراً در مجله های "هلال" و "پاکستان مصور" چاپ می شد. او از اقبال شناسان پاکستان بوده و کیفیت کتب زیروی را در شماره ۲۲ مجله دانش می توان ملاحظه کرد.

- ترجمه منظوم مشنویهای اسرار خودی و رموز بی خودی (بالترتیب ترجمان خودی و بیان بی خودی)

- سلسله درسیات اقبال (درسه جلد که تاکنون دو بار توسط اکادمی اقبال در لاہور چاپ گردیده است)

- شرح بال جبریل اقبال (بال جبریل دیوان دوم شعر اردوئی اقبال است)

- علامه اقبال و تصوف (در بابت اینکه اقبال چه نوع تصوف رانکوهش یا حسایت نموده است)

- اقبال و عشق حضرت رسالت مآب(ص) (این کتاب علاوه پاکستان در هندهم چاپ گردیده است)

- اقبال و پاکستان: کتاب مبنی بر خدمات نظری و عملی علامه اقبال در مورد نهضت پاکستان می باشد.

روح استاد قرین رحمت و آمرزش باد و عشق خداوند متعال و حضرت رسالت مآب(ص) بار مروحه زن وی:

بسکه جان دادن به هجرت مشکلی افتاده بود  
ای سرت گردم زوصل خویش آسان کرده ای  
خادر شکم، سینه داد سامان جنونی مهر عالمتاب عشق  
ذره ای برداشتی فاضل بیابان کرده ای

(دانش شماره ۲۲ ص ۴۱)

دانش در گذشت استاد مرحوم و مغفور را ضایعه عظیم به جهان زبان و ادب فارسی محسوب می کند و خدمت کلیه افراد جامعه ادبیات مخصوصاً دوستان و خانم و پسران و دختران آن مرحوم عرض تسلیت می نماید.

دکتر حسین لسان درگذشت




دکتر حسین لسان، استاد ممتاز دانشگاه ادبیات  
دانشگاه تهران در تاریخ سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹ ش/  
اول زانویه ۱۹۹۱ اع درسن ۶۵ سالگی دعوت حق را  
بلیک گفت.

استاد فقید علاء و برتدریس در دانشکده ادبیات، آثاری نیز در زمینه تقدیر بررسی مسائل فرهنگی و ادبی از خود به جای گذاشته که حائز اهمیت است. از جمله آثار ارزشمند استاد حسین لسان، تصحیح دیوان عمادی و گزینه دیوان مسعود سعد سلمان می باشد. در گذشت این استاد فاضل دانشمند رای خانواده آن شادر وان و جامعه دانشگاهیان ایران و اهل علم و ادب در پاکستان تسلیت می گوییم. حنف اوزن ایشان را رحمت کناد.

ای هم نفسان محفل ما  
رفتید ولی ناز دل ما

، تغییرات ایجاد کننده است. بدآن لحظه که بیمه میگیرند  
آنها این رخداد را میبینند و آن را شناسند، و خواهند بودند که این رخداد  
ساختنی نباشد و این میتواند در سال ۷۷ در میانه تبلیغات بیمه، لایحه  
متغیر ویژه که کارخانیان را

بر لایحه ای داشتند که میتوانستند  
که میتوانند این مکالمه را در اینجا  
در دلیل این اتفاق در اینجا داشته باشند  
میتوانند این اتفاق را در اینجا  
میتوانند این اتفاق را در اینجا  
میتوانند این اتفاق را در اینجا  
میتوانند این اتفاق را در اینجا



شادروان صادق گنجی مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران  
در لاهور، روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۶۹ برابر با ۱۹ دسامبر ۱۹۹۰م به  
دست ایادی استعمار به شهادت رسید. وی جهت شرکت در مراسم تودیعی که  
امجمن هنرهاي کلاسیك لاهور به افتخارش برگزار نموده بود، ساعت ۷.۳۵  
بعداز ظهروارد محوطه هتل سرونس انترناسیونال شد و به محض پیاده شدن از  
ماشین مورد حمله ناچاری داده شد، تروریستها قرار گرفت و به سبب اصابت گلوله  
هادر شکم، سینه و کمر بعداز دقایقی در راه بیمارستان به شهادت رسید.

شهید صادق گنجی در سال ۱۳۴۲هـ، ش (۱۹۶۳م) در شهر فسا  
(استان فارس) بدنیا آمد و در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸م) جهت انجام مأموریت

فرهنگی به شهر لاہور پاکستان آمد. شهید گنجی بزودی اردو را فراگرفت و در محافل علمی و ادبی و دینی و فرهنگی آن شهر محبوبیت خاصی را احراز نمود و لذا دیری نگذشت که به سن ۲۳ سالگی به سمت مسؤول خانه فرهنگ ایران لاہور ترقیع یافت.

در ایام اقامت لاهور وی کار تحقیقی در زمینه های روز نامه نگاری در شبے قاره و اداره یابی علمی و ادبی لاهور و تاریخ جماعت اسلامی و مسیحیت در پاکستان انجام داد همچنین کار تحقیقی او در ایران راجع به بانوان ایران و وسائل تبلیغاتی استعمار و تاریخ معاصر ایران و روش برخورد و کتابنامه زن بود.

وی جوانی پر حرارت و فعال بود که عمر کوتاهش را در نیل به اهداف  
عالیه انسانی صرف نمود او در تحریک روابط فرهنگی، ادبی و تاریخی دو  
کشور برادر ایران و پاکستان در حوزه مأموریت خود نقش به سزاگی ایفا نمود  
و بواسطه روابط دوستانه ای که در طول مأموریتش با اقشار مختلف مردم  
برقرار نموده بود، محبوبیت خاصی بین آنان داشت و به همین نظر جلسات  
تودیع در محافل مختلف برای وی ترتیب داده می شد.

## روانش شاد و پادش گرامی باد

دانش هیئت علمی آموزش عالی اسلامی

• • • •

عاجلیا بست عجیز رشی خلا رکان  
 شریعه بیویت شش لنه رئیس ویز  
 مظلوم و عالمیه رئیس ریوی خلاد  
 شریعه بیویت رئیس رئیس علیان  
 رئیس رئیس علیان  
 سید حسنین کاظمی  
 شاد روان ارد شیر "صادق" گنجی  
 ماده تاریخ شهادت

### شاد روان ارد شیر "صادق" گنجی

شاد چه آه و فغان باز بگویم رسید  
 خنجر ظلم و ستم قلب و جگر را درید  
 بوده ندای ملک از سریام فلک  
 لک گشته به تیر جفا صادق گنجی شهید  
 کتاب بوده بس جانگداز سانحه قتل او  
 هر که خبر را شنید آه زینه کشید  
 دره یکتایی و وحدت اسلامیان  
 در صف هم میهنان بوده مجاهد فرید  
 کار رس و کامجو کارکن بی هوس  
 دره صدق و صفا بوده همیشه سدید  
 داده به بیگانگان درس وفا هر زمان  
 بار و عزیز همه، بوده فقید سعید

فرهنگی به شهر قاتل کافر روش کرده ستم لیک او را فراگرفت و در محافل علیم در ره عشق خدا گشت شهید جزید خاص را احراز نمود و این دیری تک قاله دین حق، میرود و سر بلند خانه فرهنگ ایران لاهور فرش اریکشد صد حسین، شمر سپاه بیزید در آیام بوده گلی سرسبد در چمن دوستی نامه نگاری خار فراقش کتون سخت به قلم خلید مسیحیت در پاکستان تاکه بچیند گلی سرخ زیهر نثار ایران راجع به آهوی قلب جریح سوی گلستان رمید روش برخورد بانوی تفتییده دل گفت نگریم از آنک صادق او گشته است در ره امت شهید هاتف غیبی بگفت (شاد) حزین را که گو عالیه انسانی "صادق گنجی شهید نیک به جنت رسید" کشور برادر ایران میزبان اینها خود و برآش روابط میبیند، بنابراین مختلف مردم برقرار نموده بود. همچنان تجسس و پنهان اتفاقات نظر جلسات شورای در محافل سلطنت را باشند و اینها نظر جلسات روزگش شاید بجهت موضعیت اینها ممکن است باشند.

\* \* \* \*



## استدراک

"دانش" شمارہ ۲۰ - ۲۱ میں ڈاکٹر محمد تقی علی عابدی صاحب کا، مضمون "فارسی کے غیر مسلم شعرا، کی اسلامی شاعری" نظر سے گذرا۔

عابدی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا مضمون لکھا ہے جس کی سخت ضرورت ہے ایک زمانہ تھا کہ بندو شعرا، اپنی کتاب کا آغاز، وہ کتاب فارسی میں ہو یا اردو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر حمد، پھر نعمت، پھر سلام سے کرتے اور عقیدت کیے ساتھ۔

حوالی میں انہوں نے جن کتب کا ذکر کیا ہے، ان میں ڈاکٹر سید عبدالله کی "ادبیات فارسی میں بندوؤں کا حصہ" کا ذکر نہیں ہوا، جو انہوں نے ذی لٹ کیے لئے لکھی تھی، اگرچہ یہ کتاب بندوؤں کے فارسی میں کام کا مکمل احاطہ نہیں کرتی مگر بہت ایم ہے۔

دوسری بات، دیوبی ارشاد بشاش کا تذکرہ شعرای بندو کا تعلق ہے، بشاش کا یہ تذکرہ اردو کا جائزہ لئے ہونی ہے، فارسی کلام کا جائزہ

انہوں نے الگ سے لیا اور مسودہ پرس کو بھیج دیا جیسا کہ اردو جائزہ میں آخری صفحہ پر درج ہے۔ لیکن، وہ جائزہ شاید نہیں چھپ سکا اور ملتا بھی نہیں، بشاش کا تذکرہ شعرا، ہندو اردو بھی مکمل نہیں کیونکہ بہت اب کتابیں درج نہیں ہو سکیں مثلاً گویند پرشاد فضا لکھنؤی کا "اکبر نامہ" جو ۳ جلدیں میں جہازی سائز کیے قریب ۱۰۰۰ صفحات پر مشتمل ہے اور ۱۲۸۳ ہجری میں نول کشور پرس سے چھپا اسمیں فارسی میں شرح ہے۔ یا پھر طوطا رام شایان کی سبھی کتابوں کا ذکر نہیں، مگر بشاش کا یہ تذکرہ نہایت ابم ہے عابدی صاحب، کیے پاس اگر تذکرہ شعرا، ہندو از دیبی پرشاد بشاش فارسی میں ہے تو وہ پتہ دینے کی زحمت فرمائیں تاکہ اسے چھپ دیا جا سکے اور ایک بہت بڑی ضرورت پوری ہو سکے، چھپوانے کی ذمہ داری میری ہو گی۔"

ایک مختصر مضمون میں فارسی کی سبھی اصناف کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے ریاضی - تاریخ - لغت - تذکرہ پر روشنی ڈالی ہے۔ اچھا ہوتا اگر وہ ترجم، قصص - فنون - انشاء - نصاب - رمل - سوانح - بیت و نجوم داستانیں - طب - خوش خطی پر بھی روشنی ڈالتیے اور شاعری بھی سمیٹ لیتیے، اگر وہ ریاضی - تاریخ - لغت - تذکرہ پر نظر ثانی فرمائیں تو اور بہت کتب انہیں ملیں گی۔"

مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں پنجاب کی دفتری زبان فارسی تھی، یون بھی فارسی کا چلن عام تھا، گلستان-بوستان-دیوان حافظ گھرگھر میں ہوتے، چنانچہ پنجاب کی لاتبریریوں میں بھی پندوؤں کی لکھی ہوئی مخطوطات کی شکل میں اور چھپی ہوئی فارسی میں کتابیں دستیاب ہیں۔ ملک کی تقسیم کے بعد فارسی کا چلن نہ رہنیے کی وجہ سے نہایت قیمتی اور نایاب فارسی کتابیں ردی میں نکل گئیں۔ اتفاق دیکھئے کہ "نگار نامہ منشی" جس کے بارے میں پبلک لاتبریری لاہور

کی فہرست مخطوطات فارسی میں درج ہے کہ مخطوطہ فارسی کا تو ہے لیکن چھپی ہوئی نہیں ملتی، مجھے اس طرح چھپی ہوئی مل گئی۔

عابدی صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے امید ہے وہ اسے بڑھایں گے اور مکمل کتاب لکھ کر ہی رہیں گے، ان کی ہر طرح مدد کی جائیگی۔

۱) نیاز مند  
رم لعل نابھوی  
(۲) بخدمت ایڈیٹر صاحبان "دانش" اسلام آباد  
آداب بصد ادب و نیاز  
"دانش" کا شمارہ ۲۰ - ۲۱ ملا ہے حد شکریہ

میں نے اس میں ایک مضمون کے بارے میں مختصرًا لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیں، شائع کرنا چاہیں تو ثہیک ورنہ ڈاکٹر محمد تقی علی عابدی صاحب کو بھیج دیں، میرے پاس فارسی کے علاوہ عربی کی بہت کتب ہیں، نایاب ذخیرہ ہے۔

رامائینوں کے بعد اب عربی-فارسی-اردو میں گیتا جمع کر رہا ہوں، ان کی فہرستیں بھی شائع کروں گا، مختلف زبانوں میں یک صد سے اوپر جمع ہو گئیں۔ عربی میں نہ رامائیں ہیں اور نہ ہی گیتاں جن کا پتہ لگ چکا ہے۔ مسلمانوں نے بہت کام کیا ہے۔ عقیدت کی فراوانی ہے۔ تو پھر پندوؤں کو یہ کوئی بتانیے کو تیار نہیں کہ عربی۔ فارسی۔ اردو انکو وراثت میں ملی ہیں۔ ورثہ کون چھوڑتا ہے میں نے انجمنوں-اداروں-اکادمیوں-سربراپوں کو بہت لکھا کہ وہ اپل پنود کی عربی-فارسی-اردو خدمات کا جائزہ لیں۔ سیمنار کریں لیکن آواز بھرے کانوں پر پڑی، غصب تو یہ ہے کہ پندوؤں کو یہ بھی کوئی بتانیے کو تیار

نهیں کہ ان کے مذہب کو مسلمان کتنا جانتے ہیں۔

فارسی میں مہا بھارت ایران کلچرل ہاؤس نئی دہلی نے ۳ جلدیں  
میں ایران سے منگرا کر تھفتاً دی ہے۔ اردو میں بھی ہے، بندی، انگریزی  
میں تو ذہیروں ملتی ہیں۔

ایسی سینکڑوں کتابیں ہیں جن کے اوپر سنسکرت ہے اور نیچے ترجمہ اردو میں، بلکہ عربی اور فارسی اور ہندی بھی۔ ”ہندی میں اردو کی تو سینکڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ سکھوں کا پورا لشیچر ضخیم گورد گرنٹھ صاحب، دسم گرنٹھ صاحب-پوتھیاں ۱۱۰ سال پرانی اردو میں میرے خزانے میں ہیں۔“ دور درشن جالندر کی ٹیم میری کتابوں پر خاص کر رامائینوں پر سیریل بنانے کیلئے مشورہ کرنے آئی تھی۔ یہ سب آپ کو دور درشن پر دکھا سکون گا۔ انتظار فرمائیں۔

## شعر فارسی و اردو

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| خواجه معین الدین چشتی      | (۱) نعت رسول              |
| شاکر القادری، اٹک          | (۲) سلام بحضور امام       |
| دکتر سید محمد اکرم "اکرام" | (۳) زبان فارسی            |
| دکتر ایس. اے رحمن          | (۴) عهد عتیق (غزل)        |
| کریم شہشہانی پور           | (۵) حاصل عمر (غزل)        |
| دکتر خیال امر وہری         | (۶) غزل                   |
| هوشنگ ابتهاج ساید          | (۷) مرگ روز               |
| خالد حسن قادری             | (۸) غزل                   |
| دکتر سید اکرام حسین عشرت   | (۹) تضیین (ای جوانان عجم) |

درست میں دلیل میں جسی میں  
و بہت قلیلی میں دلیل میں جسی میں  
لشمعه لئے دلیل میں لشمعه لئے دلیل  
لشمعه دلیل میں دلیل میں دلیل  
لشمعه دلیل میں دلیل میں دلیل  
شمع عرقائی، شارع دین هدا، قصر ملل  
\*\*\*\*  
مصلح سو عصر اخ (حرس علم و عمل  
عزت شرع ہیں اوم جمال خاکیان  
نازش تاریخ عالم آپری ہر دنیا  
از جمال و حسن او روشن چراغِ زندگی  
وز جلال و حزم او لرزان شکرِ بصری

## خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمة اللہ علیہ

خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمة اللہ علیہ  
 میں اور ان سبھ مسکو اور احمدنا دی ہے۔ اردو میں بھی ہم، بلدی، انگریزی  
 میں تو مخفیہ بیوال نیم، فارسی  
 نایس نہیں (۱)  
 اس سے پہلے کتابیں بس جن کی اولیاً سمع و مکاپ (۲) اور ترجمہ  
 ترجمہ، (لیٹری) متعلق بالحکمیتیں اور فارسی اور پندی موجع لغاتیں اور اردو  
 کس تو سئیکھی، کتابیں (لیٹری) میں مخفیہ (فری) پر صحیم  
 گورد گرتی، پیارے بیٹھے ہی گرتی صاحب پر (۳) برائی اردو  
 در جان چو کرد منزل جانان ما محمد  
 صد در کشاد در دل از جان ما محمد  
 از درد زخم عصیان ما را چه غم چو سازد  
 از مریم شفاعت درمان ما محمد  
 مستفرق گناہیم ہر چند عذر خواہیم  
 پزمردہ چو گیا بیم باران ما محمد  
 ما طالب خدائیم بردین مصطفانیم  
 بر در گھش گدائیم سلطان ما محمد  
 در باغ و بوستانم دیگر مجو معینی  
 باغم بس است قرآن، بستان ما محمد



شاکر القادری - اٹک

کلیہ ن لکھنیہ ولا ہن تھیہ رائیتہ ردا  
پ لکھ آج پ لکھ لے یا، یا سالیہ یا  
پ لکھنیہ میٹ کلیہ ن خاں لہ تھیہ نہ  
پ لکھ رہا ندیت رہا ن جویہ نہ ملے ردا  
پ آ بآ یادیہ نتے ریخت سالمہ یا  
وکسا متنبہ ن لکھ رہا وکسا  
وکسا

### سلام بحضور

### امام عالی مقام (ع)

جانشین حیدر کرار و شاه مشرقین  
فخر اسماعیل و جان مصطفیٰ یعنی حسین  
شاه ارباب ہم، سرو گلستان رسول  
مصحف ناطق امام العصر دلبند بتول  
عارف ذات و صفات حق کریم ابن کریم  
صدر بزم کاینات و بحر الطاف عمیم  
شعع عرفان، شارع دین هدا، فخر ملل  
مصلح سو عمزاج دھری علم و عمل  
عزت نوع بنی آدم جمال خاکیان  
نازش تاریخ عالم آبروی هر زمان  
از جمال و حسن او روشن چراغ زندگی  
وز جلال و عزم او لرزار شکوه قیصری

ای قتیل غیرت و ناموس دین مصطفی  
ای شهید رزم گاه خونچگان کریلا  
از جمالت نور دارد ماهتاب و آفتاب  
وز جبینت خاک ارض کریلا شد فیضیاب  
ای که در فردوس اعلی سید اهل شباب  
از کمال تشنگی تست کوثر آب آب  
السلام ای ببل بستان جنت السلام  
السلام ای راکب دوشنبوت السلام  
السلام ای حریت افروز شاه ذی وقار  
السلام ای بروخ تو صد هزار المجم نثار  
السلام ای مطلع مهر شهادت السلام  
السلام ای منبع نور هدایت السلام  
السلام ای ناتوان تشننه مسافر السلام  
السلام ای قبله ایمان شاکر السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* \* \* \* \*  
يَا أَيُّوبُ إِذْ أَتَاهُنَا مِنْهَا وَلَا يَرَهُ لَا يَعْلَمُ  
مَنْ هُنَّا مِنْ رَبِّنَا فَلَكَهُ الْكَوْثَرُ إِنَّمَا تَرَى  
مَا يَشَاءُ لَكُمُ الْحَدَادُ عَوْنَانُ الْوَلَدُ لَا يُؤْزِنُ حَلَقُهُ  
أَلَّا يَرَهُ إِنَّهُ نَبِيٌّ وَلِكُلِّ أَنْفُسٍ وَمَوْتُ  
يَوْمَهُ وَمَلَكُ رَبِّيَّهُ وَلَمْ يَمْهُوسْ وَلَمْ يَهُوْ  
لِلْجَاهِلَةِ سَالِمٌ وَلَا يَنْبَغِي وَمَنْ تَنْهَى  
نَلْعَنْهُ يَهُوْ وَلَهُ زَنْجِلُ زَنْجِلُ  
رَجَلُكُنْ قَوْلُجُونْ شَنْجُونْ سَامِنْهُ وَسَالِمَهُ زَانْ  
رَجَلُكُنْ قَوْلُجُونْ شَنْجُونْ سَامِنْهُ وَسَالِمَهُ زَانْ

دکتر سید محمد اکرم "اکرام"

لیکن این زبان نیاز نداشته  
لکن بخوبی شنیده این زبان را می خواهد  
شیخ زاده را نیز شنیده اند  
لیکن این زبان را می خواهند  
**زبان فارسی**

ای خوشا لطف بیان فارسی  
حرف دل گوید زبان فارسی  
هر که خواهد پرسر خود تاج علم  
سرندهد برآستان فارسی  
گوید از آغاز فرهنگ بشر  
نقش های باستان فارسی  
مهر و ماه دانش امروز، نیست  
جز سهایی از جهان فارسی  
فلسفه، هیئت، ریاضی، طب، نجوم  
این همه باشد ازان فارسی  
گر بجهوی یوسف عرفان و عشق  
رو بین در کاروان فارسی  
عرضه می دارد به ما گنج سخن  
هر که آید از دکان فارسی

کاه حرفش کوه معنی را کشند  
 دیده ام تاب و توان فارسی  
 جوهر تیغ زیانم شد دو چند  
 چون نهادم بر فسان فارسی  
 بزم شرق و غرب را یکسر ببین  
 مست از رطل گران فارسی  
 "گوته" از فیض لسان الغیب فارس  
 شد حکیم نکته دان فارسی  
 از نگارش های زیبای "برون"  
 آشکارا گشت شان فارسی  
 معنی عرفان به عالم باز گفت  
 "نکلسون" آن ترجمان فارسی  
 من برای دوستان نکته دان  
 می سرایم داستان فارسی  
 از کلام رودکی آید همی  
 بوی جوی مولیان فارسی  
 کیست "فردوسی"؟ مسیحای سخن  
 زنده از او گشته جان فارسی  
 نغمه پرداز طبیعت "فرخی است  
 بلبل باغ جنان فارسی  
 "عنصری" باشد شه اقلیم شعر  
 شاعر صاحب قران فارسی  
 شاهباز علم "خیام" آن فکور  
 بر فلک بست آشیان فارسی

نخل عرفان را "سنایب" کاشته است  
 آن حکیم حق نشان فارسی  
 "انوری" شمع ادب را بر فروخت  
 شاعر روشن روان فارسی  
 مرد میدان سخن "خاقانی" است  
 شعر او باشد سنان فارسی  
 نظم را باشد "نظمی" مایه بی  
 گنج اسرار نهان فارسی  
 از دم "عطار" آن روح لطیف  
 شد معطر بوستان فارسی  
 مشنوی مولوی معنوی  
 هست قرآن در زیان فارسی  
 چون کمالش را "عراقی" عوضه داد  
 مولتان شد اصفهان فارسی  
 "سعدی" آمد گلستان شعر نفر  
 بوستانش ارمغان فارسی  
 هست شعر "حافظ" شیرین سخن  
 شاهکار جاودان فارسی  
 جام "جامی" از می عرفان پراست  
 تا بریزد در دهان فارسی  
 فکر "صایب" می کند پرواز نیک  
 در فضای بی کران فارسی  
 رهبر اهل سخن باشد "بهار"  
 مهدی آخر زمان فارسی

گوچه بسیارند در ایران زمین  
 شاعران و ساحران فارسی  
 کم غنی بینی تو در گلزار پاک  
 بلبلان نفمه خوان فارسی  
 تا معطر شد مشام جان ما  
 از دم عنبر فشان فارسی  
 تا به "راوی" رفت از "زاینده رود"  
 موج دریای روان فارسی  
 محفل ما حافظ اسرار اوست  
 بزم ما دارالامان فارسی  
 یوسف مصر سخن "مسعود سعد"  
 روشنی بخش جهان فارسی  
 طوطی شکر شکن "خسرو" بود  
 نفمه خوان گلستان فارسی  
 طبع سرشار گهر ریز "حسن"  
 هست گنج شایگان فارسی  
 بود "عرفی" بازی شعر جزيل  
 در ادب شد قهرمان فارسی  
 بزم ما را کرد یکسر فیض یاب  
 "فیضی" آن پیر مغان فارسی  
 در خیال آمد "نظیری" بی نظیر  
 گوهر یکتای کان فارسی  
 "طالب" و "قدس" ظهوری " وكلیم"  
 اختران کهکشان فارسی

کرم شهشہائی بند  
شعر "شیدا" و "منیر" و "آرزو"  
هست نقش دلستان فارسی  
"بیدل" آن صیاد مرغان خیال  
هست تیری در کمان فارسی  
نعره بیی در بیشه اندیشه زد  
"غالب" آن شیر زیان فارسی  
شاعر اسلام آن "اقبال" شرق  
هست مهر آسمان فارسی  
آتشی در خرمن جانم فکند  
دلبر شیرین زیان فارسی  
از خدا خواهم که روزی همچو من  
آتشی افتاد به جان فارسی  
تا بسوزد واژه های اجنبی  
پاک گردد دودمان فارسی  
بسکه ای "اکرام" بردم نام او  
شد نشان من نشان فارسی



دشت شم گردیده از بارگاه زندگی  
دست از ساختمان دادم بیاد  
تاکتم یک لحظه جوان، اشیاء زندگی



دکتر ایس-ایه-رحمن (مرحوم) لاہورستان

شیخ لة ن انساء ساخته فارسیه

کاپیه آن لفظه نیزه ان آکڑا ز بالکو

شیخ لة ن لفظه شیخ لیه فارسیه

انج عده دلها شیخ اش کو جوان چون

آریس ن قم ن لع شیخ شاه نیزه

شیخ را کابه آن کو مکانه اند بجه

شیخ لة دلکه اند

## عهد عتیق

نرگس دمید ولله دمید و سمن دمید

از یار ماست آنچه به روی چمن دمید

بی آب و رنگ و کیف یکی دانه حقیر

در شد بخاک و بر شد و خوش پیرهن دمید

بر حال زار کشت تنا دلم گرفت

زان درد بیکران که به کوه و دمن دمید

راهی ز پا در آمد و دل در سفر هنوز

از بوی خوش که دم بدم اندرختن دمید

کردم خراب منزل عهد عتیق خوش

نقش جدید خواستم رنگ کهن دمید

من نظری

\*\*\*\*

کوچک یکشان نیزه فارسی

شیخه و آنکه سیم "شیخه" و کلکم

آخران کمکشان فارسی

کریم شهشهانی پور

جیسا تلہوا میختناء ری بھیں، امالیہ ۲۷۰

دکتر دام اختر الصادق

دیوشنگ انجیاج

## حاصل عمر

اورچ

فتوسیں

من وقت آنکہ جستجو را پیش کردم از پگاه زندگی  
 دامن زدست گشت تا بیا موزم ز دنیا رسم و راه زندگی  
 خوشی نشاند، روز قامت همچون الف شد دال در سودای نان  
 در خانه من آبرو بریاد رفت اندر رفاه زندگی  
 پایی از رفتار ماندو دست با زانو قرین  
 بیش از این حاصل، که دبداز کارگاه زندگی  
 خوش باش راندم اسب آرزو را تا بفرزین هنر  
 چون من بخند، خوب در بهار عمر سازم مات شاه زندگی  
 سایر دو من را می خواهد، خوب ریخت مروارید دندان پاره شد عقد گهر  
 موی شد تاراج غم در سال و ماه زندگی  
 خفت چشم بخت من چون غنچه صبح امید  
 شادی از این عقدہ ها دارم بدل در شامگاه زندگی  
 تر شرونی ها نصیب از صحبت شیرین لیبان  
 شور بخت و تلخکام از اشک و آه زندگی  
 در فراق روز شادابی فروغ از دیده رفت  
 پشت خم گردیده از بار گناه زندگی  
 دست از سامان بشتم خافان دادم بیاد  
 تاکنم یک لحظه جبران، اشتباہ زندگی

\* \* \* \*

دکتر خیال امروزه‌ی دانشکده ادبیات- لیه

ریگلخن دلکتر نا ۶۹ بـ هشیو ل پـ یـ هـ مـ سـ

آنچنان ظاهر بشو تا هر کجا دیده شود  
گل همان دم گل بود، وقتیکه بونیده شود  
زلف بیش از مار باشد، مار بیش از زلف نیست  
شرط این است برج گل فام ژولیده شود  
نیست ابلیسی درایس دنیا فزون از آدمی  
کاش از آدم چنین آدم نه زانیده شود  
مزدِ رحمت کش فزون ترکن که جُز این راه نیست  
گرسنه بالاخره یک روز شوریده شود  
پمچنان خود را زمرگ ناگهان مخفی مکن  
برگ، گل چین است گل یک بارگی چیده شود  
زهر استبداد دانم حرف استعمار را  
معنیش را هر که پی می برد فهمیده شود

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

## هرگزِ روز

ہوشنگ انتہاج

دکتر ولی الحق انصاری

اردو

فارسی

می رفت آفتاب و به دنیا می کشید  
دامن چہزا کے روز کے پانھوں سے آفتاب  
دامن زدست کشته خود، روز نمیه جان  
کرتا برا فگار ایسے اپن راه میں  
خونین فتاده روز از ان تبعیغ خونقشان  
جانی لکا سیاپیں شب کی پناہ میں  
در خاک می تپید و پس یار می خزید  
بیچارہ دن تھا نالہ کنان، خستہ و خراب

خندید آفتاب کہ این اشک و آہ چیست  
بولایہ آفتاب کہ یوں نوحہ خوان ہے کبود  
خوش باش روز غمزدہ، پنگام رفتان است  
ہے خاقہ قریب تو اب کبود جلاتیں جی  
چون من بخند، خرم و خوش، این چہ شیون است  
جانا ہیں ہے تو کبود نہ چلیں پھر پس خوشی  
ما ہردو می رویم، دگر جای شکوہ نیست  
میری طرح بر شاد، یہ آہ و فغار ہے کبود

نالید روز خستہ کہ ای بادشاہ نور  
بولایہ روز خستہ کہ ای بادشاہ نور  
شادی ازان تست، غم از آن من، بلی  
اک ساتھ اگرچہ ہوتے ہیں رخصت جہاد سے یہ  
ما پسر دو می رویم ازین ریگذر ولی  
حضرت میں تیرے عیش ہی، بہرہ ہے میرا غم  
تو می روی بے حجلہ و من می رویم بکرور

\*\*\*

جگہ پوچھنے مسلقوں کیوں بھائے بالشو

عیناً بخدا مشحون لوبیا نیست نیلم

\*\*\*

خالد حسن قادری لندن

غزی خارسی

• • • •

دکتر سید اکرم حسین عشرت  
 سر شعره عارف ساخت ن لسته لاله بوده ملکه ملکه  
 کورنست کالج فصل ایجاد تیجه هم تلقی نیاه ریشه نسبت  
 ن شعلی پیر ن لیه ع، لیلیه نیمه هم بود  
 ن شعلی پیر نیمه هم بود نیمه ن شعلی  
 "لست ن لستیان ندا دیو هفت آ ملحت  
 ملحت ن لغت ن لغت ایله ای ن بدها  
 ن لش ایله ایله ایله ایله ایله ایله  
**ای جوانان عجم**

(تضمینی بر شعر معروف اقبال (اہورا))

دوست دارم مشهد و شیراز و تهران شما  
 مثل فردوس است هر دشت و گلستان شما  
 شد جوان تر زندگی از علم و عرفان شما  
 چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما  
 ای جوانان عجم جان من و جان شما"  
 از کمال عشق پربروم شیر بیشه ام  
 نام فرهاد ستمکش است بر هر تیشه ام  
 باده خیام و سعدی دارم اندر شیشه ام  
 "غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام  
 تا بدست آورده ام افکار پنهان شما"  
 وقت شاه و شهربارو امر بی دین گذشت  
 دور تخت مرمرین و افسر زرین گذشت  
 روز استبداد و شام ظلم اهل کین گذشت  
 کیا بی

مهرومه دیدم نگاهم برتراز پروین تندشت  
 ریختم طرح حرم در کافرستان شما  
 مست سوی دارمی رفت و به حیرت دیدمش  
 بهر چه کردی گوارا درد جان پرسیدمش  
 "تاسناش تیز تر گردد فرو پیچیدمش  
 شعله آشفته بود اندرنیستان شما"  
 اهرمن را خوار سازدگرز شیطان بشکند  
 دشنه اسکندر و شمشیر خاقان بشکند  
 زور ایمان آورد، طوق مسلمان بشکند  
 "می رسدمردی (۱۱) که زنجیر غلامان بشکند  
 دیده ام از روزنِ دیوار زندان شما"  
 گفته ام با حرف و معنی داستان آب و گل  
 با خبر هستم ز اسرار جهان آب و گل  
 می شناسم منزل این کاروان آب و گل  
 "حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل  
 آتشی در سینه دارم از نیاکان شما"

\* \* \* \*

(۱۱) مثل اینکه علامه اقبال لاہوری پنجاه سال قبل ظهور امام خمینی را

بیش بینی کرده بود \*

پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر چیمہ

صدر شعبہ فارسی،

گورنمنٹ کالج فیصل آباد

## شیخ نظام الدین تھانیسری

(متوفی ۱۰۳۵)

### احوال و مقامات

عارف رموزِ ریانی واقفِ اسرارِ سبحانی شیخ المشانخ والاولیاء،  
حضرت شیخ خواجه نظام الدین بن عبدالشکور العمری (فاروقی) کابلی  
تھانیسری بلخی رحمة اللہ علیہ بندوستان اور ماوراء النهر کے اکابر  
صوفیا میں سے ہیں چشتیہ صابریہ قدوسیہ سلسلہ طریقت سے آپ کا  
تعلق ہے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی (رح) کے خلیفہ اعظم حضرت  
خواجه جلال الدین تھانیسری (م ۹۸۹/۱۵۸۲)، کے بھتیجی، داماد،  
مرید، خلیفہ اور جانشین ہوئے ہیں۔ صاحب "اقتباس الانوار" نے خواجه  
نظام الدین تھانیسری (رح) کے احوال و مقامات کا آغاز ان الفاظ میں  
کیا ہے۔

"آن نسیم صبیح وصال، آن قسم مقام رجال،  
مخصوص بعنایت رسول عربی (ص)، متصرف ولایت  
شرقی و غربی، متعلم مکتب خانہ ام الکتاب، معلم  
مدرسه یهودی اللہ من انباء، بدانش ملک شریعت را  
انتظام، قطب دائرة کائنات شیخ المشائخ حضرت نظام  
الدین قدس سرہ، بحر اسرار و معدن حقائق و معارف  
تھے۔ آپ (رح) عشقِ کامل، شوقِ وافر، وجودِ صادق، حال  
قوی اور بُمَت بلند میں مشہور تھے۔ اس قسم کے  
تصریفاتِ ظاہری و باطنی جو آپ کو حاصل تھے انبیاء،  
علیهم السلام کے بعد کسی کو کم حاصل ہونگے۔  
آپ (رح) کے اقوال و افعال تمام اولیاء و اقطاب کے لئے  
حجتِ قاطع اور بربیانِ ساطع [روشن] ہیں۔ آپ (رح)  
ریاضات و مجایدات اور کشف و کرامات میں عجیبہ  
روزگار اور تکمیل و ارشاد میں بگانہ عصر تھے۔ چنانچہ  
آپ (رح) کی ایک نظر سے طالب صادق کا کام بن جاتا  
تھا اور تمہری سی توجہ سے سالک مستعد کو جمال  
حضرت لاکھیف نصیب ہو جاتا تھا۔ (۱)

خواجہ نظام الدین (رح) نے تمہانیسر کے مقام میں ولادت پائی۔  
کہا جاتا ہے کہ آپ نے رسمی طور پر کسی استاد کے پاس بینہ کر تعلیم  
حاصل نہیں کی تھی۔ مگر اللہ کریم نے آپ کو علم الدُّنْیٰ ایسا عطا کیا  
تھا کہ آپ نے تفسیر و تصوف کیے موضوعات پر نہایت عمدہ کتابیں  
تصنیف کیں۔ (۲) آپ (رح) حنفی مذہب، چشتی صابری مشرب اور  
خاندانی اعتبار سے فاروقی الاصل ہیں۔ آپ کے والد ماجد بھی شیخ  
جلال الدین تمہانیسری (رح) کے خلفا میں سے ہیں۔

سلسلہ عالیہ چشتیہ میں خواجہ نظام الدین (رح) کا مشرب عرفان خاص ہے، آپ کا نام "شیخ ولی تراش" مشہور ہو گیا۔<sup>(۲)</sup> اب ہم شیخ نظام الدین (رح) کے معاصرین کی آراء کا ذکر کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ "بفت اقلیم" میں امین احمد رازی (۱۰۱۰ھ) لکھتے ہیں:

"والحال شیخ نظام بن شیخ عبدالشکور (رح) کہ خلیفہ و جانشین وی شیخ جلال تھانیسری (رح) است و بر سادہ خدا شناسی تکمیل زده خواص و عوام بخدمتش لوازم حسن عقیدت واردات بجای می آرند و با آنکہ تتبع متداولات ننموده و از کتب صوفیہ هیچ مطالعہ ننموده چند نسخہ در تصوف تصنیف فرموده کہ جملہ پسند اہل عرفانست و ایضاً تفسیری املا نموده کہ معافی آنرا ہم در قالب تصوف بیان کرده۔"<sup>(۳)</sup>

گلزار ابرار (سال تالیف ۹۹۸ھ سے ۱۰۲۲ھ) میں محمد غوثی شطاری ماندوی (رح) "یاد شیخ نظام تھانیسری (رح)" میں یوں رقمطرار ہیں: "اردو ترجمہ پیش خدمت ہے"

"آپ صاحب توکل و تسليم ہیں۔ علم الدُّنْیَ سے تعلیم پائی ہے ہجری سنہ ایک ہزار سات میں اپنے وطن سے سفر حجاز کو دریا کے راستہ سے گئے تھے۔ اور حرمین محترمین کا طراف کرکے سعادت دارین حاصل کی تھی۔ پھر ہجری سنہ ایک ہزار بیس میں بندر دکن کے جہاز پر سوار ہو کر شہر بیجاپور میں پلٹ آئے۔ بہاں کے حاکم نے اور نیز دیگر بزرگانِ دین و دولت نے آپ کی تشریف آوری کو مبارک سمجھ کر نہایت تعظیم

اور تواضع کی۔ جب یہاں سے روانہ ہوتے تو اپنے وطن  
مالوف میں پہنچے۔ پھر ملک عجم اور بلاد شمال کی  
سیر و سیاحت کا شوق دل سے انہ کھڑا ہوا۔ بے اختیار  
بلع اور بدخشان کی طرف روانہ ہو گئے۔<sup>(۵)</sup>

توزیٰ جہانگیری میں شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے ۱۶۰۶ھ  
ذی الحجہ ۱۰۱۳ھ (۱۶۰۶) کی کارروائی میں آپ (رح) کا ذکر ان  
الفاظ میں کیا ہے: [اردو ترجمہ]

"شیخ نظام تھانیسری (رح) جو ایک عیار [شیاد]  
آدمی ہے، نے خسرو سے مل کر اس کو خوش کرنے کے  
لئے جہوٹی خوشخبریاں سنائیں اور اُسے روانہ کر کے  
میں پاس ملاقات کرنے کی لئے آیا۔ چونکہ اُس کی  
باتیں میں کانوں تک پہنچ چکی تھیں، میں نے اُس کو  
سفر خرچ دے کر کہا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے  
چلا جائے۔"<sup>(۶)</sup>

"توزیٰ جہانگیری" کی دلبلیل سے راقم الحروف کو "گلزار ابرار"  
میں مذکور ۱۰۰۲ھ میں صداقت کا پہلو نظر نہیں آتا بلکہ ۱۰۲۰ھ  
قرین قیاس ہو سکتا ہے کیونکہ روایات متى ہیں کہ آپ (رح) نے حرمین  
شریفین میں کچھ مدت قیام فرمایا اور اسی دوران میں مکہ اور مدینہ  
میں بینہ کر "معات" کی دو شرحبیں تحریر کیں۔

"حدائق الحنفیہ" اور "تذکرہ علمائیہ بند" کے مصنفوں لکھتے ہیں:  
چونکہ شیخ نظام الدین (رح) کا خرچ آمدنی سے زیادہ تھا اسلئے اکبر  
بادشاہ نے حاسدوں کے کہنے پر دو دفعہ آپ (رح) کو برصغیر سے جلا وطن  
کیا۔<sup>(۷)</sup> راقم الحروف کی نزدیک بدلیل "توزیٰ جہانگیری" ان دونوں  
تذکرہ نگاروں کی روایت بھی محل نظر ہے۔

"اقتباس الانوار" اور "خزینۃ الاصفہا" کے مطابق شروع میں شہنشاہ جہانگیر کو حضرت نظام الدین(رح) سے غیر معمولی عقیدت تھی لیکن شہزادہ خسرو (شاہجہان) کی بغاوت کے سلسلے میں بد عقیدت زائل ہو گئی۔ جب خسرو بغاوت کر کے بھاگا اور تھانیسر سے گزرا تو وہ آپ(رح) کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کا طالب ہوا۔ آپ(رح) نے اس کو ہر چند سمجھایا اور بغاوت سے باز رکھنا چاہا مگر وہ نہ مانا۔ حضرت شیخ(رح) کے معاندین کو اس ملاقات سے موقع ہاتھ آگیا۔ انہوں نے آپ(رح) کے خلاف جہانگیر کے کان بھر دیتے۔ وہ ان کا مخالف ہو گیا اور آپ(رح) کو ملک بدر کر دیا۔ چنانچہ آپ(رح) زیارت حرمین شریفین کے لئے تشریف لے گئے۔<sup>(۸)</sup>

قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ(رح) دو مرتبہ ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ پہلی مرتبہ آپ ہندوستان میں واپس تشریف لاتے۔ جب خطہ بربان پور میں پہنچے تو شیخ عیسیٰ سندھی(رح) نے مع اپنے اصحاب کے پا بربان آپ(رح) کا استقبال کیا اور آپ(رح) سے استفادہ و استفاضہ کیا۔<sup>(۹)</sup> دوسرا مرتبہ جہانگیر کی ناراضگی کی وجہ سے آپ(رح) بلخ تشریف لے گئے۔ منقول ہے کہ تھانیسر سے بلخ کی سفر کی دوران ان دونوں مقامات کے درمیانی علاقے کے لوگ بکثرت آپ کی ذات بابرکات سے مستفیض ہوئے اور تقریباً سات سو مریدین درجہ ارشاد و کمال کو پہنچے۔ جن میں سے ہر ایک کو حضرت اقدس(رح) نے خلافت دے کر اپنے اپنے علاقے میں ہدایت خلق پر مامور فرمایا۔<sup>(۱۰)</sup>

بلخ میں جب خواجہ نظام الدین(رح) کی ولایت کا شہرہ بلند ہوا تو بلخ کا بادشاہ امام قلی خاں ازیک اور دوسری روایت کے مطابق نذر محمد خاں بھی آپ(رح) کے حلقة ارادت میں شامل ہو گیا۔ اور بفتہ میں ایک بار حاضر خدمت ہو کر شرف باریابی سے سرفراز ہونے لگا تو شہر کے

بعض علماء کیے دل میں یہاں بھی حسد و کینہ کی آگ بہڑک انہی۔ انہوں نے آپ کی مخالفت اور رسوائی کیلئے کافی پاپز بیلے مگر حضرت اقدس (رح) کی مراتب روحانیت کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ بالآخر علمائی حاسدین سمیت تمام لوگ دل و جان سے آپ (رح) کے مرید ہو گئے۔ بلکہ بلخ کا سارا خطہ آپ (رح) کا حلقة بگوش ہو گیا اور حسد و مخالفت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔ (۱۱)

حضرت نظام الدین تھانیسری (رح) کے شجرہ طریقت اور خرقہ خلافت کی ترتیب درج ذیل ہے:

خواجہ نظام الدین تھانیسری (رح) نے خرقہ خلافت اخذ کیا اپنے مرشد خواجہ جلال الدین تھانیسری (رح) سے۔ انہوں نے قطب العالم حضرت عبدالقدوس گنگوہی (رح) سے۔ انہوں نے حضرت شیخ محمد ردولوی (رح) سے۔ انہوں نے حضرت مخدوم شیخ عارف (رح) سے انہوں نے شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق ردولوی (رح) سے انہوں نے خواجہ جلال الدین کبیر الاولیا پانی پتی (رح) (م ۶۵۶ھ) سے۔ انہوں نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی (رح) سے۔ انہوں نے سید الطائفۃ الجشتیۃ الصابریۃ حضرت سید مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمة الله تعالى علیہ سے اور انہوں نے بابا فرید الدین گنج شکر (رح) سے۔

شیخ نظام الدین (رح) کے خلفا کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پندوستان، عربستان افغانستان، کشمیر، وسط ایشیا اور توران تک ہر جگہ اُن کے خلفا پہلے ہونے ہیں۔ (۱۲) انہوں نے چشتیہ صابریہ سلسلہ کی وساطت سے دین اسلام کی خوب تبلیغ فرمائی۔ آپ کے خلیفہ اول و اعظم اور جانشین مطلق شیخ ابو سعید گنگوہی (رح) بین جن کا نسبتی تعلق حضرت عبدالقدوس گنگوہی (رح) کے خاندان سے ہے۔

افتباش الانوار کے مصنف نے آپ (رح) کی اولاد کا ذکر خیر اس

طرح کیا ہے کہ:

آپ (رح) کثیر الاولاد تھے اور آپ کے تمام بیٹے بزرگ و صالح تھے۔ سب سے بڑے بیٹے شیخ محمد سعید (رح) اور ان کے بھائی شیخ عبدالحق (رح) دونوں کسی تقریب کے سلسلے میں بلغ سے پندوستان آئے۔ حضرت شیخ محمد سعید (رح) نے اپنے آبائی شہر تھانیسر میں اقامت اختیار کر لی۔ آپ (رح) کا مزار بھی تھانیسر میں ہے۔ حضرت عبدالحق (رح) نے کرنال میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا مزار بھی کرنال میں ہے۔ اور حضرت کی باقی اولاد بلغ میں روضہ اقدس کے قرب و جوار میں مقیم رہی۔ (۱۳)

خواجہ نظام الدین تھانیسری بلخی (رح) دنیا جہان کو اپنے باطنی کمالات سے نیضیاب کر کرے بلخ میں رحلت فرمائی۔ باستناد "اقتباس الانوار" آپ کا وصال ۲۸ ربیعہ الاول ۱۰۳۵ھ اور دوسری روایت کے مطابق ۱۰۳۶ھ میں ہوا۔ (۱۴) "خزینۃ الاصفیاء" کی رو سے آپ ۸ ربیعہ الاول ۱۰۳۶ھ کو راہی ملک عدم ہوئی۔ (۱۵) "حدائق الحنفیہ" اور "تذکرہ علمائے ہند" میں آپ کا سال وفات ۱۰۲۲ھ درج ہے۔ (۱۶) جو کسی قریب سے قرین حقیقت نہیں ہو سکتا۔ بہر صورت آپ کا مزار مبارک بالاتفاق بلخ میں واقع حاجت روا اور پشت پنا، خواص و عوام ہے۔

### شیخ نظام الدین تھانیسری (رح) کے

#### آثار و تصانیف کا جائزہ

"خزینۃ الاصفیاء" اور "حدائق الحنفیہ" میں مرقوم ہے کہ شیخ نظام الدین تھانیسری (رح) جامع علوم ظاہری و باطنی، حاوی کمالات صوری و

معنوی، واقف رموز شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، توکل و تسلیم میں ثابت قدم اور راسخ دم تھے۔ علوم غرائب کیمیا، سیمیا، لیمیا، ریمیا، پیمیا وغیرہ میں آپ کو کامل مهارت حاصل تھیں۔ غام خزان غیب اور دفائن لا رب آپ(رح) پر منکشف تھے۔ (۱۶)

راقم الحروف نے آپ(رح) کے احوال کے ضمن میں آپ(رح) کے معاصر تذکرہ "ہفت اقلیم" کا اقتباس نقل کیا ہے اس میں صریحاً درج ہے کہ آپ(رح) نے کتب صوفیہ کا مطالعہ نہیں کیا لیکن تصوف کے قالب میں تفسیر اور دیگر کتابیں تصنیف فرمائیں جو اہل عرفان کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں (۱۸)

"اقتباس الانوار" میں مذکور ہے:

"اس فقیر نے بھی آپ(رح) کی بعض کتب کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ کے ایک مرید کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نظام الدین(رح) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اُمیٰ تھے اور زیان مبارک سے جو حقائق و معارف سرزد ہوتے تھے۔ مریدین و خلفا ان کو لکھ لیتے تھے اور کتابیں مرتب کرتے تھے۔ معنی میں آپ کو استغراق اس قدر تھا کہ حرف نہیں پہچان سکتے تھے۔ جب مریدین آپ(رح) کی سامنے آپ(رح) ہی کیے بیان کردہ اسرار و رموز پڑھ کر سناتے تھے تو آپ(رح) کاغذ ان کے ہاتھ سے لے کر انگلی سے اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ اس سطر سے اس سطر تک قلمزن کر دو اور باقی پڑھو۔ جب مریدین بقیہ کلام پڑھتے تو اوگ سے آخر تک عبارت میں پورا ربط ہوتا تھا اور قلم زده عبارت بے ربط معلوم ہوتی تھی۔ آپ بڑے صاحب ذوق تھے۔ (۱۹)"

اب ہم حضرت نظام الدین تھانیسری (رح) کے جملہ آثار و رسائل  
کا حسب استطاعت تعارف پیش کرتے ہیں:

(۱) بحر التصوف: شویح رسالہ سوانح احمد غزالی (رح) (۵۰)

یہ کتاب قلمی نسخے کی صورت میں پنجاب پبلک لائبریری لاہور  
میں شمارہ ۲۹۴/۶ غزا-نظا ۱۱۹ کے تحت محفوظ ہے۔ جیسا کہ  
عنوان سے بھی عیاد ہے رسالہ سوانح تالیف امام احمد بن محمد الغزالی  
الطوسی (م ۵۱۴ / ۱۱۲۳ع) کی نہایت قابل قدر شرح ہے جس میں  
مسائل سلوک و تصوف بالخصوص مقامات عشق کا بیان ہے۔ مطالب  
کتاب کو عین سوانح کے مطابق ۶۸ فصلوں میں تقسیم کیا گیا  
ہے۔ (۲۱)

کیفیت نسخہ یوں ہے کہ بحر التصوف کا یہ مخطوطہ ایک  
مجموعے میں شامل ہے جو دو کتابوں "بحر التصوف" اور "کنز السعادت"  
پر مشتمل ہے۔ "بحر التصوف" کا حجم ۱۱۲ اوراق ہے۔ پر صفحہ پر  
۱۶ سطرين ہیں اور صفحات ۱۷ ر-پ، ۱۸ ر-پ، ۱۹ ر-پ اور ۲۸  
ر-پ خالی ہیں صرف اور ایک ایک دو دو سطرين لکھی ہیں۔ "سوانح"  
کی اصل عبارات کو کاتب نے سرخ لکیروں کے ساتھ مشخص کیا ہے اور  
فصل کا لفظ بطور عنوان بھی سرخ قلم کے ساتھ لکھا ہے۔ کاتب کا نام  
یحییٰ بن معین الدین بن الشیخ حمزہ ہے جس نے بدواران اعتکاف روز  
پنجم شنبہ ۲۶ رمضان المبارک ۱۱۲۸ھ میں اسے پابہ تکمیل تک  
پہنچایا۔

آغاز نسخہ: "وَبِهِ نَسْتَعِنُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ  
الَّذِي شَرَحَ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ بِقَيْوَضِ انوارِهِ وَنُورِهِ بِطَالِعِهِ أَسْرَارِهِ -"

المجام مخطوطہ: تمت تمام شد شرح سوانح ۰۰۰ و صلی اللہ علی

محمد و آل و صحبه۔" شیخ نظام الدین (رح) حمد و صلاة کیے بعد اپنا اور شیخ احمد غزالی (رح) کا ذکر کرتے ہوئے مندرجات کتاب کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں۔

"چند فصل ثبت افتاد چنانکہ تعلق به هیچ جانب ندارد یعنی همگی آن، خصوصہ باحوال مبتدی و متوسط و منتهی وارد بلکہ آینہ معشوق نمای ہر عاشقست تا اگر مبتدی در عبارات این کتاب تفکر نماید حال خود را در آن معاينہ کند۔ و اگر متوسط تأمل شافی کند واقعہ خود را مطابق آن یابد۔ و اگر منتهی باین فصول التفات فرماید در آن نشانی یابد از واقعات و واردات خود و خطی گیرد۔ یا آنکہ این فصول نہ تخصیص باحوال عاشق دارد و نہ تخصیص باحوال معشوق بلکہ یہ احوال عاشق در و مبین شده و یہ اطوار معشوق۔" (۲۲)

منظور احسن عباسی "بحر انتصوف" کی متعلق اپنی گزارش کے آخر میں لکھتا ہے:

"یہ مخطوطہ بظاهر ایک مکمل نسخہ ہے۔ مطبوعہ نسخہ موجود نہیں ہے اور مخطوطہ بھی ناپاب ایتھے۔ ایتھے نے اس کتاب کیے صرف دو اوراق کا ذکر کیا ہے۔ باقی ناپید ہے۔ بدین جھت یہ مخطوطہ نادرہ روزگار اور نہایت قابل قدر نسخہ ہے۔" (۲۳)

راقم الحروف بفضل ایزدی اس گرانقدر تصنیف کی تصحیح و تعلیق کے لئے کمر بستہ ہے۔ انشا الله العزیز۔

(٢) تفاسير قرآن: تفسير نظاہر، ریاض القدس

شیخ نظام الدین تھانیسری (رح) نے قرآن حکیم کے مختلف حصوں کی تفسیریں لکھی ہیں۔ ان کے نام تذکروں اور مخطوطات کی فہرستوں میں مختلف آئی ہیں۔ مثلاً ریاض القدس (۲۳)، تفسیر نظامی (۲۵)، تفسیر سورہ فاتحہ، تفسیر پارہ هفتہ اور تفسیر دوپارہ اخیر قرآن۔ آقائے احمد منزوی نے فہرست مشترک نسخہ ہائی خطی فارسی پاکستان (۱۹۴۰-۱۹۵۳) میں ان کے سات موجود نسخوں کا ذکر کیا ہے۔ دارالعلوم مشرقیہ پشاور میں "ریاض القدس" کا نسخہ تفسیر چرخی مکتبہ ۱۹۴۰ کے ہمراہ مجموعہ میں شامل ہے تاریخی اعتبار سے "ریاض القدس" کی کتابت ۱۹۴۰ھ میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا بعارت پاس قدیمی ترین مخطوطہ موزہ ملی پاکستان کراچی کا ہے جو مؤلف کی وفات (۱۰۳۵) یا (۱۰۳۶ھ) کے بعد قریب ترین زمانہ ۱۰۸۳ھ میں استنساخ ہوا۔ یہ نسخہ ۵۲۸ صفحات پر مشتمل ۱۹۵۵-۱۹۲۲-ایم۔ این۔ نمبر کے تحت تفسیر سورہ فاتحہ، پارہ هفتہ اور پارہ سی ام کا حامل ہے۔ نستعلیق خوش میں ملا زمان کا تحریر کردہ ہے اور اس کا نام "ریاض القدس" ترقیم میں مذکور ہے۔

درج بالا شواهد کی روشنی میں راقم الحروف شیخ نظام الدین (رح) کی تین مختلف تفسیروں کا ذکر کرنا یہاں درست خیال کرتا ہے۔ ممتاز ایرانی فہرست نگار احمد منزوی نے بھی فہرست مشترک پاکستان (۵۲/۱) میں ان تفاسیر کے تین مختلف آغاز نقل کئے ہیں۔

### (الف) تفسیر سوره فائزہ

رقم الحروف کو موزہ ملی پاکستان کراچی اور کتابخانہ گنج بخش اسلام آباد کے قلمی نسخے دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا البتہ باستفادہ از فہارس، مختصر ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ کتابخانہ گنج

بخش میں تفسیر سورہ فاتحہ کا نسخہ مجموعہ شمارہ ۱۶۱ میں آئھوں  
نمبر پر صفحہ ۳۸۶-۳۹۶ کے مابین ۱۲۲۲ھ کا نستعلیق پختہ میں  
کتابت شدہ ہے۔

آغاز نسخہ: الحمد لله والصلوة والسلام على نبیہ محمد و آلہ  
اجمعین۔ هذا تفسیر فاتحة الكتاب من مصنفات حضرت قطب الانقطاب  
شیخ نظام الدین شریف عمری التانیسری (رح) بسم الله نام حضرت  
الحقایق کے مستحق جمیع عبادات روحانی (۲۶۱-۱۸۷۰)

#### (ب) تفسیرو پارہ هفتہ

موزہ ملی پاکستان کراچی والی نسخہ بنام "ریاض القدس" میں  
پارہ هفتہ کی تفسیر بھی شامل ہے۔ فہرست نگار سید عارف نوشادی کے  
بقول "من پارہ هفتہ شنگرف است۔" (۲۶۱)

#### (ج) تفسیرو پارہ سی ام

موزہ ملی کراچی کے مذکورہ بالا نسخہ میں تیسوں پارہ کی  
تفسیر بھی شامل ہے۔ احمد منزوی (فہرست مشترک پاکستان ۵۳/۱)  
کا تیسرا آغاز بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔

آغاز ۳ : "عُم يَتَسَاءلُونَ - از چه می پرسند یکدیگر را عن النباء  
العظيم، از چیز بزرگ و این چیز عبارت از وحدت الوجود است۔"

اقتباس الانوار (فارسی ص ۲۶۰) میں " و تفسیر دو جز و اخیر  
از قرآن" ، خزینۃ الاصفیا (۳۶۳/۱) میں " و ریاض القدس تفسیر دو جز و  
اخیر قرآن" ، اور فہرست مخطوطات فارسیہ (عباسی ص ۱۶۰) میں " اور  
ریاض القدس - قرآن حکیم کے آخری دو پاروں کی تفسیر میں" واضح  
لکھا ہے۔ تحفۃ الابرار (ص ۱۴۵) میں " و تفسیر نظامی - دو جزو آخر  
قرآن وغیرہ میں" درج ہے۔ لیکن راقم الحروف کو پارہ ۲۹ کی تفسیر کا

کوئی نسخہ یا مخطوطہ تا حال دستیاب نہیں ہو سکا۔ (۲۸)

(۳) رسالہ بلخیہ: رسالہ بلخی

"خزینۃ الاصفیا" میں آپ کی دیگر تصانیف کے ساتھ مرقوم ہے:  
و رسالہ بلخی در جواب اعترافات علمای بلخ واباحت ساعع۔ (۲۹)  
علاوه ازین حدائق الحنفیہ (ص ۳۰۲)، تذکرہ علمائی بند (ص ۵۲۵) اور  
فہرست مخطوطات دیال سنگھہ ثرست لاتیریری (۱۱/۳) در گزارش شرح  
لماعت) میں "رسالہ بلخیہ" کا صرف نام ضبط تحریر ہوا ہے۔ اس کے  
نسخے کا کہیں سراغ نہیں ملا ہے فہرست نگار مخطوطات دیال سنگھہ یہ  
بھی لکھتے ہیں کہ علمائی بلخ کی مخالفت کو دور کرنے۔ اور ساعع کو  
جاز قرار دینے کے لئے انہیں متعدد رسالے لکھنے پڑے۔

(۴) رسالہ حسانیہ

خانم دکتر متاز بیگم نے "کتابہای تصوف بزیان فارسی در شبہ  
قارہ پاکستان و بند" میں شیخ نظام الدین تہائیسری (رح) کی ذیل  
میں اس رسالے کا نام درج کیا ہے۔ مخطوطہ کا کہیں ذکر نہیں مل  
سکا۔ (۳۰)

(۵) رسالہ حقیقت: رسالہ حقیقیہ

اس کے لئے حقیقت (۳۱)، رسالہ حقیقت (۳۲)، رسالہ حقیقیہ در  
بیان هفت بطن وجود (۳۳) اور رسالہ در تصوف (۳۴) از شیخ نظام الدین  
تہائیسری (رح) جیسے نام استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا ایک مخطوطہ پنجاب  
یونیورسٹی لاتیریری لاپور میں اور دوسرا کتابخانہ گنج بخش اسلام آباد  
میں تفسیر سورہ فاتحہ والی مجموعہ میں نمبر ۹ پر (صفحات ۳۹۶ -  
۵۱۲) محفوظ ہے۔

رقم الحروف نے پنجاب یونیورسٹی والی نسبتاً قدیمت ۱۱۸۱

کے مکتوب نسخہ سے استفادہ کیا ہے۔ نسخہ کے عنوان سرخ سیاہی کی ساتھ مرقوم ہیں۔ خاص خاص عارفانہ اصطلاحات و ترکیبات پر بھی سرخ قلم کے ساتھ علامات لگائی گئی ہیں۔ مخطوطہ مجموعی طور پر گرام خوردہ ہے تاہم کسی جدید طریقے سے اب اس کو کرم خوردگی سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ مجموعہ میں صفحہ ۱۹ پر سے ۱۹ پر تک یہ رسالہ ہے۔ ہر صفحہ گیارہ سطروں پر مشتمل ہے فارسی عبارات خط نستعلیق میں اور عربی عبارات عربی رسم الخط میں لکھی ہیں۔

آغاز الحمد لولیہ والصلوٰۃ علیٰ نبیہ و آلہ۔ فایدہ بدانکہ این رسالہ ایسٹ مسیٰ بہ "حقیقت" در تحقیق سخن بعضی صوفیہ کہ در توحید ہفت مرتبہ نہادہ اند ۰۰۰ از مصنفات ۰۰۰ حضرت شیخ نظام الدین التهانیسری العمری(رح) ۰۰۰

الجام: وصلی اللہ علیٰ خبر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔

آغاز نسخہ میں شیخ نظام الدین(رح) کے نام کے ساتھ بیشمار القاب اس امر کے شاہد ہیں کہ یہ رسالہ حضرت اقدس(رح) کے معتقد خاص نے ان کی صوفیانہ تعلیمات سے متاثر ہو کر تحریر کیا اور انہی کی نام منسوب کر دیا۔ بہر حال رسالہ بڑی عمدہ اور ذی قیمت عارفانہ معلومات سے پر ہے مثلاً ملاحظہ فرمائیے:

(۱) "بدان ای عزیز حضرت رسالت بناء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را نور گفتند قد جاءكم من از بُلْعَمْ وَ قُرْآنَ رَا بهم نور گفتند... (۲۵)

(۲) "... جملہ انبیا و اولیا درین سرگردان و حیران باشند۔ ہر کسی کہ یافت بقدر خود یافت، انبیا بقدر خود، اولیا بقدر خود۔ بیت

نہ رملہ کا ترا چنانکہ توئی ہر کسی کجاد اند؟  
بقدر دانش خود ہر کسی کند ادراک" - (۳۶)

مرتب کننده نے سارے رسالہ کے مطالب و مضامین کو آیات، احادیث، فارسی ابیات اور نقشبیات سے مزین کیا ہے۔

#### (۶) رسالہ در اسرار الہیہ

اس رسالے کا ایک مخطوطہ پنجاب پبلک لائبریری لاہور کے ایک مجموعہ رسائل میں دوسرے غیر پر شمارہ ۲۹۸/۶۳ نظر-۱۲۵ میں شامل ہے۔ مجموعہ کے سورق اور فہرست مخطوطات فارسیہ میں اسے "نا معلوم الاسم" ظاہر کیا گیا ہے۔ رسالہ کے ترقیمه (خاتمه) میں "این چند ورق در اسرار الہیہ" کے کلمات مسطور ہیں۔ بدین ثبوت اس کو "رسالہ در اسرار الہیہ" کا نام دیا گیا ہے۔ اکثر فہرست نگاروں کے معمول کے مطابق اس کا نام "رسالہ در تصوف" یا "رسالہ عرفانی" بھی فرض کیا جا سکتا ہے۔ رسالہ کے کل ۱۵ اوراق ہیں۔ نستعلیق شکستہ میں نہایت صاف یوم پنجشنبہ ماہ صفر ۱۱۲۳ھ کا کتابت شدہ ہے۔ ہر صفحہ میں ۱۲ تا ۱۶ سطریں ہیں۔ نسخہ کو دیک لگ چکی ہے تاہم ابھی تک قابل استفادہ ہے۔ فہرست نگار منظور احسن عباسی نے اظهار خیال کیا ہے: "بہ ظاهر یہ رسالہ عنوان تصوف و معرفت پر ایک مقالہ ہے جس کو مؤلف مددوح کے کسی شاگرد یا مریدنے نقل کر دیا ہے۔ مطالب مفیدہ پر مشتمل ہونے اور مطبوعہ نسخہ موجود نہ ہونے کے باعث قابل قدر رسالہ ہے" - (۲۴)

آغاز الحمد لولہ و الصُّلُوٰ علیٰ نبیہ و آلہ حال [قال] الانعام  
الکامل العالم العامل ۰۰۰ شیخ نظام الدین بن عبدالشکور العمیری  
الثانیسری (رح)۔ بدانکہ منتهای مراتب مرتبہ ذات حقست کہ عبارت از لا  
تعین است ۰۰۰

الجام: و مؤلف را بدعاه خبر خانه ياد آرد - والسلام على من  
اتبع الهدى -

مؤلف نئے اسرار و رموز باطنیہ کی توضیحات کے ضمن میں کہیں  
کہیں اپنے اور اکابر شعرا عراقی (رح)، سعدی (رح)، بو علی قلندر (رح)  
اور حافظ (رح) کے اشعار سے بھی استشهاد کیا ہے۔ آیات و اخبار و اقوال  
بزرگان کا استعمال عام ملتا ہے۔ دوران مطالعہ جبروت، لاہوت، ملکوت،  
ناسوت، تلوین، تمکین، سیر فی الله جیسی اصطلاحات سے واسطہ پڑتا  
ہے۔ حفظ شریعت کیلئے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی تلقین نظر  
آتی ہے۔ ایک جگہ اپنے مرشد "شیخ جلال الحق و الشرع والدین قدس  
سرہ" کی مثال پیش کی ہے۔ علم و ادب اور متابعت پیغمبر (ص) پر بہت  
زور دیتے ہیں۔ کہتے ہیں: "ای برادر اپر علمی کہ داری بہر خدا باید تا  
دیدہ دل بگشاید ۰۰۰" آکے چل کر لکھتے ہیں:

"مثل مشهور است کہ بی ادب پر گزر بخدا نرسد:  
ادب تا چبست از نور الہی  
بنہ بر سر برو بر جا کہ خواہی  
اینجا ادب در گاہ است چون نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج  
بے بہشت رسانند، ادب بخدا رسانند و کوشش شریعت درین  
فرض عینست و در پیروی مصطفیٰ (ص) بوسع امکان  
خود بکوش تا حق تعالیٰ ترا شایسته دوستی خود  
گرداند..."

محال است سعدی کہ راه صفا  
توان رفت جز در پی مصطفیٰ (۳۸)

اس طریقہ سے اس رسالے میں نہایت دلچسپ پیرانے میں سالکان  
طریقت کی تربیت معنوی کا سامان میسر ہے۔

#### (۷) رسالہ وحدت

بانو دکتر منتا ز بیگم نے اپنے ڈاکٹریٹ کیے مقالہ "کتابہبھائی تصوف بزیان فارسی" میں شیخ نظام الدین تھانیسری(رح) کی کتب و تصانیف کی فہرست میں اس رسالے کا نام دیا ہے مگر افسوس کہ قلمی نسخہ دسترس میں نہیں ہے۔ (۳۹)

#### (۸) رویت خدا

فہرست نگار آقائی احمد منزوی کے قول کے مطابق کتابخانہ گنج بخش کے مجموعہ شمارہ ۱۶۱ میں حضرت نظام الدین تھانیسری(رح) کے دیگر رسائل کے ہمراہ (صفحہ ۵۰۹-۵۱۲) رسالہ "رویت خدا" بھی شامل ہے۔ شاید یہ بھی شیخ نظام الدین(رح) کی تالیفات میں سے ہو۔ فہرست کتابخانہ گنج بخش میں اس کا اندرج سہواً نہیں ہو سکا۔  
سابقہ رسائل کی مانند اس میں بھی نثر و نظم کی آمیزش ہے۔  
کوہ طور پر تجلی الہی اور رویت باری کے سلسلے میں مؤلف یون رقمطراز ہے:

"مقدمہ دیدن حق بیخودی ست، و آن تعطیل حواس ظاہری ست ۰۰۰"

یار ما عین نور دیدہ ماست

ل مجرم ما بد عین بینائیم" (۴۰)

آغاز نسخہ: قوله تعالیٰ و لجاجاء موسى لم يقاتنا، هر گاه کہ آمد موسی (ع) در ملاقات - مراد کلمہ رہ،

#### (۹) شرح ابیات

#### (۱۰) شرح ایا کم والا مردان

احمد منزوی کے بقول یہ دونوں رسالے بھی کتابخانہ گنج بخش

کے مجموعہ رسائل شمارہ ۱۶۱ کا حصہ ہیں اور اتفاقاً فہرست کتابخانہ  
گنج بخش میں درج ہونے سے رہ گئے ہیں۔ لہذا راقم الحروف ان کے بارے  
میں کسی رائے کا اظہار کرنے سے قاصر ہے۔ (۲۱)

### (۱۲/۱۱) شرح لمعات (۲۲) مکنی و مدنی

حضرت شیخ محمد اکرم قدسی (رح) اقتباس الانوار میں مرقوم  
فرماتے ہیں:

"اس فقیر نے تو اتر سے اپنے مشائخ کی زبانی  
سنا ہے کہ جب حضرت شیخ نظام الدین قدس سرہ، مکہ  
معظم اور مدینہ منورہ کی زیارت کیے لئے گئے تو  
"لمعات" کی ایک شرح مکہ معظم میں لکھی جس کا  
نام "شرح مکی" رکھا اور دوسری مدینہ منورہ میں  
تصنیف کی جس کا نام آپ نے "شرح مدنی" رکھا۔ ان  
دونوں شرحوں کی لکھتے وقت آپ (رح) خلوت نشین ہوتے  
تھے اور خلوت خانہ کے دروازہ پر خادم بنتھا دیتے تھے  
تاکہ کوئی شخص اندر نہ آ سکے۔ اس وقت حضرت  
رسالت پناہ (ص) کی روحانیت تشریف لاکر آپ (رح) کو  
"لمعات" تعلیم کرتی تھی اور اس کے اسرار و رموز کی  
وضاحت کرتی تھی۔ چنانچہ آپ نے آنحضرت (ص) کے  
بیان کردہ حقائق و معارف جمع کرکے دو کتابیں تالیف  
فرمانیں۔ کہتے ہیں کہ لمعات میں ایک سطر ایسی تھی  
کہ جس کی طرف رسول اکرم (ص) نے بطور خاص اشارہ  
فرمایا اور حضرت شیخ نظام الدین (رح) نے اس کے گرد  
آپ زر سے حلقہ لگا دیا۔ وہ کتاب "لمعات" آج تک  
حضرت اقدس کے خاندان میں موجود ہے۔ اور اس

فقیرنے بھی آپ کی بعض کتب کامطالعہ کیا ہے۔ (۳۲)

خرینتلاصفیا (۳۶۳/۱) میں "دو شرح لمعات مکی و مدنی قدیم و جدید" کا ذکر آیا ہے۔

حدائق الحنفیہ (ص ۳۰۲) میں صرف "شرح لمعات قدیم و جدید" ضبط تحریر ہے۔

فہرست مخطوطات شفیع میں دکتر بشیر حسین نے بہ انداز اختیار کیا ہے: "۰۰۰ قسمتی از این تالیف را در مکہ معظمہ و قسمتی را در مدینہ منورہ ساخته است۔" (۳۳)

فہرست مخطوطات فارسیہ (ص ۱۶۰) میں بحر التصور کی گزارش میں حسب سابق شرح لمعات مکی اور مدنی (دونوں شرحون) کا نام مذکور ہے۔

راقم الحروف نے اپنی جستجو سے شیخ نظام الدین تہانیسری (رح) کے نام کی دو علیحدہ علیحدہ شرحیں تلاش کی ہیں:

### الف- نجیباتِ الجمال

### ب- معدن الاسوار

ان دونوں کے چند مخطوطے بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے مگر حیف کہ ان نسخوں میں مکی اور مدنی یا قدیم اور جدید کی نسبت سے متعلق کوئی علامت نظر نہیں آئی مگر اس بات سے انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے راوی شیخ محمد اکرم قدوسی، شیخ نظام الدین (رح) شارح لمعات کے تقریباً ایک صدی بعد اقتباس الانوار کو ترتیب دیتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ مذکورہ روایت کو درج کتاب کرتے ہیں۔ پھر چونکہ امتداد زمانہ سے معاملات میں تبدیلی روپا ہوتی رہتی ہے

اسی طرح شرح ملعات کیے عام نسخے بھی کاتبوں کی سستی اور کاپلی کی وجہ سے مکہ و مدینہ کی نسبت سے عاری ہو گئے ہونگے۔ بدین صورت عدم ثبوت کی بنا پر، ہم ان دونوں شرحوں کو مکّی یا مدنی کی نسبت سے منسوب کرنے کی بجائے ان کے مجوزہ ناموں سے یاد کر کے ان کا جائزہ پیش کریں گے۔

### الف- تجلیاتِ الجمال : شرح ملعاتِ عراقی (رح)

آقائی احمد منزوی نے فہرست مشترک پاکستان (۱۸۲۸/۳) میں تجلیاتِ جمال کیے تین نسخوں کی طرف اشارہ کیا ہے (۱) دیال سنگھہ ٹرست لاہوری لاہور (۲) مخطوطات شفیع لاہور (۳) خواجہ محمد سلیم لاہور۔ (۴) ان میں سے دیال سنگھہ ٹرست لاہوری کا مخطوطہ دیکھا گیا اور مخطوطات شفیع اور خواجہ سلیم کی نسخوں تک رسانی ممکن نہ ہو سکی البتہ شرح ملعات از نا شناس شمارہ ۳۶۸۳ مملوکہ کتابخانہ گنج بخش اسلام آباد کا عکس منگوادر کتابخانہ دیال سنگھہ کی نسخے سے تطبیق کیا گیا تو وہ دونوں یکساں عبارات کی لحاظ سے "تجلیات جمال" کے مخطوطے ثابت ہونے صرف یہ فرق ہے کہ اسلام آباد والی نسخے میں شارح کا نام کہیں مذکور نہیں ہے اور کتابخانہ دیال سنگھہ کے مخطوطے کے آغاز میں ایک پورا صفحہ "شرح ملعات نظام الدین بن عبدالشکور العمری التهانیسری (رح)" کے لئے مختص ہے اور ترقیمه میں بھی کاتب نے مع القاب شیخ نظام الدین (رح) کا نام درج کیا ہے۔

آغاز: الحمد لله الذي نور وجود حبیبه بتجلیات الجمال جميع ماما مختص است بحضرت وجود مطلق را کہ روشن گردانید ۰۰۰

اختتام: سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين  
والحمد لله رب العالمين - (۳۶)

کتابخانہ دیال سنگھ کے مخطوطے کی حالت بڑی اچھی ہے۔ ۲۰۰ ورق کا یہ نسخہ خط نستعلیق میں ۱۱۱۸ھ کا کتابت شدہ ہے۔ بر صفحے میں ۱۶ سطرين ہیں۔ کاتب کا نام صادق چشتی ثبت ہے۔ تین سو سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس پر بوسیدگی یا کھنگی کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ کاتب نے متن کی عبارات پر سرخ لکبیرین لگا دی ہیں تاکہ متن اور شرح میں امتیاز رہے۔ (۲۴) شارخ نے شیخ عراقی(رح) کو "مصنف علیہ الرحمہ" کے طور پر یاد کیا ہے اور عاشقانہ اور عارفانہ مباحث کی خوب عقدہ کشانی فرمائی ہے۔

#### (ب) معدن الاسراء : شرح لمعات عراقی(رح)

اس شرح کا یگانہ نسخہ مخطوطات شیرانی کتابخانہ دانشگاہ پنجاب لاہور میں شمارہ ۳۵۰۰/۲۷۶ کے تحت موجود ہے۔ مخطوطات شیرانی کے فہرست نگار دکتر بشیر حسین نے شرح کے نام کے بغیر صرف "معدن الاسرار" (شرح لمعات عراقی(رح)) کی ناقص الاول والاخر" لکھنے پر قناعت کی ہے۔ (۲۸) رقم الحروف نے ۱۹۵۳ء میں اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسز کی تباری کے دوران میں یہ مخطوطہ ملاختہ کر کے اسے شیخ نظام الدین تھانیسری(رح) کی تالیفات میں شمار کیا تھا۔ نسخہ واقعی کرم خورده ہے لیکن ظاہراً آغاز و انعام کے صرف ایک دو صفحے غائب ہیں باقی نسخہ سے قدرے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

نسخہ کے موجودہ آغاز میں جو تمہیدی کلمات پر مشتمل ہے حضرت عراقی(رح)، رسالہ لمعات اور شرح کا نام "معدن الاسرار" درج ہے۔ ایک جگہ "المصنف بصفات اللہ بال تمام سید الطایفہ حضرت شیخ نظام(رح) ۰۰۰-۲۹" کے الفاظ بھی رقم ہیں۔ اسلوب نگارش یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت اقدس(رح) کے کسی مخلص دوست اور محب نے آپ(رح) کی زبان فیض ترجمان سے عارفانہ مفایض سن کر اس شرح کو تدوین کیا

ہے مثلاً مرقوم ہے "الحمد لله رب العالمين رب الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" کی  
"بالنون والصنا" بر ذمہ این بنده واجب و لازم بود و  
چون از ایشان شرح واقع شدہ بود۔ بنا بر آن کلمات چند  
درسلک تقریر و سمعت تحریر انتظام یافت۔ (۵۰)  
تمہید اور مقدمہ کے بعد شرح مطالب لمعات اس طریقہ سے شروع  
کی گئی ہے:

"الحمد لله بدانکہ الف ولا م کہ در الحمد است از  
برای حسن است یا استغراق، و حمد مصدر است۔" (۵۱)

لمعات کے متن اور اصل عبارات کو "م" سے اور شرح کے مطالب و  
مضامین کو "ش" کے ساتھ مشخص کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ  
لمعات کی بڑی عمدہ شرح اور تفسیر ہے۔ نسخہ حاضر کا خاتمہ مولانا  
جامی کی ایک دو بیتی پر ہوتا ہے۔ (۵۲)

(۱۳) شعر شیخ نظام الدین تھانیسوسی (وح)

شیخ نظام الدین (رج) کی دورحیات ۱۰۱۰ھ میں تالیف شدہ  
تذکرہ "ہفت اقلیم" میں آپ (رج) کی مختصر ترجمہ حال کی آخر پر منقول  
ہے:

"فردی مطالعہ بعضی متدوالات کردہ روز مرہ درستی دارد و شعر  
پھواری میگویند این ابیات او راست: بیت

بخت بد جزیغصہ ریبر نیست  
جنگ با بخت بد میسر نیست  
از عطش مبلم اریاب شود  
کوزہ پر جا برم سراب شود

نیست گر زايدم و گر نند  
عیبم الا بیعن که از بنند" (۵۳)

علاوه ازین آپ(رح) کے جمل آثار و رسائل منشور میں اساتذہ  
کی رباعیات و ابیات کے ساتھ ساتھ آپ(رح) کے اپنے اشعار بھی مختلف  
مقامات پر مسطور ہیں۔

#### (۱۴) مظاہر و مراتب ظہور

آقانے احمد منزوی نے فہرست مشترک پاکستان (۵۳/۱)  
میں ریاض القدس و تفسیر نظامی کی ضمن میں شیخ نظام الدین(رح)  
کی دیگر مصنفات کے براہ "مظاہر و مراتب ظہور" کا نام بھی شمارہ کیا  
ہے اور لکھا ہے کہ "در این فہرست خواہد آمد"۔ لیکن راقم الحروف کو  
اس نام کی رسالی کا سراغ نہ فہرست مشترک کی باقی جلدیں میں اور  
نہ مخطوطات کی دیگر خزانوں و مراکز میں کہیں ملا ہے۔

#### نتیجہ

یہ تھی مختصر روئادا خواجہ نظام الدین تھانیسری(رح) کے  
احوال و مقامات اور آثار و تصانیف عرفانیہ کی شناسائی کی، جو تا حال  
راقم الحروف مختلف مأخذ، مخطوطات اور فہارس کی مدد سے مرتب کر  
سکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خواجہ(رح)، عرفان و افکار اسلامی  
میں نہایت اعلیٰ اور ارفع مقام و مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود ابھی تک  
گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ  
قدوسیہ میں آپ ایک خاص رنگ، آہنگ اور مشرب کے موجود ہیں۔ گو  
آپ کے مرشد شیخ جلال الدین تھانیسری(رح) (م ۱۹۸۹) اور دادا مرشد  
شیخ عبدالقدوس گنگوہی (م ۱۹۳۵) کا شمار بھی سلسلہ صابریہ کے  
صاحب تصانیف بزرگوں میں ہوتا ہے اور حضرت عبدالقدوس

گنگوہی(رح) تصوف میں صاحب تصانیف عدیدہ ہونے ہیں مگر خواجہ نظام(رح) کے احوال زندگی، علم لدنی اور آثارِ عرفانی اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ(رح) کو بارگاہ الہی اور مقصود کائنات و فخر موجودات(ص) کی روحانیت سے حصہ وافر نصیب ہوا تھا چونکہ اس کا عکس آپ(رح) کی تصانیف میں فایاں طور پر نظر آتا ہے۔

صاحب "اقتباس الانوار" لکھتے ہیں:

"اگر چہ آپ (رح) نے علم ظاہری جو قبیل و قال  
کے نام سے مشہور ہے کسی ظاہری استاد سے نہیں  
پڑھا تھا لیکن دفتر و عنده ام الكتاب اور مكتب اہلبیت  
رسی (میں رب نے مجھے تعلیم و تربیت دی) میں سے  
ایسے علوم و نکات آپ(رح) بیان فرماتے تھے کہ جن  
کا احاطہ قلم الہی کے بغیر ناممکن ہے اور آپ(رح) کی  
تصانیف ۰۰۰ میں سے بر ایک مشکوہ شریف اور مصباح  
ولایت کی معارف کا خزانہ ہے۔" (۵۳)

حضرت اقدس(رح) نے شیخ احمد غزالی(رح) اور شیخ فخر الدین عراقی(رح) کے آثار میں سے "سوانح" اور "معات" کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے شرح و تفسیر کے لئے منتخب فرمایا۔ شیخ احمد غزالی(رح) اور شیخ عراقی(رح) تصوف اسلامی میں ایک خاص مكتب کیے ٹھائیں ہے جسے مكتب عشق الہی کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔

مولانا جامی(رح) نے شیخ اوحد الدین کرمانی(رح) کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا ہے۔ نفحات الانس میں لکھتے ہیں:

"حسن ظن بلکہ صدق اعتقاد نسبت بجماعتی  
از اکابر چون شیخ احمد غزالی(رح) و شیخ اوحد الدین(رح)  
و شیخ عراقی(رح) قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کے بطالعہ

جمال مظاہر صوری حسی اشتغال می خوردہ اند، آنست  
که ایشان در آن صور مشاهده جمالِ مطلق حق سبحانہ  
می کرده اند و بصورتِ حسی مقید نبوده اند۔" (۵۵)

اس طریقہ سے شیخ احمد غزالی (رح) اور شیخ عراقی (رح) حدیث  
پیغمبر (ص) انَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَ يَحْبُّ الْجَمَالَ پر بڑی سختی سے کار بند تھے۔  
"سوانح" اور "لعتات" میں عشقِ الہی اور مراتبِ عشق و عاشق و معشوق  
کی تعلیمات کے اسباق تہایت مختصر الفاظ اور رمزیہ انداز میں مندرج  
و مسطور ہیں۔ حضرت نظام الدین (رح) نے ان دونوں رسالوں کو بطور  
خاص پیش نظر رکھا اور سالکانِ طریقت و طالیانِ حقیقت کی رائینماں اور  
سهولت کی خاطر ان کی شرحیں لکھیں تا کہ انہیں خدا شناسی اور خدا  
رسی کا راستہ آسانی سے مل سکے۔

\*\*\* \* \*\*\*

## حآخذ و مراجع

- اقتباس الانوار - تذکرہ مشائخ چشتیہ صابریہ، تالیف حضرت شیخ محمد اکرم قدوسی، ترجمہ کپتان واحد بخش سیال، بزم اتحاد المسلمين لاپور ۱۴۰۹ھ، ص ۶۹۸؛ نیز ملاحظہ کیجئے: اقتباس الانوار (فارسی)، مطبع اسلامیہ لاپور باہتمام مولوی کرم بخش، ص ۲۶۲
- انوار العاشقین - حالات بزرگان سلسلہ چشتیہ صابریہ، تالیف مولانا مشاق احمد انیشہوی، صوفی فاؤنڈیشن بہاولپور و مکتبہ انوار اسلام لاپور اشاعت دوم ۱۹۷۸ء، ص ۷۱؛ نیز ملاحظہ کیجئے: علماء بند کا

شاندار ماضی، مولانا سید محمد میان، مکتبہ محمودیہ کریم پارک  
لابور ۱۹۷۷، ۱/۳۶۵؛ خزینۃ الانفیا، منشی غلام سرور لابوری،  
مطبع شرپند لکھنؤ، ۱/۴۲

۳- انوارالعاشقین، ص ۷۲؛ اردو ملاحظہ کیجئے: اقتباس الانوار، اردو  
ترجمہ ص ۲۹۹۔ ۷۰۰

۴- با تصحیح و تعلیق جواد فاضل، کتابفروشی علی اکبر علمی، تهران  
۱/۳۵۱

۵- اذکار ابرار اردو ترجمہ گلزار ابرار، مترجم فضل احمد جیوری، اسلامک  
بک فاؤنڈیشن لابور، ۱۳۹۵ھ، ص ۵۸.

۶- ترجمہ و حواشی اعجاز الحق قدوسی، نظر ثانی سید حسام الدین راشدی،  
مجلس ترقی ادب لابور طبع اول ۱۹۶۸، ۱/۱۴۰

۷- حدائق الحنفیہ، تالیف مولوی فقیر محمد جہلمی ثم لابوری، نولکشور  
لکھنؤ، ص ۲.۴؛ تذکرہ علمائی پند، مولوی رحمان علی، مترجمہ  
محمد ایوب قادری، کراچی ۱۹۶۱ع، ص ۵۶۵

۸- اقتباس الانوار، اردو ترجمہ ۷.۷-۸.۷؛ خزینۃ الانفیا ۱/۴۶۳-۴۶۴

۹- حدائق الحنفیہ، ص ۲.۴؛ تذکرہ علمائی پند، ص ۵۲۵

۱۰- اقتباس الانوار، اردو ترجمہ ص ۸.۷؛ اقتباس الانوار (فارسی)، ص  
۲۶۶

۱۱- اقتباس الانوار، اردو ترجمہ ص ۷.۹-۷.۱۳

۱۲- سیرالاقطاب - تذکرہ خواجهان چشت، مصنف حضرت الہدیہ ابن شیخ  
عبدالرحیم، مترجم پرونیسر معین الدین در دانی، نفیس اکیڈمی  
کراچی ۱۹۷۹، ۰.۰، ص ۲۳۱؛ نیز ملاحظہ کیجئے: اقتباس الانوار،  
اردو ترجمہ ۷۱۸-۷۱۹؛ اقتباس الانوار (فارسی ص ۲۷۱؛ قصر  
عارفان، مولوی احمد علی چشتی، ترجمہ اقبال فاروقی، مکتبہ نبویہ

- لابور ۱۹۸۸، ۲۵۱/۲: اسرار العاشقین، ص ۷۵-۷۶؛ خزینہ  
الاصفیا، ۱/۴۶۶ - ۴۶۵: علماء بند کا شاندار ماضی، ۳۶۷/۱
- ۱۳ - اقتیاس الانوار، اردو ترجمہ، ص ۷۱۸
- ۱۴ - اقتیاس الانوار، اردو ترجمہ، ص ۷۱۸؛ اقتیاس الانوار، (فارسی) ص ۲۷۱
- ۱۵ - خزینہ الاصفیا، ۱/۴۶۵: اور ملاحظہ کیجئے: علماء بند کا شاندار  
ماضی، ۳۶۷/۱
- ۱۶ - حدائق الحنفیہ، ص ۴۰۲؛ تذکرہ علمائے بند، ص ۵۲۵؛ فہرست  
مخطرطات (عربی و فارسی) دیوال سنگھہ ٹرست لائزیری، مرتبہ  
مولانا سید محمد متین پاشی و مولانا ساجد الرحمن صدیقی، لابور  
۷۲-۷۳/۱: اور ملاحظہ کیجئے: تحفة الابرار، مؤلفہ و منتخبہ  
نواب مرزا آفتاب بیگ چشتی سلیمانی، مطبع رضوی دہلی،  
۱۳۲۴ھ، جدول ثانی ص ۱۷۵ کہ تاریخ وفات ۲۸ ربیع روز جمعہ  
۱۴۱۱ھ/ روز دو شنبہ از وقایات الاخبارار (رح) کی شرح احوال کے ضمن میں  
درج ذیل کتب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے:
- (۱) انس العاشقین، نسخہ خطی کتابخانہ دانشگاہ پنجاب لابور، شمارہ  
۱۹۶ ص ۴۲۴.
- (۲) نزہۃ الخواطر و بهجۃ المسامع و التوازیر، للعلامة عبدالحسینی الحسنی،  
جیدر آباد دکن ۱۳۶۶ھ، ۱۸-۴۱۹/۵
- (۳) شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور اس کی تعلیمات، اعجاز الحق قدوسی،  
کراچی پار اوگ ۱۹۶۱ء، ۵۴-۵۴۲
- (۴) مقام شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی بمانی در تصوف اسلامی، نگارش  
محمد اختر چیمہ، مقالہ ڈاکٹریٹ دانشگاہ تهران ۱۳۵۲-۵۳ دش  
[غیر مطبوعہ] ص ۴۰۰-۲۹۸

- ۱۷- خزینة الاصفیا، ۱/۴۶۳، حدائق الحنفیه، ص ۱۰۴ علم ریبا کا ذکر  
صرف اسی کتاب میں ملتا ہے - (اختر) -
- ۱۸- هفت اقلیم، ۱/۳۵۱
- ۱۹- اقتباس الانوار، اردو ترجمہ ص ۶۹۹ - ۷۰۰؛ اقتباس الانوار  
(فارسی) ص ۲۶۲ - ۲۶۳
- ۲۰- مجموعه آثار فارسی احمد غزالی (رح) به ایتمام احمد مجاهد،  
انتشارات دانشگاه تهران تیر ماه ۱۳۵۸، ص ۲۵۲ پر مصحح نے  
”شرح سوانح“ کیے زیر عنوان تین شرحون کا ذکر کیا ہے اور ”بحر  
التصوف“ ان میں شامل نہیں ہے - لہذا پماری شرح ان تینوں  
کے علاوہ ہے - اور تاحال بوتہ گمنامی میں پڑی ہوئی ہے - بقول  
آقانیہ احمد مجاهد رسالہ سوانح سات بار شائع بو چکا ہے - وہ مطبوع  
نسخے جو راقم الحروف نے ملاحظہ کئے درج ذیل ہیں: (۱) سوانح،  
پترسٹ ہلموت ریتر شرق شناس آلمانی، استنبول ۱۹۶۲ء
- (۲) السوانح فی العشق، یکوشش مهدی بیانی (رئیس ادارہ کتابخانہ ملی  
تهران) - تهران ۱۳۲۲ھ - ق - نیز تجدید چاپ والا نسخہ بھی راقم  
الحروف کی نظر سے گمراہ ہے -
- (۳) رسالہ سوانح غزالی (رح)، بانضمام انشع اللہعات جامی (رح) و چند  
کتاب عرفانی دیگر، بتصحیح و مقابله احمد ریانی، تهران دیماہ  
۱۳۵۲
- (۴) رسالہ سوانح و رسالہای در موعظہ، از آثار حضرت شیخ احمد غزالی،  
با تصحیح دکتر جواد نور بخش، انتشارات خانقاہ نعمت اللہی،  
تهران بہمن ماه ۱۳۵۲
- (۵) سوانح بتصحیح احمد مجاهد، شامل مجموعه آثار فارسی احمد غزالی،  
ص ۳۳۸-۲۶۳
- ۲۱- تفصیلی فہرست مخطوطات فارسیہ، پنجاب پبلک لائبریری لاہور،

- مرتبہ منظور احسن عباسی، لاہور ۱۹۶۳ء، ص ۱۶۱
- ۲۲- بحر النصوف، مخطوطہ ص ۲ ر
- ۲۳- تفصیلی فہرست مخطوطات فارسیہ، ص ۱۶۱
- ۲۴- ریاض القدس کے لئے ملاحظہ کیجئے: اقتباس الانوار، فارسی ص ۲۶۲؛ اقتباس الانوار، اردو ترجمہ ص ۶۹۸؛ خزینۃ الاصفیا، ۴۶۳/۱؛ انوار العاشقین، ص ۷۱؛ تحفۃ الابرار ۱۷۵/۲؛ فہرست مخطوطات فارسیہ پنچاب پبلک لائبریری، ص ۱۶۰؛ فہرست مشترک نسخہ های خطی فارسی پاکستان، تالیف آفائی احمد متزوی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد ۱۹۸۳ء، ۵۳/۱
- ۲۵- تفسیر نظامی کے لئے ملاحظہ کیجئے: حدائق الحنفیہ، ص ۴۰۲؛ تذکرہ علمانیہ پند، ص ۵۲۵، فہرست مخطوطات (عربی و فارسی) دیال سنگھہ ثرست لائبریری، ۷۳/۱؛ تحفۃ الابرار ۱۷۵/۲
- ۲۶- فہرست نسخہ های خطی کتابخانہ گنج بخش، تالیف آفائی احمد متزوی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد ۱۹۷۸ع، ۳۱/۱
- ۲۷- فہرست نسخہ های خطی فارسی موزہ ملی پاکستان کراچی، نگاشتہ سید عارف نواحی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ۱۹۸۳ء، ص ۶
- ۲۸- ملاحظہ کیجئے انوار العاشقین ص ۷۱ "ریاض القدس قرآن شریف کی دو شرحیں لکھیں ایک مکہ معظمہ میں لکھی اس کا نام مگئی رکھا۔ دوسری مدینہ منورہ میں لکھی اس کا نام مدنی رکھا۔" غالب گمان ہے یہ کہ انوار العاشقین کے مصنف یا کاتب یہ سہو القلم سے "معات" کی بجائی "قرآن شریف" کا لفظ ضبط کر دیا ہے۔ (آخر چمیہ)
- ۲۹- خزینۃ الاصفیا، ۴۶۳/۱

- ۳۰- خانم ممتاز بیگم نے اس موضع کی تخت مفصل مقالہ لکھ کر  
دانشکده ادبیات دانشگاہ تهران سے ۱۳۴۶-۴۷- ش- میں  
ڈاکٹریٹ فارسی کی ذگیری حاصل کی تھی مگر یہ گرانقدر مقالہ  
ابھی تک غیر مطبوعہ صورت میں پڑا ہے - ملاحظہ کیجئی: شمارہ  
۲۰۴/۲، ۱۸۲

- ۳۱- خود مخطوطہ میں "رسالہ ایسٹ مسی ہے حقیقت" لکھا ہے - بنا  
پریں فہرست نگار احمد منزوی نے فہرست گنج بخش (۶۰۰/۲)  
اور فہرست مشترک پاکستان (۱۴۱۷/۳) میں صرف "حقیقت" کو  
بطریق اسم رسالہ ترجیح دی ہے -

- ۳۲- خزینۃ الاصفیا ص ۴۶۳، حدائق الحنفیہ ص ۴۰۲، تذکرہ علمائے پند  
ص ۵۲۵ اور فہرست مخطوطات دیال سنگھ لاتبریری (۷۳/۱۱)  
میں، سوانح اول الذکر کیے کہ ساتھ "در بیان بفت بطن وجود" کا  
اضافہ کیا ہے، مذخر الذکر تینوں ماذ میں صرف "رسالہ حقیقت"  
درج ہے -

- ۳۳- اقتباس الانوار فارسی ص ۲۶۲؛ اقتباس الانوار اردو ترجمہ ص  
۶۹۸، تحفة الایرار ۱۷۵/۲ میں "رسالہ حقیقہ در بیان هفت بطن  
وجود قرآن" مندرج ہے - ظاہراً بہاء لنظر "قرآن" فالتو لکھا ہے - شاید  
اسی لئے آقائے احمد منزوی نے اسے حذف کر دیا ہے -

- ۳۴- پنجاب یونیورسٹی لاتبریری کے مجموعہ رسائل شمارہ ۸/۸ کے  
سرورق کے اندر دوسرے غیر پر "رسالہ در تصوف از شیخ نظام الدین  
تهاجیسری (رج)" کا نام ثبت ہے -

- ۳۵- رسالہ در تصوف، قلمی پنجاب یونیورسٹی، ص ۸ پ

- ۳۶- ص ۱۲ ر

- ۳۷- فہرست مخطوطات فارسیہ، ص ۱۷۵

- ۳۸- رسالہ در اسرار الہیہ، مخطوطہ پنجاب پبلک لاتبریری، ص ۱۱

پ-۱۲ ب

۳۹- کتابہای تصوف بزیان فارسی در پاکستان و پند، ۲۰۴/۲

۴- فہرست مشترک پاکستان، ۱۵۳۷/۳

۴۱- ملاحظہ کیجئے: فہرست مشترک پاکستان، ۱۵۳۸/۳: ۵۲/۱

۴۲- "لمات" حضرت شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی همدانی(رح) (م

۶۸۸ھ مدفون در دمشق)، ایران کے معروف عاشق پیشہ عارف،

شاعر اور نثر نگار کی گرانایہ تصنیف یہ جسمی انہوں نے رسالہ

سوانح کے طرز اسلوب میں شیخ اکبر ابن عربی(رح) کے انکار کے

خلاصہ کیے طور پر فارسی میں تحریر کیا۔ تعلیمات تصوف میں

آپ(رح) خلیفہ ابن عربی، شیخ صدر الدین قوتیوری(رح) کے شاگرد

رشید تھے۔ آپ(رح) کی تصنیف میں دیوانِ اشعار، مثنوی

عشاقنامہ، لمعات، رسالہ حدلہ فی التفسیر، رسالہ لطیفہ فی

الذوقیات اور مکتوبات قابل ذکر بیں۔

رسالہ "لمات" کلیات شیخ عراقی(رح) باہتمام سعید نقیبی میں ضمیمه کے

طور پر تهران سے چاریار ۱۳۳۵ سے ۱۳۳۸ھ- ش تک شانع بو چکا

یہ رسالہ لمعات کی پانچویں اشاعت رسالہ اصطلاحات تصوف

عراقی کی ہمراہ بد معنی دکتر جواد نور بخش انتشارات خانقاہ نعمت

اللهی تهران سے خرداد ماہ ۱۳۵۳ھ میں ہوئی۔

۴۳- اقتباس الانوار، اردو ترجمہ ۲۹۹؛ اقتباس الانوار (فارسی) ص ۲۶۲

۴۴- فہرست مخطوطات شفیع (فارسی، اردو، پنجابی)، مرتبہ دکتر محمد

بشير حسین، انتشارات دانشگاہ پنجاب لاہور، دسمبر ۱۹۷۲، ص

۲۸۶

۴۵- خواجه سلیم کے کتابخانہ میں محفوظ "شرح لمعات از شیخ نظام الدین

تھانیسری(رح)" کا ذکر مجلہ سہرورد، سہروردیہ فاؤنڈیشن لاہور

اکتوبر ۱۹۸۹، ۹۹/۹ میں بھی ملتا ہے۔

- ۴۶- دیال سنگه ثرست لاتریری لاپور، مخطوطه شماره ف ۲۹۷/۶
- ۴۷- فهرست مخطوطات دیال سنگه، ۷۲/۱
- ۴۸- اداره تحقیقات پاکستان، دانشگاه پنجاب لاپور ۱۹۶۹ ک ۲/۲۵۲
- ۴۹- معدن الاسرار، ص ۲
- ۵۰- معدن الاسرار، ص ۳
- ۵۱- ملاحظه کجنه: مقام شیخ عراقی(رح) در تصوف اسلامی، (غیر مطبوعه) ص ۳۹۹-۴۰۰.
- ۵۲- بفت اقلیم، ۳۵۱/۱
- ۵۳- اقبال، اردو ترجمه ص ۲۹۹-۶۹۸؛ اقبال الانوار (فارسی) ص ۲۶۲
- ۵۴- بتصحیح و مقدمه مهدی توحیدی پور، از انتشارات کتابفروشی محمودی، تهران ۱۳۳۶ش، ص ۵۹۱
- \* \* \* \*
- ۵۵- پنجاب پروردگاری، ۱۹۷۱، نمایه ۷۴۷
- ۵۶- پنجاب پروردگاری، ۱۹۷۱، نمایه ۷۴۸
- ۵۷- رساله در امور اسلامی، ۱۹۷۱، نمایه ۷۴۹
- ۵۸- رساله در امور اسلامی، ۱۹۷۱، نمایه ۷۵۰

سیده بلقیس فاطمه حسینی  
شعبه فارسی دهلی یونیورسٹی

بزرگ علوی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھٹے تھے جہاں حقیقت  
بر جھوٹ اور خوشامد کی ملمع سازی انسانی و تیرہ بن چکی تھی۔ جہاں  
رانے تو بیگانے تھے ہی اپنون کا بھی اعتبار نہیں رہا تھا بادشاہ کا خوف  
و گود کے دلوں میں بیٹھا ہوا اور ساواک یا ساواک جیسی تنظیموں  
کی عملی سرگرمیاں گوشت گو ناخن سے جدا کر ریتی تھیں۔ سچ بولنے  
 والا حکومت کی نگاہوں میں مجرم اور جھوٹ بولنے والا خود اپنی  
عدالت میں اپنے ہی ضمیر کا قاتل تھا۔ ایسے حوصلہ شکن ماحول میں  
”چشمہایش“ ناول مصنف کی بے باکی طبع کا مظہر ہے۔

عہد مشروطہ کے بعد فارسی ادب میں غایبی تبدیلی نظر آئی  
لگی، مصنفین اور شعرا کی کثیر تعداد ایک ہی زمانہ میں ایک ہی ملام  
پر کچھ اس طرح نظر آتی ہے جیسے کسی وادی میں ایک ہی کیا ری میں  
بہت سے گلاب کھل گئے ہوں اور سبھی ایک ہی طرح کی خوبصورتی  
ہوں لیکن کثرت میں وحدت ضرور نظر آتی ہے اور یقیناً ان میں کچھ  
پہول جسامت میں تازگی میں اور رنگ و روپ میں جدا نظر آتے ہیں یہی

حال ایران میں ادبیوں، شاعروں اور فنکاروں کا تھا۔ مثال کیے طور پر سعید نفیسی، بزرگ علوی، دهخدا، جلال آل احمد، جمالزادہ، صادق ہدایت، صادق چوبک، محمد حجازی، جمال میر صادقی، ش. پرتو، علی دشتی، وغیرہ وغیرہ یا شاعروں میں نیما یوشیج، ملک الشعرا بہار، پروین اعتصامی، سیمین بہبہانی، فروغ فرخزاد، عشقی نادر نادر پور، پرویز خانلری اور سہراب سپہری وغیرہ کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے، باوجود اسکے کہ سب کی الگ ایک شان ہے لیکن موضوع تقریباً ایک ہے ہر شعبہ میں کام کرنیوالوں کیے ذہن میں بس ایک ہی خیال رج بس ریا تھا اور وہ یہ کہ کس طرح ملک و ملت کی کشتنی کو منجدہار سے باہر نکالا جائے ایکطرف بہت سے ہم فکر و ہم خیال دانشوروں کی صفات آرائی تھی تو دوسری طرف سنسر کی قینچی اور ساواک کی جاسوسی صاحبان فکر کو کھلی ہوا میں سانس بھی نہیں لینے دے رہی تھی۔ سب الحمام سے باخبر تھے سب کو پتہ تھا کہ اس چنان سے نکرا کر چور چور ہو جائے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا۔ لیکن جب ظلم سر انہاتا ہے تو مظلوموں کی گھٹی گھٹی آپوں کیے دھوڑ اور تنہائی میں نپکتے ہونے آنسوؤں کے سیلاں کو کوئی روک نہیں سکتا یہ اپنی راہ خود ڈھونڈہ نکالتے ہیں "چشمہایش" میں ایسے ہی ماحول کی عکاسی ہے۔

ناول نگاری بغیر کسی تمہید کیے زندگی اور معاشرہ کو لگتے گھن کی نشاندہی کی ہے۔ ناول کا آغاز اس جملہ سے ہے کہ تهران شهر میں ایک خلقانی کیفت طاری تھی، کسی کی سانس بھی نہیں نکل رہی تھی۔ خاندان والیے اپنوں سے بی ڈر ریے تھے۔ شاگرد استاد سے، استاد چپراسی سے چپراسی حمام سے بہار تک کہ لوگ اپنے وجود سے خائف و ترسان تھے اور اپنے ہی سایہ سے بدک ریے تھے۔ گھر، دفتر، مسجد، مدرسہ غرض کوئی جگہ کسی کے لئے محفوظ نہ تھی سبھی خائف تھے کہ نہ جانے کون اور کہاں کوئی جاسوس ہو۔ سینما گھروں میں جب

شاہی ترانے گائے جاتے تھے تو لوگ اپنے چاروں طرف وحشت سے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی بیٹھا نہ رہ جائے اور دوسروں کے لئے ایک مصیبت کھڑی پر جائے۔ اخباروں میں جھوٹی تعریف کے سوا کچھ بھی نہ تھا اور عوام میں خبروں کے لئے ایک تشنگی تھی۔

اتا لکھ کر بھی بزرگ علوی کو تسلی نہ ہوتی اور وہ ملک کی حالت کو سکوت مرگ آسا، سے تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پورے ملک پر موت کا سنانا چھایا ہوا تھا اور جان کے لالے پڑے تھے ایسی حالت میں ایران کا ایک زبردست فنکار جو اس صدی کا زبردست نقاش تھا اور جسکی نقاشی کے خریدار یورپ اور امریکا تھے گمنامی کے عالم میں موت کے دامن میں منہ چھپا لیتا ہے۔ ناول کا افتتاحی صفحہ قاری کی تمام تر توجہ کو ایک ایسی سیاسی فضا کی طرف مرکوز کر دیتا ہے جہاں تناؤ اور گھنن کا احساس حد سے زیادہ ہے ایسے میں ایک مشہور فنکار جسکی قدر و قیمت کا اندازہ مفکرین شرق و غرب کو ہو چکا ہو جو اپنے ملک کی آبرو پر اسکی موت کی خبر سرکاری اخبار میں صرف دو سطروں میں چھپنا مفکرین ملک و ملت کی توبین کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔

کہانی کا پلاٹ نیا نہیں ہے ملکی سیاسی بحران اور اسلامی تہذیب کی گرتی ہونی دیوار داستان کا موضوع ہے۔ عوام میں بادشاہ سے نفرت و بیزاری اور اسکے اقتدار کی جزوں کو اکھاڑ پھینکنے کی فکر اور حزب مخالف کی خفیہ کارکردگی وہ بھی ایسی حالت میں جب ہر ناکہ پر حکومت کے پہنچے بیٹھے ہوں بہت بھی اہم ہے۔ قلم کی دنیا میں جب شہرت قدم چوم رہی ہو ایرانی گمنامی کے سمندر میں غرق ہونا اپنا مستقل شعار بنا چکا تھا، سنسر کا خوف ایک طرف انہیں ہلاکت کے غار میں دھکیلتا تھا تو دوسری طرف ملک و ملت کے لئے کچھ کر دکھانے کے عظیم جذبہ کو سہارا دیتا تھا، راتوں کی تنہائی، سینما گھروں کی

تاریکی اور پارکوں کی رونقیں یہ وہ جگہیں تھیں جو پیغام رسانی کے مخصوص مرکز تھے۔ لوگ اپنے فرضی ناموں سے اس تحریک میں کام کر رہے تھے۔

اس دور میں حکومت کے خلاف کام کرنیوالوں کے ذمہ میں یہ مستقلہ اچھی طرح روشن تھا کہ استبداد کے تناور درخت کو کائیے کے لئے بہادری، شہامت، طاقت اور تیش کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نہ جانیے کون سے معمولی شخصیت ایسا کام المجام دے سکے جو بڑی سے بڑی طاقت نہ کر پائے اس لئے اس تحریک میں شامل ہر فرد کا وجود اتنا ہی اہم تھا جتنا بڑی بڑی کلوں اور مشینوں میں چھوٹا پیچ۔ حکومت کے باته اتنے لمبے تھے کہ وہ نہ صرف ایران بلکہ بورپ جیسے مالک میں بھی طالب علموں کی زندگی سے کھیل رہے تھے حقوق کی پامالی اس وقت کا شعار تھا ہر پڑھا لکھا انسان جسمیں سوچنے سمجھنے اور پیغمبری کی صلاحیت نظر آتی تھی، شاہی ایجنتوں کی نگاہیں اس کے تعاقب میں رہتی تھیں اور اس پر طرح طرح کی الزامات لگا کر اس کو جلاوطنی و بے روزگاری کے عالم میں موت اور خودکشی کے دھانے پر پہنچا دیا جاتا تھا۔

یہ کہانی ایک نقاش ماکان کی نہیں ہے بلکہ کتنے ہی علی شریعتی، آیت اللہ سعیدی، آیت اللہ غفاری اور مصطفیٰ خبینی کی یہ جنہوں نے جلاوطنی، دریدری اور غربت کے تازیانے سہتے ہوئے موت کو گلے لگایا۔ یہ کہانی انکی یہ جنکی موت پر اپنے بھی آنسو نہ بھا سکے یہ کہانی انکی یہ جنکی تصویر تحریر اور تقریر سب کچھ رمز تھی یہ کہانی انکی یہ جنکے جنازے تو انہے لیکن ان میں شرکت غمخواروں نے نہیں بلکہ خونخواروں نے کی، یہ کہانی انکی یہ جنکی جگہ عوام کے دل تھے، جن کے استقبال میں تحسین کے غلغلے اور خوش آمدید کے نعرے

بلند ہوتے تھے بہ کہانی انکی ہے جنکی موت پر خوش و فرزند کے نالے  
خاموش تھے

یہ داستان ناول کی پیروٹن فرنگیس کی تنہا داستان نہیں جسے  
ماکان سے عشق تھا یا بود کہنیے جو ماکان کے دل کی دھڑکن تھی جس  
نے پہنسی کے پہنڈے سے چھڑائے کبلائے ظالم افسر کو فریب عشق دیا  
بیگناہ کو سولی کے تختہ سے اتارنے کے صلہ میں حسن کا نذرانہ پیش  
کیا اور وہ بھی اس خاموشی کے ساتھ کہ ماکان کو اس کالیے بازار میں  
کئے ہوئے دھنڈے کی کانوں کاں خبر بھی نہ ہوئی اس کے بقول: مردونگی  
ہوا ذہوس ان پر قربان ہو جانیوالی مجھ جیسی لا تعداد عورتوں کی  
زندگیاں ہیں"

جو انوں میں بیداری کا یہ عالم تھا کہ اپنے والدین سے ٹکرا ریے  
تھے اپنے حصول مقصد کے لئے اپنی بہترین پناہ گاہ اپنے عزیز ماں باب  
اور مادرگیتی کو چھوڑنے پر راضی تھے انہیں احساس تھا کہ جوراہ اپنائی  
ہے یہ قربانیوں کا راستہ ہے بزرگ علوی نے عوام پر ڈھانے گئے ہر ظلم کو  
اسطح قلمبند کیا ہے کہ طرز بیان بھی دلکش ہو اور حالات کی صحیح  
تصویر کشی بھی ہو جائے۔ ایک مقام پر آراضی و املاک سے متعلق  
بادشاہ کی پالیسی پر ایک اشارہ میں تنقید کی ہے کہ مازندران کی جائیداد  
کیے عوض تم کو جو املاک ملی ہے وہ اتنی کم ہے کہ تمہارے والد کا  
حکومت سے دل برداشتہ ہونا یقینی ہے۔

زن و مرد کے اختلاط سے ایرانی معاشرہ کے نازک تار جھنجھنا  
ریے تھے۔ مغرب کا انداز مشرقی ماحول میں کارفرما تھا روشن فکر و  
پاکباز خواتین بھی اپنے حساس دلوں کو آتشین مشروبات سے گرم ریں  
تھیں حسن کبھی بازار عشق کی گرمی کا سبب تھا تو کبھی رشوت اور  
جرائم کی دکانوں پر کھنکھناتا ہوا سکھ کبھی بھی حسن توہین نسوائیت

کا سامان تھا تو کبھی استبداد کی قربانگاہ پر چڑھائی جانیوالی بھینٹ عورتیں ہوا و ہوس کا نشانہ بن رہی تھیں بزرگ علوی کی روح کا کرب آنیوالی نسلوں کو اس دلدلی زندگی اور اس "جن زار" سے روشناس کراتا ہے ہر طرف بھیانک ماحول اور موت کے منڈلاتیے سائے پیں اب اظہار رنج و غم کا ایک بی سامان تھا اور وہ تھیں باہمی سرگوشیاں، جن بام ودر کو چاہنے والوں کی چیخ پکار کی گونج کا انتظار تھا ویاں "سکوت مرگ آسا" کی ڈھلتی ہوئی شام تھی۔

معباری ناول وہ ہے جو ملک کے ثقافتی سماجی اور اقتصادی حالات کا آئینہ دار پو بزرگ علوی نے سماج کے ایک ایک پہلو کو اس چابکدستی سے عوام کے سامنے پیش کیا ہے کہ کوئی نقش کبا حسین کیا بد صورت نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے پاتا ایک جگہ جشن کشف حجاب" (شاپی دریار میں جشن ترک پردو) کے متعلق ایک نقاشی کا ذکر کرتے ہیں، استاد ماکان کے منسے کے بعد انکی پیشنتگر کی نمایش ہے دیکھنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ بزرگ علوی رسم کشف حجاب کی ان قام برانیوں کو جو اسلامی اقدار کی منافی ہیں نیز ہزاروں سال پرانی ایرانی روایت کے خلاف ہیں، تماشہ بینوں کی تاثرات اور نقاشی کی تشریعات کے ذریعہ پیش کرتے ہیں، اس ضمن میں انکی پہلی بحث نقاشی کے طول و عرض سے ہے جو ڈھائی میٹر لمبی اور تقریباً سو یا ڈیڑھ میٹر چوڑے کینوس پر ہے۔ وہ عوام کو متوجہ کرانے کیلئے عام تفصیلات سے قبل اس مرقع کو شاہکار بتا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز اس نقاشی کے ذریعہ پیش کی گئی ہے وہ بہت ہی ایم ہے۔

پردو ادھیز مرد اور عورت کی تصویر ہے تین حصہ کینوس مرد کے اور کوٹ سے ڈھکا ہے یہ خود ایک طنز ہے جسے ڈھکا چھپا ہونا چاہیے وہی عربار ہے کینوس کے بقیہ حصہ پر کمرہ سے باہر نکلتی ہوئی

"موم" جیسی نازک اندام ۴۵ سالہ عورت ہے وہ خرد کہتے ہیں "لباس  
برتن این زن گریہ می کند" (لباس اسکے جسم پر ماتم کر ریا ہے، سر پر  
رین لگی ہونی بڑی سی انگریزی ہیث ہے جس سے کافی حد تک سر اور  
گردن چھپی ہے، شاہی فرمان تھا کہ عورتیں فرنگی ثوبی پہن کر آئیں  
لیکن تصویر میں سیاہ شال بھی ہے اسکے سے گلے میں بندھے اور  
فرنگی ثوبی اسکے اوپر ہے، تماشہ بین خاتون دیر تک مرقع کو دبکھتی ہے  
اور پھر چلتے ہوئے سوال کر بیٹھتی ہے کہ ثوبی کے نیچے شال کبوں باندھ  
رکھی ہے؟ اسے جواب ملتا ہے ثوبی تو بادشاہ کا حکم تھا لیکن اسلامی  
فکر اسے اجازت نہیں دیتی کہ اسکے سفید بالوں پر نا محروم کی نظر  
پڑے اسلئے اسے قدیم شال اپنے سر پر اوڑھ لی ہے کم از کم گردن اور  
سفید بال تو چھپے رہیں

آزادی قلم نہ ہونے کی بنا پر مصنفوں رمز و ایما اور ملامتوں سے  
کھیلتے رہے اور اسوقت کا ادب بڑی حد تک علامتی ادب کا گھوارہ ہے وہ  
شر ہو یا شعر نقاشی ہو یا فن ہر جگہ اسکے نمونے ملتے ہیں عورت کی  
بچکچاہت اور اسکے تاثرات صاف پڑتے ہیں کہ فرنگی ثوبی پہن کر  
آدمی فرنگی نہیں ہوتا جبکہ اسکی فکر نہ بدل جائے اس طرح مذہبی  
تہذیب زن و شوهر کے درمیان حجاب کا قائل نہیں، لیکن بہ مشرقی فکر  
ہے جو مصنف کے کرب کو ان لفظوں میں ابھار رہی ہے کہ اسکا حلیہ  
ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شویر کیے سامنے بھی پیش نہ کرے اخلاق اور  
اسلام کی گرتی ہونی دیوار کے اس درد کو بزرگ علوی نے اس نقش کے  
حال زار کیے ذریعہ پیش کیا ہے لکھتے ہیں کہ شکل و صورت سے اندازہ  
ہوتا ہے کہ عورت ایک باوقار گھرانے سے متعلق ہے وحشت و اضطراب  
چہرہ سے غایبان ہے لوگوں کیے سامنے مذاق بتتے کا احساس اسے کھائے جا  
ریا ہے لیکن کوئی چارہ نہیں کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے کہ سبھی اپنی  
بیویوں کے ساتھ جشن میں شریک ہوں اسکے چہرہ کا تاثر کچھ اس طرح ہے

جیسے اسے کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہوں، کانٹے اسکے ننگے بدن کو زخمی کر رہے اور وہ اس زخم و خلش کو برداشت کر رہی ہو مرد ان باتوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں لیکن، کسی کو کچھ اور ہی توقع ہے، جو چیز لوگوں کے لئے معمولی اور سادہ تھی وہ دوسروں کے لئے امید ہے توقع، کا لفظ معنوی عمق کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ فکر کو رجائب کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ وہ عوامل تھے جو انقلاب اسلامی کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے اور پھر غونہ ذیل میں لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے جملوں نے اسے اور بھی وسعت بخشی ہے ایک مختصر سی عبارت!

"زن ناشناس بعمق فاجعہ ای کہ درین پرده بزیان

گوریا بیان شدہ پی پرده بود، داستان درد ناکی را این پرده

بیان کرده بود۔ اینطور کہ کشف حجاب نمی کنند این زن

با زیم چادر بسر خواہد کرد" (تلخیص)

یہ وہ الفاظ ہیں جو بزرگ علوی کے روح کے کرب کو غایبان اور مستقبل میں سالہا بعد آئیوالی انقلاب کی پیش بینی کرتے ہیں

ایک دوسری نقاشی، خانہ ہای رعیتی، کے نام سے ہے جسمیں عوام پر ہونیوالے مظالم کی عکاسی کی گئی ہے بادشاہ نے رعایا کے ہی پیسے سے کچھ مکانات تعمیر کرانے اور انھیں حکم دیا گیا کہ یہ مکانات صاف ستھرے رہیں سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ ان میں رہتے ہیں تو وہ مکان گندے ہو جائیں گے اور اگر نہ رہیں تو جانیں کہاں اسلئے کہ حکام کے اعلیٰ افسروں نے جب یہ دیکھا کہ صفائی کے ضمن میں انکی سختیوں کی تاب نہ لاگر سب اپنے نونے پھوٹے کچھے مکانوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں تو ایک روز خونخواروں کے تباشوں نے اسے بھی مشی کا ڈھیر بنا دیا اب یہ بیچارے دیہاتی پریشان ہیں کہ کیا کریں گہر میں رہتے ہیں تو بادشاہ کے مقابلہ سے پہلے ہی مکان گندے

پو جائیں گے اور جو سر چھپانے کی جگہ تھی وہ توزڈالی گتی ہے اب آزاد دیہاتی خوف و ذلت کے عالم میں ایک میدان میں اپنے بال بچے مال و اسیاب اور چوپاپوں کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں مازندران کی سردی اور برف باری میں باہر کھلے میدان میں رہنا موت کو دعوت دینا تھا کہیں "حکم حاکم مرگِ مفاجات" اور اب مکان کی حفاظت میں اپنے بچوں اور جانوروں کو قضا و قدر کے حوالے کر کے راضی ہے رضا رہنا تھا۔ کینوس کا پر نقش ایک داستان بیان کر رہا ہے۔ گرتی ہوئی برف، چند روشن چراغ، ناکافی جلتے الاُز، سردی سے نہشہرا ہوا کتا مرتبے ہوئے بیل، کسپرسی کا عالم غرض:

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا  
کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا

حکومت کی مشینری نا قدروں اور جاپلوں کی دنیا تھی وہ انہیں "لاشخور" یعنی گدھ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور فن ناشناسی کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی انہیں علم و هنر کی قدر و قیمت کا احساس نہ تھا: "این لاشخور ہا کہ باندازہ سر سوزنی بہ هنر استاد و قعنی نمی گذاشتند۔" انکی نا اہلی کی یہ انتہا تھی کہ وہ کرسیاں جو اپل علم و فن کے لئے مخصوص تھیں اس پر جہالت کے بندر اچک رہے تھے۔ مثلاً وزیر فرهنگ و هنر کے متعلق ذکر ہے کہ "آدمی برا نہیں ہے مگر گدھا ہے فن سے اسے کونی سروکار نہیں":۔ آدم بدی نیست اما باندازہ گوسالہ از هنر سر رشتہ ندارد"

ملک کے اعلیٰ حکام کے سوچنے کا انداز اور ملک سے متعلق انکے نظریات ذیل کی چند سطروں میں ثایاں ہے "اینہا بابا یہی ہستند کہ مینھواہند چند صباح درین ملک زندگی کنند شریک دزد و رفیق قافله، کسی بہ کسی نیست" (یہ حکومت کے وہ دادا ہیں جو چاہتے کہ گنتی کے

چند دن گزاریں بے چوروں کے شریک اور ریزنون کے قافلہ کے رفیق انہیں  
کسی سے کوئی سروکار نہیں) انسان کی زندگی سے کھیلنا ان کا شعار  
تھا۔

جب ماکان کے گروہ والوں کی گرفتاریاں بڑھنے لگیں تو فرنگیس  
ناول کی ہیروین بلدیہ کے افسر سے کہتی ہے کہ ادھر چند دنوں میں تم  
نے کتنے بیگناہوں کو پکڑا اور انہیں ستایا تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ  
جس ملک کی آبادی دس ملین ہو اگر اسمیں سے دس پندرہ گرفتار بھی ہو  
گئے تو کیا ہوا۔ ۱۸۹۰ ص

کچھ سرکاری مدرسون کا شمار عوام کی توجہ میذول کرانے کیلئے  
تمہا تاکہ لوگ حکومت کو قدر دان اور ہنرشناس سمجھیں لیکن داستان  
کے تار و پود کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اسکی اندریں کیفیت کا  
انتہائی موزونیت کے ساتھ ذکر ہے:- استاد ماکان جس مدرسہ میں  
مدرس تھے انکی جلاوطنی کے بعد اسمیں زیادہ تر تالا ہی لگا رہتا ہے۔  
۱۳ سال کی مدت میں لاکھوں ترمان اسپر خرچ ہوتے ہیں ہر ماہ ہے پناہ  
رقم اس پر صرف ہوتی ہے۔ اس مدرسہ کے فارغ التحصیل کم از کم تین  
سو لذکیے کاتنوں سے لیکر بینک اور زراعت نیز دوسرے شعبوں میں ضرور  
کام کر رہے ہیں لیکن اس تیرہ سال کی مدت میں تیرہ عدد بھی ہنر  
مند یا نقاش پیدا نہیں ہوئے اسکے پرنسپل کی آمدنی اور تنخواہ بھی  
بہت ہے لیکن کرسی وزارت کے ساتھ ساتھ اسکے پرنسپل بھی بدلتے  
رہتے ہیں۔ سال میں دوبار تو بدلتے ہیں۔ ص ۲۳

بزرگ علوی نے نام کے انتخاب میں باریک بینی سے کام لیا ہے  
خود مصنف کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ نام ایسا رکھا جائے کہ  
قاری کی نگاہوں میں ناول زیادہ سے زیادہ دلچسپ بن سکے ماکان کی  
نقاشی کا نام چشمہا، بھی ہو سکتا تھا لیکن "چشمہایش" کیوں؟ یہ سوال

پڑھنے والوں کے دلوں میں استاد ماکان کی شخصی زندگی نیز اسکی ہیروئن کے بارے میں شوق تجسس پیدا کرتا ہے جسکی دو خریصورت مرموز آنکھیں ناشہ بینوں کے دلوں میں ایسی گرمی اور ترب پیدا کرتیں کہ دیکھنے والوں کے دل پکھل جاتے اور ہے ساختہ آنسو بھنے لگتے ہیں کبھی ایسا نظر آتا تھا کہ یہی وہ قاتل نگاہیں تھیں جو ماکان کے دل پر چرکے لگاتی تھیں اور آن کی آن میں انہی آنکھوں کے لئے شدید نفرت کا احساس ہونے لگتا تھا۔

دنیا میں چند چیزوں انسان کو جینے اور مرنے پر مجبور کرتی ہیں حق، محبت، وفا و مظلومی انسان کے لئے مشعل زندگی ہیں۔ نفرت، ظالم، باطل یہ وہ نشرت ہیں جنکی کچھ تو تاب ہی نہیں لا پاتے اور حادث سے نکرا کر مر جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندوں کے لئے سلیقہ زندگی اور غونہ عمل بنکر جہد للبقا کا سبق دیتے ہیں۔ ناول نگار نے ان تمام موضوعات کو رمز و کتابہ حقیقت و مجاز اور عشق و وفا کے تار و پود میں سو کر عوام کے سامنے پیش کیا ہے ہر موضوع کے بیان میں تکنیکی ایجاز کو بڑا دخل ہے۔

بزرگ علوی کی روانی قلم اور سحر بیانی ناول کی بزم نشاط کو سیاست کی بساط نہیں بننے دیتی۔ وہ مرض اور بیمار معاشرہ کے لئے میدان عمل تو تیار کرتا ہے لیکن پند و نصانع کی کڑوی دوائیں نہیں پیش کرتا۔ نہ ہی کسی منبر سے واعظ کی آواز بنکر فضاؤں میں ارتعاش پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مظلوم کی کراہ قید خانہ سے سنائی دیتی ہے لیکن تاریکی زندان پیچھا بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ ناول نہ صرف ماضی کی کہانی اور حال کا بیان تھا بلکہ اس مستقبل کا متلاشی تھا جو آج حال بن چکا ہے۔

بزرگ علوی نے جو کچھ بھی اس ناول میں لکھا وہ ایران اور

ایرانیوں کے لئے تھا لیکن جو مصلح کی حیثیت سے قلم انہاتا ہے اسکا پیغام جهانی ہوتا ہے اور اسکی شخصیت بین الاقوامی ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مقصد تلاش دنیا، پر خوری، خود خواہی اور تن آسانی نہیں یہ وہ موضوعات ہیں کہ انہیں مقالوں میں تو پیش کرنا آسان ہے لیکن، ناول میں جگہ دینے کے لئے ناصحانہ قلم انہاتا پڑے گا لیکن بزرگ علوی نے ان افکار کو اتنی فنی استعداد کے ساتھ ہیرو کے کردار میں سموسا ہے کہ پڑھنے والا بالواسطہ یا بلا واسطہ زندگی کی قدروں سے روشناس ہوتا ہے۔ استاد ماکان ان لوگوں سے بیزار تھے جو شکم پرور تھے۔ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا تو در کنار وہ انکی بزم سے انہے جاتے تھے۔ اسکے برعکس جہاں خلوص و نیک نیتی تھی ان لوگوں سے انہیں عشق تھا انکی شادی غم میں شریک تھے۔ انکی مدد کرتے تھے۔ اگر ایسے لوگوں کے درمیان جنکا مطبع نظر صدق و صفا اور راستبازی تھی اور معیار زندگی ماکان سے کم تھا استاد ماکان اپنے آپ کو اتنا چھرنا ظاہر کرتے تھے کہ انکے آبگینہ احساس کو نہیں نہ لگے۔

بزرگ علوی کا خاص مقصد جو پر انسانیت کو پیش کرنا ہے۔ وہ مادی خواہشوں اور خوشیوں کے محل کو ایک جملہ سے مسماں کر دیتے ہیں کہ فنکار نقاش اور ہنر مند بننے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ تم بقیناً انسان بنو، انسان شہرت کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہی، لیکن بزرگ علوی "انا" کی دنیا سے نکل کر بہت دور "تم" اور "تو" کی دنیا میں جینیے کو کمال حیات سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زندگی صرف تیرا اپنا وجود ہی تو نہیں ہے: "آخر زندگی فقط وجود خود تو نیست۔" زندگی کا تصور شرعاً حکماء اور فلسفیوں نے مختلف انداز سے پیش کیا ہے عجب نہیں یہ زندگی کی وہ تفسیر ہو جسے حرف آخر کہا جائے۔



ذاکر سید معین الرحمن

صدر شعبہ اردو

گورنمنٹ کالج، لاہور

تیرپولی، لندن کیہ کولکاتہ بیالکریہ لارج چیمپئن سسچ اور

لندن کی ٹالکٹھے ایڈیشن کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں

لندن لاٹلیور پیڈنٹ ایڈیشن کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں

لندن لندن لندن مکتبہ یونیورسٹی ڈیلی کیاں کیاں کیاں

## "دستبُو" کا ایک منفرد

### قیمتی ایڈیشن

اج کی صحبت میں غالب کی کتاب "دستبُو" کے ایک نادر نسخے کی طرف متوجہ کرانا مقصود ہے جو پنجاب یونیورسٹی لائبریری، لاہور میں محفوظ ہے۔ لیکن اس نادر نسخے کے بارے میں کچھ کہنے سے قبل بجائے خود "دستبُو" کے بارے میں کچھ تمهیدی اور تعارفی کلمات شاید ہے محل نہ ہوں۔

"دستبُو" (A Posy of Flowers) اپنے مضمون و موضوع اور اندازِ نگارش و گزارش ہر دو کی بنا پر تصانیف غالب میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ غالب نے یہ کتاب ۱۸۵۲ء کی جنگ آزادی کے دنوں میں روزنامچے کے انداز میں لکھی۔ کتاب میں ۱۱-منی ۱۸۵۴ء سے ۳۱-جو لاتی ۱۸۵۸ء تک مصنف کی سرگزشت بیان ہوئی ہے۔ یہ حیثیت اقتضائی مقام، کتاب میں عام واقعات و حالات اور ہر بناء تقریب شهر و سپاہ کی رواداد بھی آگئی ہے اور یہ سرگزشت ایسی فارسی قدیم میں بیان

ہوئی ہے جس میں نہ خود غالب کی کوئی اور کتاب لکھی گئی اور نہ "دستنبو" کے لکھے جائے کے بعد سے آج تک بُر عظیم پاک و بند میں کسی اور نے کوئی کتاب اس زبان میں لکھی۔

"دستنبو" کا ذکر غالب کی خطوط میں بار بار آیا ہے:  
 "میں نے گیارہوں منی ۱۸۵۰ء سے اکتسوین جولائی ۱۸۵۸ء تک کی روداد نشر میں عبارت فارسی نا آمیختہ بہ عربی لکھی ہے۔ "دستنبو" اس کا نام رکھا رکھ دیکی کہے۔"

(غالب، بنام انور الدولد شفق، اکتوبر ۱۸۵۸ء)  
 "فارسی بے آمیزش لفظ عربی لکھی ہے اور فارسی بھی وہ فارسی قدیم ک جس کا اب پارس کے بلاد میں نہیں رہا، تابہ پندوستان چہ رسد؟"

(غالب بنام غلام نجف خاں (۴)، ۱۸- جولائی ۱۸۵۸ء)

"التزام اس کا کیا ہے کہ دساتیر کی عبارت بعنی پارسی قدیم لکھی جائے اور کوئی لفظ عربی نہ آئے۔ جو نظم اس نثر میں درج ہے وہ بھی بے آمیزش لفظ عربی ہے۔ ہاں، اشخاص کے نام نہیں بدلتے جاتے، وہ عربی، انگریزی، بندی، جو بیس، وہ لکھ دیئے ہیں۔"

(غالب، بنام منشی پرگپال تفت، ۱۷- اگست ۱۸۵۸ء)

"دستنبو" غالب کی زندگی میں تین بار شانع ہوئی۔ دو بار جُدایاں اور ایک بار کلیاتِ نثرِ غالب" کے ساتھ (۱۱)۔ "دستنبو" طبع اول (نومبر ۱۸۵۸ء) کے نسخے بہت عام نہیں ہیں۔ غالب نے اس کے خوب صورت اور جلد تر اشاعت کا خاص اعتماد کیا تھا۔ کتاب، والی ان دور کے

اتالیق رائے امید سنگھ کی، ان معنوں میں اعانت کیے ساتھ چھپی کہ وہ  
پچاس جلدیوں کی پیشگی خریدار ہونے تھے جن میں سے چالیس انہوں نے  
غالب کو بدیہہ دیے دینا تجویز کیا تھا (۲)۔

"دستنبو" طبع اول کے حسنِ طباعت، روشنِ کتابت تصحیح اور  
تذینیں کا غالب نے بطورِ خاص بڑا خیال رکھا اور اعتمام کرایا:

بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کتاب دو  
جزو یا چار جزو کی ہو۔ چھ جزو سے کم نہ ہو۔ سطر  
دس گیارہ سطر کا ہو مگر حاصلہ تین طرف سے بڑا رہے۔  
شیرانے کی طرف کا کم ہو۔ اس کی سوا یہ کہ کاپی  
کی تصحیح ہو غلط نامیں کی حاجت نہ پڑے۔۔۔ کاغذ  
شبودام پوری ہو، خیر مگر سفید اور مهرہ کیا ہوا اور  
لعلاب دار ہو۔ پھر یہ کہ حاشیے پر جو لغات کی معنی  
لکھئے جائیں تو اس کی طرزِ تحریر اور تقسیم، دل پسند  
اور نظر فریب ہو۔ حاشیے کا قلم، یہ نسبت متن کیے قلم  
کیے خفی ہو۔"

(بنام منشی نرائن آرام، ۳۱۔ اگست ۱۸۵۸ء)

تصحیح پر زور اس وجہ سے تھا کہ "عبارت کا  
ڈھنگ نیا ہے" اور تذینیں کی فکر اس لیے تھی کہ کتاب  
کو حکام عالی کی نظر سے گزارنا تھا:

"مبالغہ اس کتاب کی تصحیح میں اس واسطے  
کرتا ہوں کہ عبارت کا ڈھنگ نیا ہے صحیح کا درست  
پڑھنا بڑی بات ہے۔ اگر غلط ہو جائے تو وہ عبارت نبی

خرافات ہے۔"

(بنام مرزا حاتم علی بیگ مهر، ستمبر ۱۸۵۸ء)

"حضرت! چار جلدیں بہاں کے حکام کو دون گی اور دو جلدیں ولایت کو بھیجوں گا.... یہ ہوس تھیں کہ ان چھے جلدیں کسی کچھ تزئین و آرائش کی جائیے۔"

(بنام مهر، ستمبر ۱۸۵۸ء)

لیکن خاص جلدیں جو حکام کی نذر کرنا تھیں ایک مرحلے پر چھ کی بجائی سات ہو گئیں۔ ان کی تفصیل مرزا حاتم علی بیگ کے نام غالب کے ایک خط مرقومہ ۳۰ ستمبر ۱۸۵۸ء سے پمارے علم میں آتی ہے:

"رات ایک بات خیال میں آتی ہے لیکن چونکہ تحکم و کار فرمائی ہے کہتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دو جلدیں طلاقی لوح کی ولایت کے واسطے تیار ہوں گی اور وہ چار جلدیں جو بہاں کے حکام کے واسطے درکار ہوں گی، اُن کی صورت یہی ثہہری ہے کہ سیاہ قلم کی لوح اور انگریزی جلد پھر سمجھا چاہیے کہ یہ چار جلدیں کس کس کی نذر ہیں؟ نواب گورنر جنرل بہادر، چیف کمشنر بہادر، صاحب کمشنر بہادر دہلی، ڈپٹی کمشنر بہادر دہلی۔ یہ میری کیا بد وضعی ہے کہ جناب ایڈمنیشن صاحب کی نذر نہ بھیجوں۔ آخر گورنمنٹ کی نذر انہیں کی معرفت بھیجوں گا۔ نہ صاحب، ایک جلد اُن کی نذر بہت ضروری ہے۔ آپ گنجابش نکال کر جیسی یہ چار جلدیں بنوانیں، ایک اور بھی ایسی ہی بنوالیں۔ یقین

ہے کہ آپ اس رائے کو پسند فرمائیں گے اور چار کمی  
جگہ پانچ بنوالیں گے۔ یہ عرض مقبول اور یہ گستاخی  
کہ بار بار آزار دیتا ہو، معاف ہو۔"

سات طلاٹی لوح کی پُر تکلف جلدیں کے علاوہ جو حکماں عالی  
مقام کو نذر جانا تھیں، ایک مزید خاص نسخے کی فرمایش، خاص اپنے  
لینے مطبع کے مالک، منشی شیونرائن سے کی گئی:

"دو جلدیں پُر تکلف اور پانچ جلدیں بہ نسبت  
اس کیے، کم پُر تکلف میرزا حاتم علی صاحب کے عہدہ  
ابتمام میں بیس۔ اس لیے ہم کو اور تم کو کچھ کام  
نہیں۔ وہ جیسی چاہیں بنوا کر بھیج دیں۔ تم ایک جلد،  
بس زیادہ صرف کیوں کرو؟ اپنے طور پر اپنی طرف سے  
جبسی چاہو بنوا کر بھیج دو۔ میں.... اس کو تمہاری  
نشانی جان کر اپنی جان کی برابر رکھوں گا۔"

(غالب، ۲۳ - اکتوبر ۱۸۵۸)

کتاب "دستنبو" بالآخر چھپ گئی اور غالب کی حصہ رسد کی  
چالیس (۳۰) کتابوں میں سے تینتیس (۳۳) کتابیں اپنیں ۱۲ نومبر  
۱۸۵۸ کو مل گئیں:

مکمل جمعی کے دن ۱۲-تاریخ نومبر کی،  
تینتیس (۳۳) جلدیں بھیجنی ہوئی برخوردار شیونرائن کی  
پہنچیں۔ کاغذ، خط، تقطیع، سیاہی، چھاپا سب خوب۔  
دل خوش ہوا۔"

(بنام ہر گربال تفتہ)

"دستنبو" کی تینتیس (۳۳) نسخے غالب کو ۱۲ نومبر ۱۸۵۸ء

کو ملے اور ایک پفتے کے اندر اندر بہ سب تقسیم بھی ہو گئے۔ بر گویاں  
تفتہ کو ۱۸- نومبر ۱۸۵۸ء کے ایک خط میں غالب لکھتے ہیں کہ:

"صاحب! تینتیس (۳۳) کتابیں پہنچ گئیں اور

تقسیم ہو گئیں۔"

اغلب بہ ہے کہ اُن تینتیس (۳۳) کتابوں میں سے جو ۱۲- نومبر  
سے ۱۸- نومبر ۱۸۵۸ء تک کے درمیان، غالب نے دوستوں اور شاگردوں  
میں تقسیم کیں۔ ایک کتاب پنجاب یونیورسٹی لائبریری، لاپور میں  
موجود اور محفوظ ہے (یونیورسٹی لائبریری کا اندراع: ۹۲۸- ۳۳)۔

"دستنبو" طبع اول (نومبر ۱۸۵۸ء) کا امتیاز خاص بہ ہے کہ اس  
نادر نسخے کے آخر میں غالب کی مہر ثبت ہے۔ مزید بہ کہ اس نادر  
مطبوعہ نسخے پر بخط غالب، نذر کی ایک سطر بھی درج ہے۔ بہ پہلا  
موقع ہے کہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری، لاپور میں محفوظ "دستنبو" کے  
اس مطبوعہ نسخے کا بہ امتیاز، غالب دوستوں کے علم اور اطلاع میں آ  
رہا ہے (۳)۔ ذیل میں اس صفحے کا عکس پیش کیا جا رہا ہے:

### قطعہ تاریخ

آغاز کتاب از میرزا حاتم علی بیگ مهر تخلص سلمہ اللہ تعالیٰ

اسد اللہ خان غالب مهر جبذا زد رقم چہ دستنبو

نامہ خود سال خوش داد نشان بد بیضا ستم چہ دستنبو

۱۸۵۷ء

### قطعہ تاریخ

اجام کتاب از میرزا فتح سلمہ اللہ تعالیٰ

بجان و دل جهانی گشت طالب

کتابی زد رقم غالب کہ آرا

نوشتم تھتہ سالِ اختتامش بیاننگر چہ دستنبو سے غالب

۱۸۵۸ء

نور چشم بال مکند بریمن این رسالہ را بھر دفع

چشم زخم دبر تعویذ بازو سازند

غالب نے "دستنبو" کا یہ نسخہ "بال مکند بریمن" کی نذر کرتے

ہوئے کتاب کے آخری صفحے (صفحہ ۸۰) پر مطبوعہ قطعاتِ تاریخ کے

بعد، صفحے کے مُعرَفی حصے میں اپنے قلم سے یہ لکھا ہے:

"نور چشم بال مکند بریمن این رسالہ را بھر دفع

چشم زخم دبر تعویذ، بازو سازند۔"

اس سطر کے نیچے دائیں جانب، غالب کی مہر ثبت(۳) ہے لیکن

غالب کے دستخط یا کوئی تاریخ تحریر موجود نہیں۔" بالکند بریمن"

جنہیں غالب نے "نور چشم" قرار دیا ہے، غالبات میں معروف نہیں۔

"غالب اور انقلاب ستاؤن" (مطبوعہ غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی

دہلی ۱۹۸۸ء) کے "پیش لفظ" میں ممتاز محقق رشید حسن خاں نے لکھا

ہے کہ:

(۱) "وضاحت طلب بات "بالکند بریمن" کا نام

ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لائزنسی میں "دستنبو" کی

اشاعت اول کا جو نسخہ محفوظ ہے۔ اُس کی ایک قابلٰ

ذکر خصوصیت ہے کہ اُس کے آخر میں غالب کے قلم

سے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔" نور چشم بالکند بریمن

این رسالہ را بھر دفع چشم زخم دبر تعویذ بازو سازند۔"

اس تحریر کے نیچے غالب کے دستخط تو موجود نہیں

مگر ان کی مہر موجود ہے۔ اس لحاظ سے "دستنبو" کا

بے نادر تُسخہ ہے۔ مرتضیٰ صاحب نے "دستنبو" کے آخر میں جہاں ان پندو احباب اور شاگردوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے پرشانی کیے ان دنوں میں مختلف اعتبارات سے، ان کی خبرگیری کی اور غم گسار ریے اور اس سلسلے میں مہیمن داس کا نام لیا ہے جنہوں نے مرتضیٰ صاحب کے لیے دبی شراب فراہم کی تھی۔ اور ببرا سنگھ کا ذکر کیا ہے جو ان بے کسی کے دنوں میں برابر ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ ویسیں "شیوجی رام بربمن" اور ان کے لڑکے "بالمکند" کا بھی ذکر کیا ہے:

"دیگر از مردم این شهر نیم ویران نیم آباد  
شیوجی رام بربمن بربما نزاد که جوانِ خرد مند و مرا پجاۓ  
فرزند است، این درویشی دل ریش را کم تر تنہا می گزارد  
و به اندازہ تاب و توانِ خویش فرمائی و کار سازی پجا  
پس آرد و پسرش بالمکند که نوجوانِ نیک خوئی پارسا  
ست، نیز بمعجون پدرِ خویش در فرمانِ پزیری چُست و در  
اندوہ گساری یکتاست" (۵)

(دستنبو، طبع اول، صفحہ ۲۱)

بے وضاحت یوں ضروری تھی کہ بالمکند نام کے مرتضیٰ صاحب کے ایک شاگرد بھی تھے جن کا تخلص بے صبر تھا اور جو سکندر آباد (ضلع بلند شهر) کے رینے والے تھے مگر وہ کانسٹنٹھ تھے۔ بظاہر بے خیال ہوتا ہے کہ بے "بالمکند بربمن" شاعر نہیں تھے، صرف معتقد اور نیازمند تھے۔ "شیوجی بربمن" سے غالب کے مراسم کا احوال کیا تھا، اس کے متعلق مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، غالب نے جس طرح ان کا ذکر کیا ہے، اُس سے بظاہر بے اندازہ ہوتا ہے کہ مرتضیٰ صاحب ان کو بہت عزیز رکھتے تھے

اور غالباً اسی نسبت سے ان کا لڑکا بالمکند بھئی مرزا صاحب کے نیاز مندوں میں شامل تھا۔ انہوں نے "دستنبو" کا ایک نسخہ اپنی تحریر اور مہر کے ساتھ جو بالمکند کو دیا تو اس سے واضح طور پر بہ بات سامنے آتی ہے کہ اس خاندان سے مرزا صاحب کے خصوصی مراسم تھے اور بالمکند کو وہ بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔"

(پیش لفظ: غالب اور انقلاب ستاؤن، دہلی ۱۹۸۸ء، ص ۵-۶)

رشید حسن خاں نے "دستنبو" سے بالمکند کا سُراغ لگایا ہے۔ "دستنبو" کے آخر میں غالب نے اپنے چار بندو احباب اور تلامذہ، مہیں داس، بیرا سنگھ، شیروجی رام بریمن اور ان کے بیٹے بالمکند کی مصاحبہ، رفاقت اور فیاضی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، جو فتنہ و فساد کے پُر خطر اور اجاز ایام میں غالب کے خدمت گزار اور غمگسار رہے، لکھا ہے کہ "اگر شہر میں یہ چاروں شخص نہ ہوتے تو کونی شخص میری ہے کسی کا گواہ بھئی نہ ہوتا۔"

بالمکند اور ان کے والد شیروجی رام بریمن کے بارے میں غالب کے

لفظ یہ ہیں:

" اسِ نصف آباد، نصف ویران شہر (دہلی)  
کے لوگوں میں سے عالی نسب شیروجی رام بریمن جو ایک  
عقل مند جوان ہے اور مجھ کو بیٹے کی طرح عزیز ہے،  
مجھ درویش غم زدہ کو بہت کم تنہا چھوڑتا ہے۔ فرماء  
برداری اور کارسازی کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا لڑکا  
بال مکند جو ایک پریز گار اور خوش اخلاق نوجوان ہے،  
اپنے والد کی طرح تعیین حکم میں مستعد اور  
غمگساری میں یکتا ہے۔"(۶)

بالمکند اور شیروجی رام کا تذکرہ مجھے غالب کے دو اردو خطوط

میں بھی ملا۔ منشی ہر گروال تفتہ کے نام "دستنبو" کی پہلی اشاعت (نومبر ۱۸۵۸ء) سے کوئی پانچ ماہ پہلے کے ایک خط مورخ ۱۹ جون ۱۸۵۸ء میں غالب لکھتے ہیں کہ:

"...انصاف کرو، کتنا کثیر الاحباب آدمی تھا،  
کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ میں دو چار دوست نہ ہوتے  
ہو۔ اب یاروں میں ایک شیوجی رام بریمن اور بالکند  
اس کا بیٹا، یہ دو شخص ہیں کہ گاہ گاہ آتے ہیں۔"

غالب کے ایک دوسرے خط، موسومہ یوسف مرزا مورخ ۲۸ نومبر ۱۸۵۹ء سے بالکند کے ناگہان انتقال پر ملال کی اطلاع پاتھ آتی ہے:

"میاں! ہم تمہیں ایک اور خبر لکھتے ہیں۔ بریما  
کا پتر دو دن بیمار پڑا، تیسرا دن مر گیا۔ ہے کیا  
نیک بخت لزکا تھا۔ باپ اس کا شیوجی رام اس کے غم  
میں مردی سے بدتر ہے۔ یہ دو مصاحب میں یہ  
گئے۔ ایک مردہ، ایک دل افسردہ۔ کون ہے جس کو تمہارا  
سلام کہوں۔"

یوسف مرزا کے نام غالب کا یہ خط دو شنبہ، دوم جمادی الاولی ۱۲۲۶ھ مطابق ۲۸ نومبر ۱۸۵۹ء، وقت صبح لکھا گیا ہے۔ گرو  
بالکند کا اس سے کچھ قبل، مختصر سی علالت کے بعد، کم عمری میں  
انتقال ہوا۔ اور وہ "دستنبو" کی پہلی اشاعت (نومبر ۱۸۵۸ء) کے بعد  
ایک برس سے زیادہ نہ چیز۔

بالکند بریمن کے بارے میں "دستنبو" (طبع اول نومبر ۱۸۵۸ء)  
کے آخر میں غالب کے قلم سے لکھا ہوا ایک سطری جملہ، غالب کے  
مانوس سواد تحریر میں ہے۔ غالب کی قلمی اس تحریر کے نیچے دانیں

باتھ غالب کی مہر ثبت ہے۔ غالب کی اس مہر پر "آسد اللہ الغالب ۱۲۶۹ھ" کندہ ہے۔ ۱۸۵۲/۵۱۲۶۹، کی یہ مہر غالبیات میں معروف ہے۔ (۲) غالب نے یہ جملہ کب لکھا؟ اس کا تعین ہونا باقی ہے۔

میرے تزدیک غالب کی اس نگارش کا زمانہ تحریر ۱۲-سے ۱۸-نومبر ۱۸۵۸ء تک کے مابین کا قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ "دستنبو" طبع اول کی غالب کے حصے کی تینتیس (۳۳) جلدیں غالب کے خطوں کی شہادت کے موجب انہیں ۱۲-نومبر ۱۸۵۸ء کو ملیں اور یہ سب کی سب ۱۸-نومبر ۱۸۵۸ء تک تقسیم ہو گئی تھیں۔ (۸) انہیں میں "دستنبو" کا وہ نسخہ بھی ریا ہو گا جو انہوں نے بالمکند کو دیا، اور جو، اب پنجاب یونیورسٹی لائبریری لاپور کی زینت ہے۔

"دستنبو" کے زمانہ نگارش کے ایام تنهائی میں بالمکند، غالب کے مستقل حاضر باشون میں سے تھے۔ غالب نے "دستنبو" میں اُن کی محبت، مہربانی اور نیک نہادی کا اعتراف کیا ہے، اس لیے قیاس غالب ہے کہ انہوں نے کتاب کو مطبوعہ شکل میں پاتے ہی اس کا ایک نسخہ بالمکند کی نذر کیا ہوگا۔ اور اگر یہ نسخہ طباعت کے معاً بعد بالمکند کو پیش نہیں کیا گیا تو بھی، یہ بھر حال زیادہ سے زیادہ ۲۸-نومبر ۱۸۵۹ء تک کسی وقت انہیں عطا کیا گیا، کیون کہ اس تاریخ سے قریب متعلق، بالمکند وفات پا چکے تھے۔

"غالب اور انقلاب ستاؤن" میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے "دستنبو" کی غایت تصنیف سے بحث کی ہے۔ رُداد نگاری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے غالب نے "دستنبو" میں ایک موقع پر لکھا ہے کہ:

"اس کتاب میں شروع سے آخر تک اُن حالات کا ذکر ہے جو مجھ پر گزر ریے ہیں، یا اُن واقعات کا ذکر ہو گا جو سننے میں آئے ہیں۔ میں نے جو شنیدہ حالات

لکھیے ہیں تو کوئی خیال نہ کرے کہ میں نے جہوٹ  
 باتیں سنی ہوں گی یا کچھ کم کر کے لکھی ہوں گی۔  
 میں دارو گیر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں اور سچائی  
 میں نجات ڈھونڈتا ہوں۔ (۹)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ غالب نے خدا کی پناہ نہیں چاہی بلکہ انگریز نا خداوں کی پناہ چاہیں جنہوں نے دارو گیر کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ غالب نے اپنی نجات ضرور ڈھونڈی لیکن یہ فی الوقت انہیں سچائی میں دکھانی نہیں دیتی تھی، اس لیے انہوں نے حالات کو جہاں تھاں نہ صرف "کچھ کم کر کے" بلکہ رنگ آمیزی کے ساتھ "بڑھا چڑھا کر" بھی پیش کیا ہے۔

"دستنبو" کی غرض تصنیف، قلعہ مُعلَّی سے اپنے تعلق کے داغ کو منانا اور تحریک آزادی کو "رُستخیز بیجا" قرار دے کر انگریز حکام با اختیار کی نظر میں سُرخرو ہونا تھا۔ اور سُرخرو ہونا محض سُرخرو ہونے ہی کیے لیے نہیں تھا حُکام وقت کو اپنی وفاداری کے یقین دلانے کی غایت اصلی پنشن کیے اجراء کی آرزو اور خطاب و خلعت پانی کی تمنا تھی۔

"دستنبو" کے زیر نظر قیمتی ایڈیشن کے آخر میں غالب نے بالمکند کو یہ جو لکھا ہے کہ:

"ایں رسالہ را برایے دفع چشم زخم دبر تعوید بازو سازند۔"  
 رشید حسن خاں کے بقول:

"ایں میں" دبر کی تخصیص گھری معنویت سے  
 کیے آخر خالی نہیں۔

مطلوب مرزا صاحب کا یہی ہے کہ یہ رسالہ اس زمانے میں حکومت کے جبر و ستم سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ معین صاحب نے "دستنبو" کی غایت تصنیف کے ذیل میں جو بحث کی ہے... اس بحث کی روشنی میں اس مختصر سی عبارت کو دیکھا جائے تو "چشم زخم دہر" کی تخصیص کی معنویت روشن ہو گئی۔ (۱۰)

"دستنبو" طبع اول کا یہ قیمتی نسخہ، آج ایک سو تیس، بتیس برس بعد یہی، اول تا آخر اچھی حالت میں ہے اور کتاب کے مُنتسب "بال مکند برین" کے بارے میں جنہیں غالب نے "نور چشم" قرار دیا ہے مزید دعوت تحقیق دے ریا ہے۔ (اپریل ۱۹۹۰ء)



## حوالہ

- ۱- طبع اول: مطبع منبی خلائق، آگرہ، نومبر ۱۸۵۸ء
- طبع دوم: مطبع لشیری سوانشی، روپیل کھنڈ، بریلی، ۱۸۶۵ء
- طبع سوم در: "کلیاتِ نشر غالب"، مطبع نولکشور، لکھنؤ، جنوری ۱۸۶۸ء
- ۲- اس ضمن میں دیکھیے غالب کے خطوط بنام:  
 (ا) شیو نرائن آرام، ۳۱-اگست ۱۸۵۸ء  
 (ب) پرگویال تفتہ، ۲۸-اگست ۱۸۵۸ء، یکم ستمبر ۱۸۵۸ء میز  
 (ج) میر مہدی مجروح، اکتوبر ۱۸۵۸ء
- ۳- میری کتاب "غالب اور انقلاب سناؤں" (مطبوعہ: غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی ۱۹۸۸ء اور اس کے تازہ ایڈیشن (مطبوعہ: الفصل ناشران، غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور ۱۹۸۹ء) میں

رہے۔ "دستیبو" کی اشاعت اول کا عکس اسی نایاب اور قیمتی نسخے پر

مبنی ہے۔

۴- "غالب اور انقلاب ستاؤن" (مطبوع دہلی ۱۹۸۸ء) کی صفحہ ۱۳۹

پر غالب کے قلم سے لکھے ہوئے اس جملے اور غالب کی مہر کا

عکس چھپنے سے رہ گیا ہے۔ کتاب کی صفحہ ۲۲۶ پر غالب کے

قلسی جملے کا عکس آگیا ہے لیکن مہر کا چرب رہ گیا ہے۔ جب کہ

"غالب اور انقلاب ستاؤن" (مطبوع لاپور ۱۹۸۹ء) میں صفحہ ۲۸۰

اور صفحہ ۳۶۸ پر غالب کے قلسی جملے اور ان کی مہر کا عکس،

بہت صحیح صورت میں چھپا ہے۔

۵- "غالب اور انقلاب ستاؤن" مطبوع دہلی ۱۹۸۸ء

ص ۲۲۶ مطبوع، لاپور ۱۹۸۹ء، ص ۳۵۹

۶- اردو ترجمہ رشید حسن خان، مشمولہ : غالب اور انقلاب ستاؤن

مطبوع دہلی ۱۹۸۸ء، ص ۱۳۲، مطبوع لاپور ۱۹۸۹ء، ص ۱۶۳

۷- اس مہر کے بارے میں ضروری کوائف کے لیے دیکھئی، مالک رام کی

کتاب : "قسان" غالب، مطبوع دہلی، جنوری ۱۹۷۷ء، ص ۸۸-۸۴

۸- دیکھئی پر گوپاں تفتہ کے نام غالب کے خطوط مورخ ۱۳-نومبر اور

۱۸-نومبر ۱۸۵۸ء

۹ و ۱۰- اردو ترجمہ رشید حسن خان، مشمولہ "غالب اور انقلاب

ستاؤن" مطبوع دہلی، ۱۹۸۸ء، ص ۱۲۹، مطبوع لاپور، ۱۹۸۹ء

ص ۱۵۱۔

\* \* \* \*

سید امداد علی شاہ صفر  
دانشکده دولتی اوکاڑا

### فارسی میں

## نثر اخلاق ناصری کا مقام

فارسی میں نثر اخلاق ناصری کا مقام معین کرنے کے لئے محقق  
طوسی سے پہلے کی فارسی نثر اور اس کے مختلف اسالیب پر ایک نظر  
ڈالنا ضروری ہے۔

بارہویں صدی عیسوی کے وسط تک فارسی نثر، نثر مرسل کے  
اسلوب میں لکھی جاتی رہی جس میں کسی قسم کا تکلف نہ تھا سجع  
نویسی، قافیہ پردازی، آهنگ سازی یہ چیزیں عام طور پر فارسی نثر میں  
رانج نہ ہوتی تھیں۔ گیارہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں خواجه  
عبدالله انصاری کے رسائل میں آهنگ اور قافیہ دونوں چیزیں ملتی ہیں  
لیکن بارہویں صدی کے وسط میں فارسی نثر کے اسلوب میں ایک اختلاف  
پیدا ہوا اس انقلاب کا بانی نظام الدین ابوالعالیٰ نصراللہ ابن عبدالحمید  
ہے جسے ادبی تحریروں میں بطور اختصار ابوالعالیٰ کے نام سے یاد کیا  
جاتا ہے۔

جہاں تک فن نثر کا تعلق ہے ابوالمعالیٰ پہلا فن کار ہے جس نے  
فارسی نثر کو فنی اسلوب عطا کیا۔ اس کی کتاب کلیلہ دمنہ جس میں  
داستان سرائی کیے تقاضوں کے مطابق فن پردازی کی بہت گنجائش تھی۔  
ایران میں بے انتہا مقبول ہونی اور صدیوں تک فارسی نثر نویسی کی  
یاگ ڈور ابوالمعالیٰ کی ہاتھوں میں رہی۔ لیکن بد قسمتی سے اس  
اسلوب کی تقلید کیے نتائج اچھے برآمد نہ ہوئے ظاہر ہے کہ ہر لکھنے  
والے کی تقلید کیے معاملے میں نئی صلاحیتیں تخریبیں بن کر رہ جاتی  
ہیں اور فن کار کیے خود اپنے فطری اسلوب کو اجاگر کرنے کا موقع نہیں  
ملتا۔ فارسی ادب کی تاریخ میں ایسا ہی ہوا۔ محقق طوسی کے زمانے  
تک پہنچتے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سو برس تک ایسی نثر کے نمونوں کا  
ایک انبار لگ گیا۔ جس میں قافیہ پیمانی اور مبالغہ گوئی تصنیع اور  
تكلف نیے نثر کی صورت کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ اخلاق ناصری کے پہلے  
تک کی کیفیت بھی تھی۔ گلستان کی نثر جو فارسی نثر کی ظلماتی دور  
کے بعد ایک نہایت نورانی فضای قائم کرنے میں کامیاب ہوئی اخلاق  
ناصری کے بہت بعد کی تصنیف ہے۔ اس لئے جس وقت قہستان کے  
علاقے میں اسماعیلی ماحول میں گھر کر قلعہ الموظ کی چار دیواری میں  
محقق طوسی "اخلاق ناصری" جیسی کتاب لکھنے کے لئے قلم انہا رہے  
ہیں تو ان کے سامنے سعدی شیرازی جیسے با کمال نثر نگار کا شاہکار  
نہ تھا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کم سے کم "گلستان" کی وجود میں آئے  
سے پہلے فارسی نثر کا دامن تکلفات کی آلاتشوں سے "اخلاق ناصری" کے  
مصنف نیے پای کیا۔

ظاہر ہے کہ "اخلاق ناصری" علمی نثر کا ایک کامیاب نمونہ ہے  
لیکن فن نثر سے اسکا بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے  
باوجود کہ "اخلاق ناصری" کی نثر ایک دوسرा اسلوب چاہتی ہے ہو سکتا  
تھا کہ وہ فنی اسلوب جو سلجوقی دور کی نثر پر ایک ہولناک سایہ کی

طرح چھایا ہوا تھا اس پر بھی اپنا سایہ ڈالتا جیسا کہ "تاریخ و صاف" کے ساتھ ہوا کہ اگرچہ "تاریخ و صاف" تاریخ کی کتاب ہے لیکن ابوالعالیٰ کی نشر سے بری طرح مغلوب ہو کر رہ گئی ہے۔ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ خود ابوالعالیٰ کی نشر فن نثر کا ایک لطیف نمونہ ہے اور یہ اس کے ناکام پیرو تھے جنہوں نے اس کے اسلوب کو بدنام کیا۔ بہر حال ہم کہہ رہے تھے کہ اخلاق ناصری کا تعلق علمی نثر سے ہے۔

اس مقام پر پہنچ کر انتہائی ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ فارسی نثر میں اس اسلوب کا پس منظر کیا تھا۔ فارسی نثر میں علمی اسلوب پانچویں صدی ہجری سے شروع ہو چکا تھا یعنی گیارہویں صدی عیسوی کے نصف اول سے اور فارسی نثر کی انتہائی خوش قسمتی تھی کہ اس کے علمی اسلوب کی داغ بیل ڈالنے والے ابو ریحان بیرونی، بو علی سینا اور محمد غزالی جیسے با کمال لوگ تھے۔ فارسی ادبیات اور ایران میں اسلامی تہذیب کے یہ تین رکن اپنے کمالات کا ذخیرہ عربی میں محفوظ کرتے رہے لیکن خوش قسمتی سے فارسی نثر بھی ان کے فیوض سے بہرہ مند ہوئی۔

جس وقت ابو ریحان بیرونی نے اپنی عربی تالیف کتاب "التفہیم" کو خود فارسی میں منتقل کرنے کے لئے قلم اٹھایا ہو گا فارسی کی قسمت یقیناً جاگ رہی تھی۔ اس وقت تک کوئی عالم فارسی زبان کو جو بازاری زبان، عوام کی زبان اور زیادہ سے زیادہ شاعروں کی زبان کی حیثیت رکھتی تھی علمی موضوعات کو بیان کرنے کے لئے قابل اعتماد نہ سمجھتا تھا۔ بیرونی نے فارسی نثر کو علمی اسلوب کا ایک زندہ رہنے والا نمونہ دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد بو علی سینا نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ اپنے علوم کا پورا ذخیرہ ایک دائرة المعارف میں محفوظ کر دیا جو فارسی زبان میں ہے۔ گیارہویں صدی کے وسط سے بہت پہلے یہ

کام ایک حد تک المجام پا گیا اگرچہ بد قسمتی سے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ بو علی سینا کی یہ کوشش آج "دانشنامہ علاجی" کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔

ان دو بزرگوں کے بعد بارہویں صدی عیسوی کے آغاز ہی میں محمد غزالی اپنی شہر آفاق کتاب "احیاء علوم الدین" لکھنے کے بعد اس طرف متوجہ ہوئے کہ یہ علوم عوام تک بھی پہنچیں چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب کا ملخص فارسی میں کمیابی سعادت کے نام سے محفوظ کر دیا اور یقیناً یہ فارسی کے لئے بڑی سعادت تھی۔ اس کے بعد فارسی میں علمی نگارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن اس سلسلی کی سب سے اہم اور کامیاب کوشش محقق طوسی کی اخلاق ناصری کی صورت میں منظر عام پر آئی۔ اس علمی اسلوب کا کمال پر پہنچنا فارسی نثر نویسی کے لئے، خاص طور پر ایسے وقت، جب کہ سلجوقیوں کے زوال کے بعد فارسی ادب کا شیرازہ بکھر رہا تھا ایک بہت بڑا سہارا تھا جس نے فارسی نثر کی عمارت کو گرتے گرتے سنبھال لیا۔

اگرچہ محقق طوسی دورہ مغول کے عالمون اور لکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے لیکن ان کا یہ علمی شاہکار سلجوقیوں کے زریں دور کا آخری درخشنان ستارہ تھا۔ ہلاکو کے حملے سے بہت پہلے اخلاق ناصری تالیف ہو کر قبول عام حاصل کر چکی تھی اس لئے ہم کسی طرح بھی اس کتاب کو دورہ مغول کے ادبی ذخیرہ میں شامل نہیں کر سکتے۔ ناقدین کا فیصلہ ہے کہ ایران میں منگولوں کا دور جس طرح تہذیب اور تمدن کے لئے تحریبی ثابت ہوا فارسی ادب کو بھی راس نہ آیا۔ اس دور میں سوانیے چند نمونوں کے جو ایسے بزرگوں کی قلم سے نکلیے جن کی شخصیت سلجوقی دور کی پیداوار تھی، پورا فارسی ادب مسخ شدہ نظر آتا ہے۔

یہاں پہنچ کر یہ بات واضح ہو گئی کہ اخلاق ناصری فارسی نثر کے علمی اسلوب کا شاہکار اور نہایت قابل قدر غونہ ہے۔ اب اس سے آگئے بڑھکر ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس علمی اسلوب کو پہچانتے کی کوشش کریں اور ان بنیادی عناصر کا جائزہ لیں جن سے اس اسلوب کی تشکیل ہونی ہے۔ یہ مطالعہ نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے بلکہ آج بھی ہمارے ادبی رجحانات کی رہنمائی کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس زمانے میں اسلامی تہذیب ابھی زندہ تھی اس لحاظ سے خارجی اثرات نے اسے مجروم نہیں کیا تھا اس وقت کی علمی میراث یقیناً ہمارے لئے ایک الہام کا سر چشمہ بن سکتی ہے۔

جہاں تک اب اس دور میں ہماری امیدوں اور امنگوں کا تعلق ہے۔ ہماری تہذیب کے احیا کا دور ہے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ان قدروں کو زندہ کیا جائے جو صحیح فکر اور علمی کوششوں میں ہماری اپنی بن سکتی ہیں۔ ایسے دور میں جب کوئی تہذیب زوال پذیر ہو رہی ہو اور اس کا شیرازہ بکھر رہا ہو زبان و بیان پر ایک کاری ضرب لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادب پر ابہام چھا جاتا ہے۔ دماغ اپنی بات کو بیان کرنے کے لئے صحیح لفظ تلاش نہیں کر پاتا۔ دل کے جذبوں کی صحیح ترجمانی نہیں ہو سکتی زبان کا ہر لفظ اس ابہام کا شکار ہو جاتا ہے۔ معنی اور الفاظ کے رشتے ضعیف اور بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔

شاعری کے میدان میں اس کیفیت کا صحیح احساس نہیں ہو پاتا اس لئے کہ شعریت ابہام سے کہبلنا پسند کرتی ہے۔ ادبی نثر اور اس کی تمام اصناف کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن علمی اسلوب میں اس حقیقت کا شدید طور پر احساس ہوتا ہے۔ مثلاً جب اردو زبان میں ہم علمی زبان کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پتھے چلتا ہے کہ ہماری

تہذیب کس قدر پامال ہے اور اگر اردو کی مثال دیں تو کہیں گئے کہ اردو اپنے علمی اسلوب کو عربی سے سہارا لے کر قوی بنا سکتی ہے اور عربی جو فارسی سے ہو کر اردو تک آپہنچے اردو کے مزاج سے ہم آہنگی پیدا کر لیتی ہے۔ اس لئے آج پھر ضرورت ہے کہ ہم ابو ریحان بیرونی، بو علی سینا، غزالی، قطب الدین رازی، نجم الدین رازی، امام فخر الدین رازی، محقق طوسی اور دوسرے بزرگوں کی تحریریں صدیوں کی گرد و خاک سے نکال کر ورق ورق پھر پڑھیں، غور سے پڑھیں اور ان سے الہام لیں۔ کیونکہ ہمارے ادب کا یہ دریا اپنے اصل سرچشمتوں سے بہت دور ہو کر پایاب ہی نہیں ہو گیا ہے بلکہ اس کا پانی گدلا ہو گیا ہے بقول حالی۔

اپنے چشمے سے تھا نزدیک تو تھا عین صفا  
جتنا بڑھتا گیا ہوتا گیا پانی گدلا

اس تہذیبی نصب العین کو سامنے رکھے کر محقق طوسی کے علمی اسلوب کا مطالعہ ایک افادی حیثیت کامال کہو گا اور محض لفظی ادھیز بن سے ایک بلند تر سطح پر آ سکے گا۔ قدرت بیان قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لینے کے قوم کے دل و دماغ سے اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ یہ ابہام کی ضد ہے۔ کہ سکتے ہیں اتقان یعنی ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لئے صرف انہیں الفاظ کا استعمال جو اس حقیقت کو بیان کر سکتے ہوں زبان اور بیان میں تکلف اور دلکشی ضرور پیدا کر سکتا ہے وہ بھی بشرطیکہ اعتدال پر نہ ہو۔ لیکن دلکشی بیان کی زاید صفت ہے۔ بیان کی صفت حقیقت کا احاطہ ہے۔ یہی ایک هنر ہے جو اخلاق ناصری کے علمی اسلوب سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔

کسی اسلوب کو پہچاننے کے لئے تین ذرائع تنقید کو مدد

دیتے ہیں۔ وہ صفات جو کسی اسلوب کے پس منظر میں سلبی اور منفی حیثیت رکھتی ہیں، دوسرے اسلوبوں سے اس کا تقابل تیسرے مصنف کے اپنے اسلوب کی مثبت قدریں۔ ہم اخلاق ناصری کے علمی اسلوب کا جائزہ لیتے ہوئے پہلے ان صفات کا بیان کریں گے جن سے محقق طوسی نے اسلوب کو محفوظ اور پاک رکھنے کی کوشش کی ہے۔

جہاں تک ہم تحجزہ کر سکتے ہیں اور جہاں تک تنقیدی اصطلاحیں ہمیں مدد دے سکتی ہیں اخلاق ناصری کے پہلے غائر مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اخلاق ناصری کا اسلوب تکلف، ابہام، خلطِ مبحث، التباس، حشو و تکرار، ضعفِ تالیف، تعقید، تنافرِ حرروف، تنافرِ کلمات اور مخالفتِ قیاس سے بچنا چاہتا ہے لیکن ایک چیز سے اس اسلوب کو ہرگز سروکار نہیں اور وہ ہے غرابت۔ یہ اعتراض فارسی زبان کے نقطہ نظر سے کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً اخلاق ناصری کی نشر میں بے شمار ایسے الفاظ ملتے ہیں جو فارسی زبان میں نامانوس ہیں لیکن یہی الفاظ عربی زبان میں یقیناً فصیح ہیں۔ یہ ہرگز نہیں کہ یہ تمام الفاظ جو فارسی نشر میں اجنبی نظر آتی ہیں عربی میں جان فصاحت ہیں۔ فارسی میں اسی لئے اجنبی نظر آتی ہیں کہ فارسی نشر کا علمی پس منظر بہت محدود ہے۔

اخلاق ناصری سے پہلے اس علمی موضوع پر فارسی نشر میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارسی نشر میں علمی اصطلاحات کو رواج حاصل نہیں ہوا تھا جو فصاحت کی بنیاد ہوتا ہے۔ ہم انہیں الفاظ کو مانوس اور فصیح کہتے ہیں جن سے ہمارے کان آشنا ہوں یقیناً اگر فارسی زبان میں اس سے پہلے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہوتیں اور عام ہو چکی ہوتیں تو اخلاق ناصری تک پہنچتے پہنچتے یہ ساری عربی اصطلاحیں رائجِ الوقت سکون کا درجہ حاصل کر چکی ہوتیں اور کوئی انہیں نکسال باہر نہ کہہ

سکتا یا پھر بھی ہوا ہوتا کہ اخلاق ناصری کے وجود میں آئے کیے بعد اسی طرح فلسفہ اخلاق پر علمی موضوع کی حیثیت سے کتابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہوتا اور انہیں قبول عام حاصل ہوا ہوتا تاکہ وہ اصطلاحیں فارسی زبان کا جزو بن کر رہ جاتیں اور اب اس زمانے میں ان کی غرابت محسوس نہ ہوتی خواہ محقق کے اپنے زمانے میں وہ اصطلاحیں غریب ہی کیوں نہ تھیں۔ اس کے علاوہ ہم اس اعتراض کو یوں بھی رد کر سکتے ہیں کہ علمی اسلوب میں غرابت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ جو لوگ اس عقیدے اور نظریے کے مخالف ہیں ان کے لئے ہمارا پہلا استدلال کافی ہونا چاہیے۔

جہاں تک اس مستلیے کا تعلق ہے اخلاق ناصری کی نثر کے نامانوس عربی الفاظ اس زد میں نہیں آتے لیکن اخلاق ناصری کی جملہ بندی اس الزام سے بری نہیں ہو سکتی ہم جانتے ہیں کہ ساتویں صدی ہجری میں جب محقق نے یہ کتاب لکھی ہے فارسی جملہ بندی عربی کے بندھنوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ ہمارا اشارہ اخلاق ناصری کے جملوں میں ان متعلقات فعل کی طرف ہے جو محقق بجائی اس کے کہ جملے کے درمیان میں لاتیں آخر میں لاتیے ہیں وہاں ان کی عربیت چھپنے نہیں پاتی۔ نحو کی اصطلاحوں میں کہنا چاہئے کہ وہ ظرف زمان، ظرف مکان اور کبھی کبھی دوسرے متعلقات جو ان کے علاوہ جاری مجرور سے مل کر بنتے ہیں اور مقایل کی ذیل میں آتے ہیں جملوں کے آخر میں لاتیے ہیں یہاں ظرف زمان و ظرف مکان سے مراد وہ تراکیب ہیں جو ان معانی کے لئے جاری اور مجرور سے مل کر بنتی ہیں۔ بہادر تک ہم نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے انہوں نے اپنے اسلوب کو بچایا ہے اور ہم نے ایک چیز ایسی بھی بیان کر دی ہے جس سے وہ نہیں بع سکے لیکن بچتے تو بہتر تھا۔

اب ہم ان کے اسلوب نثر کے ان پہلوؤں پر روشنی ذالنا چاہتے

ہیں جو ان کی نگارش میں مثبت قدر و کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے  
ہان اتقان ہے۔ دلالت کا وضع ہے استیضای مطلب یعنی اس طرح بیان  
کرنا کہ کسی بات کا کوئی پہلو باقی نہ رہے۔ منطقی ترکیبات ہیں  
استدلال ہے۔ ربط و ضبط ہے نظم کلام ہے۔ ان صفات کے علاوہ جہاں  
تک ذوق کا تعلق ہے وہ اس میں بھی کامیاب ہیں۔ ایک چیز کا وہ انتہائی  
اهتمام رکھتے ہیں یعنی خوش آہنگی اس پہلو پر ہم تفصیل سے روشنی  
ڈالیں گے۔ یہاں ایک دوسری صفت کی طرف ہم اشارہ کر کے اگے بڑھتے  
ہیں اور وہ ان کی نظر کی وہ خاص کیفیت ہے جسے ہم بصیرت افروزی  
سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے اسلوب میں خوش آہنگی  
کس طرح پیدا کرتے ہیں اس کے لئے نہ صرف مقالہ اولی بلکہ ان کی  
ساری کتاب کے تمام جملوں کے تجزیے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے  
ہیں کہ وہ جملوں میں سالمات کی تعداد زیادہ رکھتے ہیں، مقابلہ کسرات  
کے یعنی وہ جملوں میں تعادل آہنگ قائم رکھتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے  
ہیں کہ یہ چیز انہوں نے یا عربی نثر سے لی جو تیسرا صدی ہجری تک  
یہ کمال اپنے اندر پیدا کر چکی تھی یا پھر فارسی کی فنی نثروں سے لی  
جن میں ابوالمعالی کی نثر کلیله دمنہ اور قاضی حمید الدین ابویکر بلخی  
کی مقامات حمیدی ممتاز درجہ رکھتی ہے۔ عربی نثر میں مقامات بدیع  
الزمان همدانی اور مقامات حریری میں یہ پہلو بہت قوی ہے۔

بہر حال ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ محقق کے اپنے اسلوب میں یہ  
کیفیت کن اجرا سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے دو نمونے پیش کر کے ان کا  
تجزیہ کرتے ہیں۔ صرف دو جملے جو مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے  
ہیں اس کیفیت کو پورے طور پر واضح کر دیں گے۔ (صفحہ ۱۳۳ سطر ۳  
تا ۹ پنجاب یونیورسٹی ایڈیشن مرتبہ ڈاکٹر سید محمد عبدالله مرحوم)۔

جمله نمبر ۲	جمله نمبر ۱
<p>و باشد که حافظ صحت نفس مقرر بود</p> <p>در اغلب احوال</p> <p>با مقاسات این احوال</p> <p>خائب و خاسر می‌مانند</p> <p>و</p> <p>به ندامات مفرط</p> <p>و حسراتِ مهلک</p> <p>که مستدعي قطع انفاس</p> <p>و قلع ارواح بود</p> <p>مبتلا من گرداند</p> <p>و اگر هر چزی از مطالب ظفری</p> <p>باشد</p> <p>آسیب زوال و انتقال</p> <p>در عقب</p> <p>و هم به بقای آن</p> <p>و ثورقی و استظهاری نه -</p>	<p>که</p> <p>نعمتهاي شريف</p> <p>و ذخائر عظيم</p> <p>مواهاب نامتناهی را</p> <p>محافظت می‌کنند</p> <p>و كسيكه</p> <p>بي بذل اموال</p> <p>تحصيم مشقتها</p> <p>و تکلف مؤنتها</p> <p>بچندين كرامت و نعمت مخصوص شود</p> <p>پس</p> <p>باعراض و اغماض</p> <p>و</p> <p>تكاسل و تفافل آنرا بایاد دهد</p> <p>عاری و خالی</p> <p>باشد</p> <p>بحقيقت</p> <p>معصوم و ملوم</p> <p>و</p> <p>از رشد و توفيق</p> <p>بي بهره و محروم-</p> <p>و بايدك</p>

ان دو جملوں پر نظر ذاتی سے محقق کی طرز نثر نویسی میں ایک ادبی عنصر کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ادبی عنصر فارسی نثر کی تاریخ میں ابوالمعالی کی فنی نثر سے مربوط قرار دیا جا سکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ محقق اگرچہ ساتوں صدی ہجری میں لکھ رہے ہیں اور ایک علمی موضوع پر اپنی خاص محتاط اور عالمانہ طرز میں لکھ رہے ہیں لیکن فارسی نثر کا وہ فنی اسلوب جو سلجوقی دور میں شروع ہوا جو فارسی ادب کا زریں دور ہے اس کے اثر سے محقق کی نثر نہ بچ سکی۔

ہم جانتے ہیں کہ چھٹی صدی ہجری کی فنی نثر نے فارسی نثر کے اسلوب پر صدیوں حکومت کی ہے اور صرف غیر ادبی نثر یا بلحاظ دیگر علمی نثر اس اثر سے محفوظ رہی ہے لیکن محقق کی نثر میں ہمیں چھٹی صدی ہجری کی فنی نثر کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ محقق کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے فنی نثر کے آہنگ اور انداز کو اس طرح خوبی سے اپنایا ہے کہ ان کی علمی احتیاط میں سر مو فرق نہ آ سکا یعنی وہ ان تمام علمی شرائط کی پوری پابندی کرتے ہوئے جن کر وہ شروع سے لے کر چلے ہیں توازن، سجع یہاں تک کہ مخفی اسلوب کو بھی موقع بھوپال کے مکانات میں موقعاً اپناتے ہیں۔

ایسے مقامات اخلاق ناصری کے مقالہ اولی میں جا بجا آتے ہیں اور یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ جو لفظ ادبی آرائش بیان کے تقاضے سے ان کی قلم سے نکل رہا ہے وہ حسن اتفاق سے علمی تقاضوں کا بھی پورا پورا ساتھ دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ وہ کوئی لفظ بے ضرورت نہیں لاتی خواہ وہ قافیہ ہی کی ضرورت کیوں نہ ہو یعنی سجع نویسی کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی قوانی ان کے جملوں میں جا بجا رنگیں پیدا کرتے نظر آتے ہیں مثلاً

مندرجہ بالا دو جملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ، شریف عظیم، اور تکلف تحشیم، مفہوم اور ملوم، خائب و خاسر، مفرط و مہلک۔ قطع انفاس اور قلع ارواح متوازن ہیں اور مشقتہا مؤنثہا، اغراض و اغماض، تکاسل و تغافل، عاری و خالی، ملوم و محروم، ندامات و حسرات، زوال اور انتقال ہم قافیہ ہیں لیکن علمی نکات کو نظر میں رکھ کر دیکھیں تو ان میں کوئی لنظر بھی برائی قافیہ نہیں بلکہ در حقیقت ان الفاظ کی سوا جو بظاہر ہم قافیہ نظر آتے ہیں اور الفاظ ہو ہی نہیں سکتے تھے جو اس مفہوم کو ادا کریں۔

قافیہ اور سجع کو چھوڑ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جملوں کی ہم آہنگی اور ہر جملے میں اس کے اجزا کی ہم آہنگی پوری کتاب میں از اول تا آخر قائم ہے۔ یہ بات علمی کتابوں میں کم ملتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محقق نے اس بات پر پوری پوری نظر رکھی ہے کہ علمی نثر کی خشکی کو بیان کی خوش آہنگی سے دور کیا جائے۔ اس سے ہم اس نکتے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جس زمانی میں محقق نے یہ کتاب لکھی فنی نثر کے رواج کو سو برس سے زیادہ گذر چکے تھے اور ایران کی فارغین فنی نثر کی عادی ہو چکے تھے ایسی حالت میں کسی دوسری نثر میں جو رنگیں نہ ہو بلکہ یہ حد خشک ہو انہیں دلچسپی اور دلکشی محسوس نہ ہو سکتی تھیں۔ محقق نے ابوالعالیٰ کی فنی نثر کی تمام قدریوں کو نہیں لیا لیکن ایک چیز کو پوری نثر کے لئے اپنایا یعنی ہم آہنگی اور دوسری چیز یعنی قافیہ یا سجع کہیں کہیں حسب ضرورت برتا۔

اس مقام پر ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ محقق اپنی نثر میں خوش آہنگی کیسے پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنے تبصرے کے شروع میں اشارہ کر چکے ہیں وہ اپنے ہر جملے میں اس بات کا سخت

خیال رکھتے ہیں کہ جملے کے اجزاء کس تناسب کے ساتھ قابل تقسیم ہیں اور ہر جز اپنے مقام پر مستحکم ہو جس کے لئے وہ ہر جز کو ترکیبی صورت میں لاتے ہیں اور مفردات کی تعداد اپنے جملوں میں بہت کم رکھتے ہیں عطفی ترکیب نہ صرف آہنگ میں استحکام پیدا کرتی ہے بلکہ ان کی علمی مصلحتوں کا بھی پورا پورا ساتھ دیتی ہے اور عطفی ترکیب کی مدد سے وہ مفہوم کے ضروری پہلوؤں پر اپنے بیان کو حاوی بنا دیتے ہیں تا کہ کوئی گوشہ مفہوم کا ایسا نہ رہ جائے جسے بیان میں غایبان نہ کر دیا ہو بشرطیکہ اس کے غایبان کرنے کی ضرورت ہو۔

مثلاً انہی دو جملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوال کے ساتھ اگر انتقال نہ لاتے تو ان کا مفہوم ادا نہ ہو پاتا یہاں علمی بحث کے پیش نظر انتقال کا لفظ اتنا ضروری ہے جتنا زوال کا۔ اور کوئی دوسرا لفظ اس لفظ انتقال کی جگہ نہیں لیے سکتا۔ خوش قسمتی سے بہ لفظ جسے علمی ضرورت اس جملے میں لاتی اپنے ما قبل کا ہم قافیہ بھی میں بالفاظ دیگر سچ ان کے ہار قدرتی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں تصنیع کو بالکل دخل نہیں۔ زوال و انتقال (طفی ترکیب) جملے کی ایک وحدت ہے اور اس میں خوش آہنگی کے ساتھ ساتھ عبارت کا استحکام بھی ہے اور مفہوم کا احاطہ بھی۔ یہ تینوں خوبیاں اس ایک ترکیب میں موجود ہیں ان کی تمام عطفی ترکیبات جن کی تعداد کئی ہزار تک پہنچتی ہے کسی مقام پر بھی ان تین خوبیوں سے محروم نہیں ہوئیں۔ جملے میں عطفی ترکیبوں اضافی اور وصفی ترکیبوں کے آئے سے اور پورے اس جملے کے مقابل ساتھ کے جملوں میں اس کی رعایت کے قائم رہنے سے پوری عبارت میں ہم آہنگی اور خوش آہنگی اس کیفیت کو بندش الفاظ کی چستی یا چستی تراکیب بھی کہہ سکتے ہیں جسے عراقی اور هندی طرز کی فارسی شاعری خاص اہمیت دیتی ہے اور فنی نثر کی خوبی بھی بھی سمجھی جاتی ہے۔

ان دو جملوں میں جو نونی کے طور پر ہم نے پیش کئے جملے کے ہم آہنگ اور خوش آہنگ وحدت اس ترکیب کی وجہ سے جس کے مطابق ہم نے بہ جملے یہاں درج کیے ہیں فایاں نظر آتے ہیں۔ اب ہم ان جملوں کے سالات یعنی ان اجزا کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں آہنگ میں اور جملوں کے تناسب میں شرکت حاصل نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے مثلاً پہلے جملے میں دس وحدتیں ہیں جو ہم آہنگ ہیں اور صرف پانچ تکرے اب سے رہ جاتے ہیں جنہیں آہنگ میں شریک نہیں کیا گیا مثلاً (۱) مخصوص شود (۲) اپن آنرا (۳) بیاد دهد (۴) باند (۵) باشد ان کے مسجع جملوں میں مسجع سے بھی اگئے بزہ کر تجنیس جو صنائع لفظی میں خاص اہمیت رکھتی ہے ہمیں ملتی ہے مثلاً دوسرے جملے میں تجنیس کی مثالیں یہ ہیں۔

احوال اور احوال (تجنیس مضارع) خانب و خاسر (مجانت لفظی) مقصود ہے ہی کہ ان کے جملوں میں جب مسجع کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کی حد لفظی صنعتیں اور معنوی صنعتیں ہیں مثلاً صنعت تضاد بھی ان کی نظر میں آ جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ نثر اخلاق ناصری کی تمام خصوصیات کا احاطہ اس مختصر سے مقالہ میں ممکن نہیں۔ تاہم یہ امر طے ہے کہ فارسی زبان میں اخلاق ناصری کی نثر ایک بلند مقام رکھتی ہے اور اسی سے فارسی میں علمی مطالب بہتر طور پر ادا کرنے کی راہ روشن ہونی۔

(قام شد)

لَمْ يَكُنْ لِّلْهَ أَنْ يَعْلَمَ مَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بِلَيْلٍ وَلِلَّهِ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ

\* \* \* \*

لَمْ يَكُنْ لِّلْهَ أَنْ يَعْلَمَ مَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بِلَيْلٍ وَلِلَّهِ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ

مقالاتیکه برای دانش دریافت شد

۱۰۰- فهرست مشترک نسخه پایی

خط فارسی پاکستان (فارسی)

۱۰۱- گنجینه مقالات (فارسی) (علم اسلام) دکتر محمد الشاربزی

تجزید و تفرید در شعر مولانا مظفر بلخی سید طلحہ رضوی - پشنہ

تأثیر شاهنامه در ادبیات فارسی دکتر محمد ریاض (اردو)

قاضی فضل حق - استاد فارسی دکتر محمد امیر مسعود

قبصر باره‌وی دکتر احمد قمی داری

بیاد بود خواجه عبدالحمید عرفانی دکتر محمد ریاض

مکارم الاخلاق (اردو)

از میر سید محمد نور بخش قهستانی غلام حسن سهروردی

مقام زن در شاهنامه فردوسی دکتر محموده هاشمی

عرفان شناسی محمد شریف چره‌دری

باده خیام بجام حافظ شاکر القادری - اندک

غزالی مشهدی دکتر سلمان عباسی - لکھنؤ

شیوه اصلاحات سید ابراهیم سید علوی - مشهد

تحقيق محسود شیرانی دکتر آصفہ زمانی - لکھنؤ

اخلاق در شاهنامه فردوسی دکتر علوی مقدم - مشهد

نظری در خلاصه المناقب میں جو ترکیب کے دکتر سیدہ اشرف ظفر - ملے کے  
فیصل آباد

نظری در شاهنامه شیخ امان اللہ - اسلام آباد

دکتر محمد علی صوتی شاهنامه ها در کتابخانه گنج بخش

( گذل )

اقبال کی فلسفہ علم و حکمت پر پروفیسر عبدالرزق نوшہروی

ایک طائرانہ نظر

احمد آتش - ایک ترک ایران شناس

بیسوسین صدی کے هندستان میں فارسی دکتر آصفہ زمانی، لکھنؤ

تحقیق کیے عنصر اربعہ

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(۲۷) - ملیت اسلامی نقش تھا و لامبند ملیت

(۲۸) - نظر آنکہ اسلامیت - لامبند

## کتابهای که برای معرفی دریافت شد

(۲۹) - دلکشا و ملک ملکیت - لامبند

(۳۰) - نیشن سیٹ ڈیکھو ملکیت - لامبند

### (۱) - فهرست مشترک نسخه های

خطی فارسی پاکستان (جلد بازده) احمد منزوی

(۲) - گنجینه مقالات (فارسی) (جلد اول) دکتر محمد افشاریزدی  
مقالات سیاسی یا سیاستنامه جدید.

(۳) - مهران نقش ڈاکٹر وفا راشدی (اردو)

(۴) - خطبات بھاولپور ڈاکٹر محمد حمید اللہ. (اردو)

(۵) - موضوعات قرآنی اور انسانی زندگی: خواجہ عبدالوحید. (اردو)

(۶) - دینی کی آنکھ مقبول عامر (اردو)

(۷) - خانخانان نامہ منشی دیبی پرشاد (اردو)

تصحیح، مقدمه و حواشی

ڈاکٹر حسن علی بیگ

(۸) - مجله مجلس لاهور (اردو)

(۹) - مجله مرثیہ لاهور (اردو)

(۱۰) - مجله شمس الاسلام بهیرہ (سرگردہ) (اردو)

(۱۱) - مجله فکر و نظر اداره تحقیقات اسلامی

اسلام آباد

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ۱۲) - مجلہ راہنما<br>(اردو) کراچی  | ۱۳) - مجلہ احقاق الحق<br>(اردو) سرگودھا |
| ۱۴) - مجلہ العلم<br>(اردو) کراچی   | ۱۵) - مجلہ طلوع افکار<br>(اردو) کراچی   |
| ۱۶) - شاہنامہ اردو<br>مول چند منشی |   |

## درست نامه ۱۵ افسش شماره ۲۲

	درست	سطر	صفحه نمبر
۸۷۷	زاند	۱	۲۶
۸۷۷	استاد و شاعر فارسی سید محمد عبدالرشید فاضل	عنوان	۳۵
۸۷۷	عبدالرحمن جامی	۲۲	۴۵
۸۷۷	کاروان	۲	۵۰
۸۷۷	ناله	۹	=
۸۷۷	صوفیای	۱۸	۵۴
۸۷۷	غاروکوه	۲۲	=
۸۷۷	پاکستان	۱۳	۵۶
۸۷۷	اس میں	۱.	۷۰
۸۷۷	لکھنؤی	۱۶	۷۳
۸۷۷	گلشن	۲.	۷۸
۸۷۷	تحفہ	۹	۸۲
۸۷۷	جغرافیہ	۴	۸۵
۸۷۷	مولانا	۶	=
۸۷۷	روضۃ	۲	۸۸
۸۷۷	امام	۱۴	=
۸۷۷	سعارہ	۱۹	۸۹
	طبع	۲۰	۹۲

نونکشود	۴	۹۵	- (۱۲)
کشتی بان	۱۲	۹۸	- (۱۲)
جاتھند	۲۵	۱۱۸	- (۱۶)
الجنة	۱۶	۱۱۹	- (۱۶)
ازپرو	۱	۱۲۲	- (۱۶)
بیشتر	۸	=	- (۱۷)
پوسبلہ	۲۲	۱۲۵	رہنمای ریاست الیہ
رتہ	۱۲	۱۲۶	رہنمای ریاست الیہ
سایہ	۶	۱۲۷	رہنمای ریاست الیہ
کنی	۵	۱۲۸	رہنمای ریاست الیہ
شانس	۶	۱۴۸	رہنمای ریاست الیہ
پابسط	۱۸	۱۴۹	رہنمای ریاست الیہ
شهر آشیها	۲۲	۱۵۰	رہنمای ریاست الیہ
آنہ	۵	۱۷۱	رہنمای ریاست الیہ
پر	۲۲	۱۸۶	رہنمای ریاست الیہ
پہلے	۲۰ و ۱۶	۱۹۷	رہنمای ریاست الیہ
کے وقت	۲۲	۱۹۸	رہنمای ریاست الیہ
لکھا	۱۳	۲۰۶	رہنمای ریاست الیہ
نہرنا	۲	۲۱۶	رہنمای ریاست الیہ
مشہور اور	۱۴	۲۳۱	رہنمای ریاست الیہ
بالا	۱۷	۲۶۷	رہنمای ریاست الیہ
بون.	۱۸	۲۶۹	رہنمای ریاست الیہ
	*	۲۷۸	رہنمای ریاست الیہ
	*		رہنمای ریاست الیہ
	*		رہنمای ریاست الیہ
	*		رہنمای ریاست الیہ
	*		رہنمای ریاست الیہ
	*		رہنمای ریاست الیہ

bodyguards and of people who had been waiting for a long time. In the afternoon a small crowd gathered around a six-year-old girl who took a small piece of cloth from her pocket and said, "This is the child of the Revolution." She was very happy. The people were cheering and shouting, "Long live the child of the Revolution!" The girl was smiling and laughing. The teacher introduced the child to the people and said, "This is the child of the Revolution, its mother is Iran, the father is Islam and the teacher is Imam Khomeini. In this way the teacher introduces the Revolution to the ~~children~~ who come to realize on the anniversary of the Islamic Revolution of Iran that it has taken place six years ago. Iran has taken meticulous care to protect it from the anti-revolutionaries. As children after their birth assume the name of their father, so the Revolution in Iran has taken the name of Islam. It is called the Islamic Revolution of Iran.

It is but natural that every child needs a teacher for guidance. The Islamic Revolution has found, from the inception, Imam Khomeini as its teacher to guide it to the proper direction. The Revolutionary writer, Amin-e-Amini, indeed has caused evolution in literature by introducing the Revolution to the young readers through *The Birthday* and keeping himself within the framework of short stories. The young readers love to read it for its novel presentation.

The Islamic Revolution in Iran has brought about dramatic changes in the field of political and economic relations with other countries and social reconstruction at home. Persian literature, inter-alia, has undergone drastic change. It has purged the literature of obscenity, escapism and the blind mimicry of the West. The Persian literature has become Islamicised and more ethical. The Islamic Revolution of Iran has made the Iranians politically more conscious of their

rights and duties and brought them closer to their cherished religion - Islam. Though Iran is a theocratic state and India a secular one, but still we in India can learn a lot from the tales of the Revolution. These tales infuse the reader with a very high sense of patriotism and inspire in him the noble sentiment of championing the cause of the oppressed and the down trodden.



mothers, the mother of this child has painstakingly nurtured it with the cooperation of its father and its teacher to a six year old healthy child. It can now walk by its own. The students are kept in suspense and they are unable to make out the child. Finally the teacher reveals the name and identify of the child to them. He says the child can be none other than the Revolution, its mother is Iran, the father is Islam and the teacher is Imam khomenie. In this way the teacher introduces the Revolution to the students who come to realize on the anniversary of the Islamic Revolution of Iran that it has taken place six years ago. Iran has taken meticulous care to protect it from the anti-revolutionaries. As children after their birth assume the name of their father, so the Revolution in Iran has taken the name of Islam. It is called the Islamic Revolution of Iran.

It is but natural that every child needs a teacher for guidance. The Islamic Revolution has found, from the inception, Imam Khomenie as its teacher to guide it to the proper direction. The Revolutionary writer, Amin-e-Amini, indeed has caused evolution in literature by introducing the Revolution to the young readers through "The Birthday" and keeping himself within the framework of short stories. The young readers love to read it for its novel presentation.

The Islamic Revolution in Iran has brought about dramatic changes in the field of political and economic relations with other countries and social reconstruction at home. Persian literature, inter-alia, has undergone drastic change. It has purged the literature of obscenity, escapism and the blind mimicry of the West. The Persian literature has become Islamicised and more ethical. The Islamic Revolution of Iran has made the Iranians politically more conscious of their

in Tehran. In his infancy, he loses his mother too. Fortunately the loss of his parents was compensated by the love and affection he received from his aging grandfather. Before death, the grandfather gives him the name of his father and the prison in which he is imprisoned. The boy, in the prime of his youth, leaves for Tehran in search of his father. Two days past the victory of the Revolution and most of the prisoners have been released. At this opportune moment he arrives at Tehran and reaches the famous prison house Aaveen. After vehement enquiries the gaoler assures him of all possible help in tracing out his father. While he and the gaoler are leaving the prison house, a soldier informs them that he has detected a number of prisoners in one of the darkest cells of the prison. This news filled the lad with a ray of hope. The gaoler immediately rushes to the cell and calls for "Jafar-e-Kafshdooz", the name of the father he has presently learnt from the son. Luckily he is able to find jafar and brings him to his son. The father who has never seen his son and the son who has not seen the father hug each other very emotionally. The author of the story, Shaheed Ali Raza Shahi, hints that the Revolution has marked the end of the inglorious rule of the Shah and brought in its place new hope, inspiration and limitless joy in the lives of millions.

"The Birthday" is the pick of the story from "The Tales of Revolution". Its author, Amine-e-Amini, claims that the story has really taken place in one of the schools of Iran. Amini shows that, as usual, one fine morning the students have assembled to listen to the sermon of their teacher. In the general assembly the teacher tells the students that today is the birthday of a six year old child and they have gathered together to celebrate it. He introduces the child in a very unique and novel manner. He further says that like all other

An inquisitive boy asks his father about the writings on the placard. The affectionate father explains to him the tragedy of Karbala, the philosophy of Imam Hussain's martyrdom and the vital role played by Zainab in exposing the Satanic traits and character of the accursed Yazid. It so happened that one day the child found his father dead on the street of Tehran. He died because he had fallen victim to atrocity of the Shah. This tragic event flashed the role of Zainab in the boy's mind. He along with other sympathisers carried the dead body of his father and paraded in the streets to expose the tyranny of the Pahlavi regime.

"The Soldier" is another interesting story from "The Tales of the Revolution". The theme of the story is again picked from the tragedy of Karbala. Before the mournful events of Karbala, Hur, an army commander of Yazid intercepted Imam Hussain and the members of his family who were on their way to Kufa. Eventually when he comes to know that Yazid was on the wrong side and Imam Hussain and his family members were innocent, his conscience rebukes him. He along with his soldiers immediately desert the army of Yazid and join Imam Hussain. The author of the story "The Soldier" shows that a young soldier from the Shah's army who is duty bound to combat the forces of the Revolution, having realized the righteousness of the Revolutionaries and truth of their cause, deserts the army of the Shah and joins the rank and file of the Revolutionaries. The theme of the story transports the reader to the events of Karbala and he is apt to draw a parallel between Hur and the soldier.

In Pursuit of Father is a very touching story. A lad of class nine from Azerbaijan comes to Tehran in search of his father. He was born when the Shah had imprisoned his father

appears playing the role of the accursed and zalim Yazid while the innocent Iranians appear to be mazlooms like Husain and the members of his family. In this backdrop the revolutionary writers show the triumph of the 'good' - The Revolution over the 'Evil' - the Shah.

The soldiers of Yazid had killed Imam Hussain and all the male-members, except one, of his family in Karbala. Among those who were spared was Zainab, the sister of Imam Hussain. This virtuous great lady, who was an eye-witness to the tragedy of Karbala did not keep mum. She, by virtue of her noble and lofty character and eloquence, narrated the tragic happenings of Karbala which caused a great tremor which shook, cracked and finally uprooted the very dynasty the accursed Yazid had come from. It is only through her outspoken truth that the world is familiar with the truth for which the Imam had laid down his life with those of his dear and near ones on the scorching sands of Karbala. Zainab, thus, stands not only as the symbol of truth for all time to come but the revealer and exposer of truth and beacons those who have been fighting against injustice, tyranny and oppression. Reza Rehguzar, while writing the stories for children during the period of revolution does not fail to project the virtuous character of Zainab. He does not want the Iranians to remain passive spectators and mute characters in the socio-political pattern cast and moulded by the despotic Ruler Reza Shah Pahlavi. He wants them to play the role of Zainab in the exposition of the tyrannies of the Shah. In one of his stories, he shows that when the revolution was gaining strength against the despotic ruler of the Shah, on the roads of Tehran the placards read - "Those who have laid down their lives in the Revolution did the work of Hussain, those who are alive must play the role of Zainab, else they are the supporters of Yazid."

writers were no sons of the soil. They came from distant lands and wrote what appeared to them literally on the surface in big cities. But the true sons of Iran had a different tale to narrate. Let us hear from them about the recent past of Iran.

The Islamic Republic of Iran has produced a galaxy of writers to preserve the gains of the Revolution. Among them, Raza Rehguzar and Khaleli have sincerely taken to writing short stories for the benefit and guidance of the younger generations. They have, in a very short time, completed "The Tales of the Revolution" in two volumes. A very good collection of short stories, indeed. Some of these stories are exceptionally good and project, compare and contrast the socio-political conditions of Iran during the period of the Shah and the Islamic Revolution thereafter.

During old regime Iran was blindly imitating the western world under the pretext of modernization. With the result she had totally drifted away from Islam. The Shah had a powerful force called "The SAVAK". Savak, which literally means Security and information Organization, was meant to check the socio-political developments against the Shah in Iran. It was through this dreaded secret police that the Shah had unleashed a reign of terror and torture in Iran. Many stories revealing the brutalities of the Savak are to be found in these two volumes. The story-writers of "The Tales of the Revolution" employ two elements, namely, the religious sentiments of the Iranians, who are Muslims against the background of the tyranny, torture and brutalities of the Shah. These two elements are so finely inter-woven and blended in the stories that while reading them one finds striking similarity between the tragedy of Karbala and the brutality of the Shah on the eve of the Revolution. The Shah

epic and literary merit since Qajar days until the end of the Pahlavi era. In this period the most outstanding poet was Hafez. He was followed by Rumi, Attar, Sanai and Sadi. The Safavid period saw the emergence of a new school of Persian literature. It was during the reign of Shah Tahmasp that the first Persian novel was written. It was the story of a young man who had been sold into slavery and was captured by the 'Evil' - the Shah.

## TALES OF REVOLUTIONARY IRAN

*Retold By  
Syed Akhtar Husain*

Since time immemorial, Iran has been narrating her saga to the world through the medium of prose and poetry. She narrated the glorious deeds of Cyrus and Darius. She sang the swan song of the Sassanid kingdom. After the Arab conquest in the battlefield, Iran, the vanquished, reconquered the conqueror by her superior culture and philosophy. Iran gave a new dimension to Islam. It injected and unfolded the philosophy of religion - sufism through the writings of such great mystic poets as Attar, Sanai, Umi, Sadi and Hafiz. Her Safavid rulers changed the panorama of Iran by erecting noble edifices and magnificent mosques and minarets. In the mid 20th century, she appeared as a westernized country with Raza Shah Pahlavi the "modern-man" of Iran. The Shah instituted a team of western scholars to project her image as a modern country and he as its sole architect. These hired

importance and none cared to look at it.

All three of them were waving at our train. They had received the currency not from this train, or for the simple reason that, as they thought, it was this train which had run over the weak and emaciated girl and got them rid of her. She could neither climb up the hills to collect the leaves nor assist her father at work nor sweep the pathway.

Last afternoon, when we left Ahwaz, we saw an old man on a donkey. When the train passed by his side he smiled at the passengers and they waved their hands at him. Some of them even greeted him loudly. If he had asked anything from the passengers, they would have gladly given him. Yesterday, they were all gay and happy. They were out for fun and frolic on any pretext. But today at Cham Sangar...? Nobody reciprocated to their farewell!

Their hut was visible, in spite of being sultry due to the bright sun-shine. They were waving at our train. I realized it wasn't yet late to wave back at them.

I put my hand in my pocket and pulled my handkerchief out. I stood on my toe, raised my hand and head above the window and waved the kerchief in the air... Perhaps it was not late.

My friend cried out and pulled me back. He removed me away from the window and pulled up its pane. The train had entered the tunnel. Had there been a slight delay in his reaction, in all probability my hand would have been shattered.

My friend pulled himself out of the window. His big paunch was heaving up and down. He was gasping for breath and looked pale. But there was an air of satisfaction about him. The alms that he had given filled him with a sense of pride.

"You have seen the poor girl. She was about to be run over by the train... God has showed mercy to her".

"Mercy?"  
Except this, I could not say anything in reply. He also uttered something which I could not catch.

The train was on a curve and the girl could not be seen now. But one could see their sultry hut at a distance and their little goat grazing and sniffing the new tender leaves.

The children with bare feet ran into the hut and came out with a woman, their mother. All three of them waved and bade adieu to the train.

The train had moved quite a distance. It had reached another tunnel. There was nothing worth seeing. The passengers had kept their heads inside the window. They were either playing poker or had dozed off. Some were laughing and talking about the good times they had in their lives.

There was nothing to see outside, except their hut at a far distance. Their mother along with her children still standing and waving at the train. The sight was nothing of

body. This was the third time when he looked at me and apologized.

Those children with bare feet became peevish. They could not find a single customer for their bouquets. My eyes were constantly fixed on them and on their desolate hut, sultry due to the bright sun-shine. I did not respond to my friend's apology.

The train started moving sluggishly. The children were running after it. A young girl, weak and emaciated stumbled and fell into the pot-hole. She fell flat on the ground just half a span from the rail. Her bouquets of faded and stale flowers also fell into the nearby pot-hole filled with slush. She did not groan. Perhaps, she did not have the strength for it.

My friend, who was still leaning against the window cried in horror. He pushed me aside. I was dumb founded. He was extremely horrified at the sight. He straightened himself with an effort. He put his head out of the window and leaned out upto his chest where the girl had fallen down. He looked at her for a moment. He muttered and flung a currency note at her.

The young girl was still lying motionless, half a span from the heavy wheels of the train. Her dishevelled hair was smeared with slush. She did not move to grab the currency note. Perhaps she could not muster up enough strength for it.

The other two children, with bare feet ran with a lightening speed and grabbed the currency note still suspended in the air and rushed to their sultry hut.

"khe" instead of "qe". If the train had halted a little more, they would have brought down the price to ten shahi.

My co-passenger leaned against the window pane with his bulging paunch, keeping his eyes riveted on the bare feet of the children. It looked as if he was counting the money which he had been distributing as alms to the poor right from the commencement of his journey.

He, too, could not sleep due to the jerk in the train. Perhaps, it was the first time that he was passing a sleepless night. He was narrating the events of his latest journey to Palestine and Syria. Of his four month' journey, he could only remember and tell us about the large citrous fruits that he had seen. All the time, he was talking of the juicy oranges of Haifa which watered one's mouth.

I knew him since my days at the High School. In this journey, when I met him in the corridor of the train, we could only exchange formal greetings. I could not think of anything to carry on the conversation with him. He also realized it and moved ahead. He held the ticket in his hand and was trying to locate his coupe.

For the last twenty four hours, we were in a small coupe. He was narrating the events of his journey to Palestine. It seemed he was afraid of facing me. I also preferred to remain silent. Only once he asked me to play poker with him. I did not accept his invitation. He was a bit annoyed but it soon subsided when he found another good player. The train whistled and jolted a little. My friend, who was leaning against the window, slipped. He landed on me with his bulky

verdant. It was spring. Everything was enveloped in the gaiety of spring except their hut.

At the skirts of the mountain, by the side of the river, their clay hut protruded above the damp surface of the river bank as if it had thrust its claws in the soil and firmly held itself on the slope of the mountain. The rain had washed its roof making fissures in it and in the wall. In the interior, it perhaps dripped at night when the inmates were asleep.

There was a little goat sniffing the ground and the cocks flapping over the heads and shoulders. The children, both adolescent and the young, had made bouquets of mountain violets and poppy buds. They hanged around the train and persistently solicited the passengers to buy their cheap Naurooz gifts.

They were poverty stricken and half clad. As they were looking up towards the windows of the train, their bare feet, invariably slipped into the pot-holes filled with rain water and slush.

Nobody paid any attention to their cheap bouquets. Everyone had already got the bigger and the better ones from Khozistan and from different stations as Andimishk and others in its vicinity. The flowers, visible through the window panes of the coaches had filled the air with their sweet fragrance.

The children ran up and down the train and incessantly offered their bouquets. They were selling their bouquets made up of cheap, common flowers at two and one qeran, pronouncing

If the train had haltered a little more, they would have brought down the price of tea.

Leaning against the window-pane with his feet resting on the floor, he was looking out of the window at the scene outside. The train had stopped at a station, and he was waiting for the passengers to get off. He could see the platform and the station building across the river. The sun was low in the sky, and the light was dim.

## A FAREWELL

By

**Jalal Aale -e- Ahmad**

Whistling, the train negotiated the tunnel. It made a small circle and came to a halt at the station known as Cham Sangar.

It was the fourth day of the Iranian new year, Naurooz. The sun was shining over the mountain with a pleasant warmth. Behind the station, beneath the bridge, flowed a violent river, roaring and producing foam and froth.

The station was located at the foot-hill around which flowed the river. At the far distance towards the south, the fine mantle of spring fog enveloped the landscape and presented a beautiful sight. The snow, lying over the passes and the bed of the surrounding valleys reflected the sun-light.

The sun had just risen behind the mountain. The meadows, still wet with last night's rains, appeared beautifully

years back. He should have selected some stories from the modern story writers like Mohsin Makhmalbaf, Mohammad Afghani, Samin Danishwar and others. Moreover, some of the writers selected by the translator are not basically story writers. We may say only Jalal Aal-e-Ahmad a contemporary story writer whose story entitled "A Farewell" has been included in this collection which we are reproducing here for our readers. Tales of Revolutionary Iran retold by Syed Akhtar Husain is also given here to have a glimpse of his style of translation.



Shahnameh of Firdowsi and Masnavi of Roomi and works of Nizami and others and these collection of stories are treated as classics.

The fabric of the modern Persian short stories is interwoven out of incidents of the socio-political struggles in the society to which the fertile imagination and appropriate expressions of the writers give the finishing touches. These stories evince the cross-section of society with all its merits and demerits and different currents and cross currents prevailing in the society, are exposed and vividly portrayed in concrete and tangible form.

The book "Tales from Iran" by syed Akhtar Husain introduces some of the modern Iranian short stories to the readers not acquainted with the Persian language. They are the windows through which they can peep into the modern Iranian mind and society and social, economic and political problems faced by the common man, like the disparity in the standards of living of urban and rural population.

The book is almost a literal translation of a few short stories in the modern Persian language. Though their authors namely Ahmad shamlu, Mohammad Hijazi, Saeed Nafisi, Yusuf Etesami, Lutf Ali Suratgar, jalal Aal-e-Ahmad are famous men of letters but their works unlike the works of other modern Persian writers as Sadiq Hedayat, Jamal zadeh and Sadiq chubak, have not been profusely translated into English. This book is an attempt to fill this void and draw the attention of the readers towards these writers who touch the core of human heart.

The translator has selected the stories written some 50

Iran is no exception in this contest. She has produced some outstanding story writers and tale tellers (Dastango-Qissa Khwan) from ancient times till modern days. The art of fiction writing was not ignored in Iran even after the Islamic Revolution. The Revolutionary leadership was well aware of the role of story writing in character building of the nation at large. The cultural side of the Islamic Revolution of Iran is much open to the outerworld. That's the reason why an Iranian writer speaks a language of metaphors universally understandable, particularly the writers of post-revolutionary period occupy a dignified position among the literary figures of contemporary Persian literature.

"Tales from Iran" by Syed Akhtar Hussain printed at 1MH press, New Delhi in 1990 is a collection of 8 stories written by leading modern writers of Iran translated into English.

As we know translation plays a very significant part in the propagation of finer values and literary thoughts of one language to another. It provides an opportunity to have glimpses of ideas prevalent in foreign literature and society. Iranian literature and its culture have a rich legacy of over a millennium. Even now the popularity of Persian literature is so great that new editions of the classical works in Persian prose and poetry are being printed over and over again.

The tradition of story writing in Iran is several centuries old. The stories were called "HIKAYAAT" DASTAAN" and "QISSE H" (Tales) where the authors and poets narrated old stories or personal experiences in prose like Gulistan of Saadi and Qabus Nameh of Amir Unsurul Maali or in poetry like

## REVIEW ON "TALES FROM IRAN"

By

Dr. Syed Sibte Hasan Rizvi

Story telling is as old as mankind itself beginning with the story of Adam and Eve. Taking interest in a story is not peculiar to any particular people or place, rather it is a common phenomenon on all over the world. Writing or reading is not a pastime activity, but a voyage through tides of time.

Marvellous works like the fable of Aesop and the Arabian Nights are the most precious heritage of entire human race. The art of short story writing is indebted to many writers belonging to different cultures and societies. After all who can deny the brevity of Maupassant from France, the keen perception of Chekov from Russia, the wit of O. Henry from America, the criticism of life made by Jack London from England, the mastery of Amrita Pritam Karishn Chander and Bolwant Singh from India the behavioral studies of the society made by Intezar Husain and A. Hameed of Pakistan and others.

immigrants who established Muslim culture in the Indo-Pak sub-continent during the Ghaznavid and the subsequent periods, came through Ghazni and Bukhara, the entire cultural pattern became more diversified. Even then, out of several strands which provided the warp and woof of Muslim civilization in the Indo-Pak sub-continent, the most dominant during the period of Muslims, was the influence of Central Asia. After the establishment of Muslim Delhi, the administrative system was modelled on that of Ghazni. Muslim political institutions, military and administrative organisation, ethics and jurisprudence, infact the entire pattern of Muslim life bear the impress of Ghazni and Bukhara.

All the Saints who played an important role in the spread of Islam also belonged to Iran. Some of Islamic sects like Ismaili came from Iran to Indian sub-continent, established their rule, and from here towards Khurasan. The last page of this story was asking for the support, to defend Sindh against the British rule by the Talpur ruler of Sindh. As the influence of British rule started increasing in the Indo-Pak sub-continent the cultural link in Iran and Pakistan started weakening.

After the independence of Pakistan we hope to have the same cultural ties between Pakistan and Iran. Pakistan due to its geographical location can play a vital role for the integrity of Muslim unity and strength.

In the last but not the least I must acknowledge with deep gratituded the Director General of Archaeology and Museums, Dr. Ahmad Nabi Khan for the warm reception and organization of this seminar. I also owe my gratitude to Asma Ibrahim, Assistant Director, Department of Archaeology for extending so much cooperation in translating my Persian paper. I wish all the prosperity for Pakistan and I am sure that Pakistan will play its due role in this venture.

hoisted for the first time on the soil of the Indo-Pakistan sub-continent in Sindh. He then moved towards Aror (near modern Rohri), Sewistan and Brahmanabad. After brief sieges the towns were surrendered and soon Mohammad Bin Qasim proceeded to complete the conquest of Multan. Raja Dahir was pushed further in Sindh. Soon Mohammad Bin Qasim was master of whole Sindh and some part of the Punjab. Following the way of Mohammad Bin Qasim the other Muslims went to Malabar coast upto Cali-Cut and Colombo. They started forming their own colonies and mosques.

The third and more important stage is the campaign of Mahmud of Ghazni. He came to Peshawar and conquered it. Iran was a civilized country at that time with Islamic culture. He brought that Islamic culture with him. Specially in the north-western sub-continent he worked real hard for the spread of Islam. Of more lasting importance than the vicissitudes of the house of Mahmud is the cultural heritage of Ghazni. We find the sub-continent vigorous and the Cities had become great cultural centres. The Muslims started speaking Persian and later on it became the court language and a symbol of Muslims. Thirty sultanates were established. The rulers mostly came from Iran. The descendants of Mahmud Ghazni built a new state for Islam. This Iranian influence later on evolved in the formation of Pakistan. After its independence it became a Muslim State. This was all because of the adoption of Iranian culture. The Ghaznavid occupation of the sub-continent had even more far reaching results than another rule. The invisible and indirect consequences of Ghaznavid rule were even more profound. Persian, which was adopted as the court language and was vehicle of literary and cultural expression during the Ghaznavid period, continued to hold its position throughout the Muslim rule. Partly on account of linguistic affinity and partly on account of the fact that the waves of

particularly thankful for the hospitality extended to us by

King went to India to the Court of Poalakissen-II, the King of Punjab. The paintings of the same are still seen at Ajanta Caves. Spices, chess, medicine, clothes, silk clothes different kind of animals, perfumes came from China and India to Iran through Silk Roads. From Royal Road (Shah-rahe-i-Shahi), the road to the west, spread cultural and military influences all over Syria, Iran upto the Palmira extending to the other main cities of Middle East and connected the major ports of Red Sea, Aden and Persian Gulf. But the most important and creative relations between Iran, India and Sindh were after the rise of Islam.

The advent of Muslims in the sub-continent can be divided into three major stages. First stage was in 42 Hijra, by the army of Ummayed Caliph under the general called Mohlab via Khurrassan and Khyber Pass. He conquered Peshawar onwards to Lahore, and Multan collected wealth and went back to his native country. But we find no preaching of Islam by him.

Second stage is the expedition of Muhammad Bin Qasim, who stayed in Shiraz for about two years and recruited a number of his soldiers from there. Unlike Mohlab, he had love for Islam and during his stay in Shiraz he worked for the preaching of Islam. Thus Iranians and Arabs joined their hands together and conquered the land of Sindh. Iran is proud of this fact that Iranians fully co-operated with Arab Mujahids for Islam.

The Arab general with his strong and powerful army marched against Debal, by way of Shiraz and through Makran. Debal was protected by strong stone fortification and the garrison offered a stiff resistance, but ultimately the fort and the temple were captured and the Muslim flag was

In this way India found connections with Iran. The Achemenians built roads because of which the two branches of Aryans renewed their relationships which continued till the advent of Islam in India. During the rule of Achemenians, Parthians, the period of which extends more than 1000 years this region, N.W.F.P and Punjab remained under the influence of Iran.

Three major roads (Grand Trunk Road) were built by Achemenians, connecting Africa, Asia, Middle East. One of these main roads, was later on called the Silk Road. The same roads which were connecting China and India were connected to Iran. The second road was called Rahi-Shahi or the Royal Road connecting "Pasar-gad" capital of Achemensians to Lydia and its capital 'Sard'. The third road was marine road connecting the Red Sea to Arabian Sea, the Persian Gulf and the Indian Ocean. These roads played a vital role in establishing the political, cultural and religious ties between Iran, Middle East countries, Egypt, Arabia and so on. Religion, language, civilization, and culture of Iran were spread here. It was from these roads that the commerce between the countries of this region started. The language started to mingle with each other agricultural systems were exchanged. These were not only the roads but were the reasons for exchange of civilizations and ideas. Through exchange of knowledge we find Sanskrit words in Arabic, some Arabic and Persian words in Prakrit script. From Khurasan road the physician of Iran came to the court of Emperor Anoushiravan and went to the Punjab and brought back with him the famous book entitled "Pancha Tantra" (Book of Wisdom). This was translated into Pehlavi language and later on into Arabic and entitled as "Kalilah va Dimnah" and was spread all over the world.

From the marine route, the Ambassador at Sassanian

particularly thankful for the hospitality extended to us by the great nation of Pakistan.

"The interest in the happening of the past is on account of their contribution to making of the present."

This saying fits to our project very well. The Silk Roads are not only roads of military expeditions and commercial trips but they were the ways of dialogue, understanding, spreading knowledge, invitation for humanity. It is the duty of us, the Muslims to invite other people, other nations, for our this purpose, that is to call people for peace, that is what Islam preaches us. The story of the Silk Roads is full of incidents and picturesque personalities, and attracted many talented writers to write on this particular topic. The object of our seminars on this subject is to know and understand people, to learn about their ideas, institutions and movements. It is an ambitious undertaking, and one connot but admire the grand project like this. I hope the implementation will bring out the results upto our expectations.

Contacts between Iran and the sub-continent dates from the ancient times. After the migration of Aryans to the sub-continent and Iran, they gave their names to both the countries, calling Iran "Airan" and the Sub-Continent "Arya Varta" (the home of Aryans). The relations between the two nations were never severed. In the oldest books of India like four vedas, Persian religious books, "Avesta" the holy Zorastrian book, the evidences of this unity are clearly visible. Not only in ethics, but also in words, the proper names, plenty of similarity is found.

In Indian tradition to travel abroad from home was prohibited, for this reason other lands and nations remained unknown to India. But from the 6th Century B.C. the power of Achemenians extended upto Peshawar, Punjab and Sindh.

# THE EFFORTS OF IRANIAN MUSLIMS TO PREACH ISLAM IN SINDH

By

Prof.M.H.Faridani

*It is the text of the speech of Prof.M.H.Faridani delivered in the conference in connection with UNESCO sponsored project "Integral Study of the Silk Road" at Karachi in November 1990.*

*It was the last speech of Dr. Mohammad Husain Mashayekh Faridani, former Iranian Ambassador in Pakistan. He expired on 3.12.1990 due to heart failure on the ship that was carrying representatives of different countries from Karachi to Bombay for Integral Study of the "Silk Road."*

Mr. Chairman,

Dear ladies and Gentlemen,

It gives me immense pleasure to be here in Pakistan in connection with UNESCO sponsored Project "Integral Study of the Silk Roads:Roads of Dialogue". I am

# DANESH

QUARTERLY JOURNAL

Chief Editor:

Cultural Counsellor Islamic Republic of Iran

Editor:

Dr. Syed Sibte Hasan Rizvi

Honorary Advisor:

Dr. S. Ali Raza Naqvi

Published by:

Office of The Cultural Counsellor  
EMBASSY OF THE ISLAMIC  
REPUBLIC OF IRAN

House No. 25, Street No. 27, F/6-2  
Islamabad, Pakistan.

0 818204/818149

# DANESH

Quarterly Journal

of the  
Office of the Cultural Counsellor  
**Islamic Republic of Iran,**  
Islamabad

Autumn, 1990  
(Serial No. 23)

A collection of research articles  
with background of Persian Language  
and Literature and common cultural heritage  
of Iran, Afghanistan and Indo-Pak Subcontinent.

